

# فَتْهُ الْفَقِيهِ

مُصَنَّعٌ :

مُحَمَّد عَلَى الْبُرَيْفُ مُحَمَّد شَرِيفُ الْمُخْتَكَ كُوُنُوْزِي عَلَى

فَرِيدِ بَكْرِي مُحَمَّد اَرْدُو بَارَازَر لَاہُو

مِنْ يَرْدَ اِلَّهِ بَهْ خَيْرًا مِّيقَمَهُ فِي الدِّينِ

# فقہ الفقیہ

فقیہ اعظم حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی کی  
تصینیف لطیف جس میں فقہ، ضرورت فقہ اور مشکلہ تقليد پر  
 بصیرت افروز مقالات ہیں۔ امام المسلمين حضرت امام ابوحنیفہ  
پر حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔  
ہدایہ اور دروغ مختار پر غیر مقلدین کے اعتراضات  
کے جوابات اور آخر میں غیر مقلدین کی فقہ کے عجیب غریب  
مسائل درج ہیں۔

فقہ کے اسانیدہ اور طلبہ کے لیے ایک عظیم دستاویز عامۃ الاحنا  
کے لیے ایک حسین تحفہ

ناشر: فرمیدہ بک طالع  
۳۸ اردو بازار لاہور



نام کتاب ————— فقہ الفقیہ

تصنیف ————— نقید اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلی رحلاۃ

ترتیب و تدوین ————— عطاء المصطفیٰ اجمیل ایم اسے کوٹلی لوراں

کتابت ————— طالب حسین

ناشر ————— سید اعجاز احمد

(درکن پاکستان سُنی راسٹر گلڈ)

طبع

قیمت ————— روپے

# فہرست مصتاہیں

پہلی نظر

پہلا باب - مقالات ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ ۵

۶	ضرورت فقہ
۲۶	فقدر اصل حدیث ہے
۳۲	تقلید
۴۶	محدثین کرام مقلد تھے
۴۷	امام اعظم کا مذہب، تقویٰ اور احتیاط
۷۸	اربعین حنفیہ

دوسرا باب - اعتراضات کے جوابات ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ ۳۳۶

۱۹۹	ہدایہ پر اعتراضات کے جوابات
۲۰۷	درختار پر اعتراضات کے جوابات
۲۵۰	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بن ابی شیبہ کے اعتراضات کے جوابات

تیسرا باب - فقہ وہابیہ ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ ۲۰۲

۳۲۸	فتاویٰ اشنازیہ
۳۲۸	فقہ وہابیہ کے چند مسائل

# پہلی نظر

قیام پاکستان سے پہلے مولوی شاد اللہ صاحب امرتسری کی ادارت میں ہفتہ دار خبراءہل حدیث شائع ہوا کرتا تھا جس میں انہر اربعہ بالخصوص امام المسلمين سیدنا امام اعظم کے خلاف مضایم ہوا کرتے تھے۔ اہل حدیث کے بعض علمکاروں تو اخلاقی حددود قیود کو بھی پہنچانے جایا کرتے تھے بھر امرتسری سے علیم مراجع الدین رحمہ اللہ کی ادارت میں احناض کے ہفتہ دار الفقیہ کا اجزاہ ہوا جسے بوصیرہ کے جلیل القدر علماء کا تعلیمی تعاون حاصل رہا۔ الفقیہ کے مصنفوں نگاروں میں فقیرہ اعظم حضرت مولانا ابوالیوسف محمد شریف کو مولوی رحمہ اللہ مردم حضرت تھے۔ الفقیرہ کے فائل اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت فقیرہ اعظم نے اہل سنت و جماعت کی گرانقدہ رخدادات سرا نجام دیں۔

مدت سے میری خواہش تھی کہ جدی المکرم حضرت فقیرہ اعظم کے وہ مضایم جو فتو کے متعدد ہیں، جمع کر کے شائع کر دیے جائیں لیکن بعض نامساعد حالات کے باعث لارڈ ایکسیکیل سے قاصر رہا۔ المحمد اللہ! آج یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جدی المکرم کی فقہی تحریریں جمع کر کے احناض کے ان فرزندوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سیدنا امام اعظم کی تلقیید کو سرمایہ اختیار سمجھتے ہیں۔

مغل آور دسداری سوئے دوستان

سید اعجاز احمد صاحب مالک فرید یک سال کامنوں ہوں کہ ان کے تعاون سے ہی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خدمتِ دین کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے آمین۔

عطاء المصطفى اجميل ايم - اے

## پہلا باب

# مقالات

- ◆ ضرورت فقہ
  - ◆ فقہ در اصل حدیث ہے
  - ◆ تقلییہ
  - ◆ محدثین کرام مقلد تھے
  - ◆ امام اعظم کا مذہب - تقویٰ اور احتیاط
  - ◆ اربعین حنفیہ
-

ضرورت فت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَ

السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

أَمَّا بَعْدُ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے  
لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا :  
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْدُ دُونَ  
یوں تو ہر شے عبادت میں مصروف ہے۔ ملائکہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے  
يُسْتَحْوُنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ رَبُّ  
و دیگر اشیا کے متعلق فرمایا :  
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يَسْتَعْجِلُ بِحَمْدِهِ

لیکن جن، انسان کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوکر ہوتا  
ہے۔ ایک غلام، نوکر کی خدمات تمہیشہ متین ہوتی ہیں۔ یعنی جس کام کے واسطے  
اس کو نوکر رکھا گیا ہوتا ہے۔ وہی کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی شخص اس سے اور  
کام بھی لے تو سکتا ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہو گا جس میں نوکر عذر کر دے کر میں

اس کام کے لیے نوکر نہیں ہوں۔

مشلاً اکسی شخص نے ایک ادمی کو دیوار بنانے پر نوکر رکھا ہے۔ اگر اس کو کہے کہ مہتر کا کام بھی وہی کرے تو وہ عذر کر سکتا ہے کہ میں اس کام کے لیے نوکر نہیں ہوں بلکہ اولاد جس پر پر نسبت نوکر کے زیادہ تسلط ہوتا ہے۔ بعض کاموں میں وہ بھی انکار کر دیتی ہے۔ لیکن غلام کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی خاص کام مقرر نہیں ہوتا۔ ایک وقت تو وہ اپنے آفکی نیابت کرتا ہے اور ستمہ پوشک پہنے ہوئے وہی کام کرتا ہے جو اس کا آقا کرتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے نجس کپڑے صاف کرتا ہے کہی وقت بھنگی کا کام کرتا ہے۔ کسی وقت سفارت کرتا ہے تو غلام نوکر بھی ہے مہتر بھی سفیر بھی خلیفہ بھی۔

اسی طرح جن والسان بمنزلہ علام ہیں اور دوسری مخلوقات مثل نوکر کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوقات کی عبادت کو تبیح و نقدیں وحده سے تغیر فرماتا ہے اور انسان کی عبادت کو بلفظ عبدیت، پس ان کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ ایک وقت تو نماز روزہ میں ہیں۔ دوسرے وقت سونا۔ قصلتے حاجت کرنا۔ لوگوں سے ملنا عبادت ہوگا۔ دیکھو جب پانچانہ یا پیشاب کا زور ہو تو نماز پڑھنے کی ممانعت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے ایک ایسا وقت بھی سے کہ اس کو اس وقت سجدہ میں جانا منع اور بیت الحلا میں جانا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو شدت سے ہجوب کی ہو تو شریعت حکم کرے گی کہ پہلے کھانا کھا لو تو چھنماز پڑھو۔ اسی راز کو امام اعظم حمد اللہ نے فرمایا:

لَا إِنْ يَكُونَ أَكْلًا كُلُّهُ صَلَاةٌ حَيْثُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَلَاةٌ  
كُلُّهَا أَكْلًا۔

”یعنی میرے تمام کھانے کا نماز ہونا بہتر ہے اس سے کمیری سب نماز کھانا ہو جاوے۔“

کیونکہ جب کھانا کھانے میں نماز کا خیال رہا تو یہ سارا وقت انتظار صلاة میں گزرا اور انتظار صلاة میں نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر بھوک میں نماز شروع کر دی تو دل کھانے میں مشغول ہو گا تو سب نماز کھانے کی نذر ہو جائے گی۔ یہی فہم ہے جس کی بدولت ان حضرات کو فقیر اور مجتهد کہا جاتا ہے۔ آج یہ فہم مفقود ہے۔

اسی بنابر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے کہ اگر جسم ہند میں رہے اور دل مکہ میں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جسم تو مکہ شریعت میں ہو اور دل ہندوستان میں۔ غرض انسان کی شان عبادت کی ہے تو اس کا ہر ایک کام چلنا پھرنا بیس وغیرہ کسب میشست تکاہ، سونا، جاگنا بلکہ اس کا اپنی ذاتی ضرورتوں میں مشغول رہنا سب عبادت الہی ہے لبشر طبیعہ شریعت کے مطابق ہو۔ جتنے کام بقاء شخصی یا اونٹی سے متعلق ہیں۔ ان کے کرنے کی ترغیب و اجازت شریعت میں موجود ہے۔ بلکہ ان کو اچھی طرح سے ادا کرنے پر جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وعدہ اور خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طرقوں سے اخراج کرنے پر سزاۓ ابدی کا وعدہ فرمایا گیا تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان ہر فرض ہے کہ جو کام کرے حواہ وہ کام اس کی ذاتی ضرورتوں کا ہو یا اور، اہنی طرقوں پر کرے جو کہ خدا اور رسول علیہ السلام نے بتائے ہیں تاکہ اس کا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، عیش و عشرت خرید و فروخت کسب معاش وغیرہ سب عبادت ہی عبادت ہو جائے۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کام کے طریقے ہر مسلمانوں کو بتلانے گئے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں لیکن چونکہ قرآن کریم و حدیث شریعت کو صحیح کرنا کانے میں دشواریاں واقع ہوتی ہیں جس کے مختلف اسباب ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص صفات نہیں رکھتا کہ خود قرآن و حدیث سے نکال سکے۔ اس لیے علماء شرکر اللہ عیجم نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور مختلف آیات و احادیث سے تحقیق کر کے ہر ایک مسئلہ بیان کر دیا اور ایک مدت کی کوشش کے بعد انہوں نے ہر ایک جزوی کا حکم قرآن و حدیث سے نکالا۔

کرنے کیلئے علم متعلق مدون کر دیا جس کا نام فقہ ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ فقہا علیہم الرحمت نے جو کام کیا کہ اس قدر ضروری تھا۔ اور ان کی جان فشانیاں کس قدر قابل داد ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ قرآن کریم کی فضاحت و بلاعنت اعلیٰ درجہ میں واقع ہے جس کو مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے کیونکہ جب دعوے سے کہا گیا کہ **فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ** تو کسی سے نہ ہو سکا کہ ایک دوسرے لکھ کر پیش کرے جو فضاحت و بلاعنت میں قرآن کریم کا جواب ہو سکے اور کلام ملنے کا یہ خاص ہے کہ باوجود عام فہم ہونے کے کچھ مضامین اس میں ایسے بھی ہیں جو خاص خاص لوگ اس پر مطلع ہو سکیں۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح تو کنایہ کے ابلغ ہونے کی کوئی وجہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا پورا پورا مضمون سمجھنا خاص لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ پھر جس طرح عبارت الفرض سے مسائل سمجھے جلتے ہیں دلالت، اشارت اور اقتضاء سے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے سوائے نظر و معانی سے اتنے مباحث متعلق ہیں کہ ان کے بیان میں خاص ایک فن اصول فتح، مدون ہو گیا۔

پھر اسی قسم کی وقایتیں احادیث کے سمجھنے میں بھی ہیں اور احادیث میں بہت کچھ اختلاف واقع ہے۔ ناسخ منسوخ حقیقت، مجاز، عموم خصوص محل مفسر وغیرہ معلوم کرنا پھر مقصود شارع کا سمجھنا ہر ایک کام نہیں۔ بلکہ ہر ایک کلام کے سمجھنے میں قرائی سے مدد ای جاتی ہے گو الفاظ مساعدت نہ کریں اور یہ ہر کسی کام نہیں۔

صحیح خواری میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بونزدیب کی طرف سمجھا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صاف طور پر یہ نہ کہا کہ آئسلہمہنا۔ یعنی ہم اسلام لائے بلکہ صبائنا صبائنا کہا۔ یعنی ہم اپنے وہیں سے چھکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل اور قید کرنا شروع کر دیا

اور ایک ایک قیدی ایک ایک شخص کے حوالہ کیا۔ ہر ایک کو حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے  
قیدی کو قتل کر دے میں نے کہا:

وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِيَّيْ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِيْ أَسِيرِيَّ  
خُذَا کی فرم میں اور میرے ساتھی ہرگز قتل نہ کریں گے۔

پھر جب ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر  
دعا کی اور فرمایا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَ أَبْرَءُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتِيْنَ۔

اے خالد نے جو کیا ہے۔ میں اس سے بری ہوں یہ انہاں دھرم بترزا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معنے سمجھنے کے لیے قرآن سے مد لینے

کی بہت ضرورت ہے۔ مطلب ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ ہدیث وہی مقصود نہیں ہوتا  
اس لیے قرآن و حدیث کا پورا پورا مطلب سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

حضرت حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے: اُتِيَّتُ جَوَامِعَ الْكِلَمِ۔ اس سے بھی

ظاہر ہے کہ حدیث کی عبارتوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ جن سے مسائل کا استنباط مختلف

طور پر ہو سکتا ہے۔ ان کا معلوم کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں۔ پھر اکثر احکام میں علیتیں بلوظ

ہو اکرتی ہیں اور عدلت کا متین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ غرض اس قسم کے مختلف اسba

سے ایسے علماء کی ضرورت ہوئی جو شارع کے مقصود کو قرآن اور وجودت طبیعت سے معلوم  
کر سکیں۔ ان ہی کو فقیہ اور مجتهد کہتے ہیں۔

ترمذی نے کتاب الجنائز میں فہرست علیہم الرحمۃ کی نسبت لکھا ہے:

وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ۔

یعنی فقہاء حدیث کے معانی کو زیادہ جانتے ہیں۔

ترمذی کے اس قول کی تصدیقی حدیث کے اس جملے سے بھی ہو سکتی ہے جو حضور علیہ السلام

نے فرمایا۔ ہے:

نصر اللہ عبده، اس سمع مقالتی فحنتھا و رعاها و اداها فرب  
حاما، فقه غیر فقیہ و رب حامل فته الی من ہو افقہ منه  
کر خذ تعالیٰ ترقا زہ رکھے اس بندے کو جس نے میرے انوال سے اور یاد کر  
کر لوگوں کو پہنچایا جنہوں نے سننا نہیں کیونکہ بہت روایت کرنے والے  
سمحدار نہیں ہوتے اور بعض سمجھدار ہوتے ہیں مگر جن کو وہ پہنچاتے ہیں وہ  
ان سے افتقہ ہوتے ہیں۔

بلکہ دارمی کی روایت ہے:

فرب حامل فقه ولا فقه لہ۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایت کرنے والے محدثین کو سمجھ نہیں ہوتی۔  
تو معلوم ہوا کہ محدثین کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ روایتیں فہما کو پہنچاویں تاکہ وہ خوض و فکر کر کے  
سائل استنباط کریں جن سے راویوں کی سمجھ قائم ہے کیونکہ ظاہر ہے جو افتقہ ہو گا۔ وہ  
حدیث کے مطالب بِنَبْتَ غیر فقیہ کے زیادہ سمجھ گا۔

اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حدیث میں سوائے لفظی ترجمہ کے اور بھی بہت  
خنی راز ہیں جن کی طرف اوپتیت جو اعم الکلام میں اشارہ ہے۔ اگر بجز الفاظ کوئی  
اور خنی راز نہ ہوتا تو حامل حدیث کا غیر فقیہ ہونا بِنَبْتِ محول الیہ کے یا بِنَبْتِ اس کے  
کم فقیہ ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یقیناً احادیث نبویہ میں علاوہ مدلولات  
ظاہریہ کے اور بھی مدلولات خنیہ ہیں جن کو بعض علماء سمجھ سکیں گے اور بعض نہیں کیوں کہ  
السانی فطرت میں تفاوت حب کر علماً و عملاؤ موجود ہے جس کی طرف آیت قرآنی فوق  
کل ذی علم علیسو کا اشارہ ہے۔

جب پر حال ہے تو مستنبطین کا استنباط بھی بخیال نہ ہو گا کسی کا مأخذ لطیف و قیق

ہو گا اور بعض کا جلی و ظاہر۔ بھی وجہ ہے کہ حضرت امام عظیم رحمہ اللہ کا استنباط جو نہایت ادق ہے۔ ظاہر مینوں کی نظر میں خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس حدیث میں صرف پہچانے کا یہ ثواب بیان کیا گیا ہے تو تحریج مسائل کا ثواب اسی پر قیاس کرو۔ ترمذی کے اس قول کی تائید اس روایت سے ہو سکتی ہے۔ جو عالمگیری ہیں بحراائق سے لکھی ہوئی ہے۔

کہ عیینی بن ابیان بڑا جلیل القدر محدث تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے مدینہ کے اول میں مکہ شریعت آیا۔ اور انکیب مدینہ مکہ شریعت رہنے کا ارادہ کر کے چار رکعت فرض پڑھنے لگا تو امام عظیم رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد ملا۔ اور کہا کہ تو نے ظالی۔ کیونکہ تم منا کی رائیں شہر کہتے سے باہر رہو گے۔ اس لیے تمہاری نیت افامت درست نہیں ہوئی۔ پھر میں نے دو گانہ شتر دع کیا۔ جب منا سے واپس آئے تو مجھی دو گانہ شتر دع رکھا۔ پھر وہی فقہہ ملا۔ اس نے کہا کہ اب تو نے دوبارہ خطا کی کیونکہ اب تم مکہ مغلظہ میں مقیم ہو۔ جب تک وہاں سے الوداع نہ ہو چار پڑھو۔ عیینی بن ابیان کہتے ہیں کہ میں شیہ بات سن کر طلب حدیث کو حچوڑ کر فقر کی طلب اختیار کی اور پورا فقیہہ ہوا۔

اور اس قول کی تائید یہ روایت بھی کرتی ہے۔ جو خیرات الحسان ص ۶۴ میں لکھی ہے۔ ایک بار اعمش رحمہ اللہ سے کسی نے چند مسائل پوچھے۔ اس مجلس میں امام عظیم رحمۃ اللہ بھی حاضر تھے۔ اعمش نے امام عظیم رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ آپ کا ان مسائل میں کیا قول ہے۔ امام صاحب نے ان سب مسائل کا جواب دیا۔ اعمش نے کہا اس پر کیا ولیل ہے۔ امام صاحب نے فرمایا وہی احادیث جو آپ سے مجھے پہنچی ہیں اور چند حدیثیں مع اس ناد پڑھ کر سنادیں اور طریق استنباط بھی بتا دیا۔ اعمش نے نہایت تحسین کی اور فرمایا جو روایتیں میں نے سو دن ہیں بیان کی تھیں۔ تم نے ایک ساعت میں سب سنادیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ان احادیث پر عمل کرتے ہو گے۔ پھر فرمایا:

**يَا مُعَشَّرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطْبَاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادُلَةُ**

یعنی اے گروہ فقہا تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطا بیں جن کے پاس دوائیں بر قسم کی موجود رہتی ہیں اور تم دونوں کے جامع ہو۔ یعنی محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو۔

اسی طرح علام اعلیٰ فارحی نے شرح مشکوہ میں نقل کیا ہے کہ امام عظیم رحمہ اللہ سے چند مسائل امام اوزاعی نے پوچھے انہوں نے سب کے جواب دیئے۔ اوزاعی نے دلیل پوچھی تو فرمایا انہی احادیث و اخبار سے جو آپ روایت کرتے ہیں۔ پھر وہ پڑھ کر سُننا دیں۔ تو اوزاعی نے فرمایا:

**نَحْنُ الْعَطَّارُونَ وَأَنْتُمُ الْأَطْبَاءُ**

ہم عطا بیں اور آپ لوگ طبیب۔

یعنی جس طرح عطا بیمہ عمدہ دوائیں اپنی دوکان میں رکھا کرتے ہیں اور ان کو سیاروں پر استعمال کرنا ہنہیں جانتے اسی طرح ہم لوگ محدثین صحیح حدیثیں جمع کرتے ہیں اور ان سے مسائل استنباط ہنہیں کر سکتے۔ جس طرح طبیب اور یہ کا استعمال جانتا ہے اسی طرح آپ فقہا حدیثیوں کا موقع اور مواضع استعمال اور استنباط مسائل سے واقف ہیں۔

کسی شخص نے کچھ مال زمین میں دفن کیا تھا۔ پھر اسے یاد نہ رہا تو حضرت امام عظیم رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کوئی ایسی وجہ بتاؤ جس سے مجھے اپنے دفینہ کا پتہ لگ جائے۔ حضرت نے فرمایا:

**صَلِّ اللَّهُ عَلَى الْغَدْسَتِذْكُرِ**

یعنی آج ساری رات صبح تک نفل پڑھ پھر تجوہ پتہ لگ جائے گا۔

اس شخص نے ایسا ہی کیا جب رات کو نمازیں شغول ہوا۔ ابھی محتوا وقت گزرا کر اسے اپنے دفینہ کا پتہ لگ گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ اور واقعہ عرض کیا۔ امام صاحب نے فرمایا کیا تو نے فوائل صبح کم پڑھے یا چھوڑ دیتے۔ اس نے عرض کی کہ جب پتہ لگ گیا۔

پھر چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا:

قدْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَنَ لَا يَدْعُكَ يُصَلِّي لَيْلَتَكَ حَتَّى  
يَذْكُرَكَ وَيُحَكَ فَهَلَا أَتَمْمَتَ لَيْلَتَكَ شُكْرَ اللَّهِ  
مِنْ جَاتِنَا تَحْكَمُ شَيْطَانٌ تَجْهِي سَارِي رَاتِ نَمَازِنَ پُرِّحَنَ دَوَّسَهُ كَا۔ اُورِيادِ كِرا دِيگَا  
مَكْرًا فَوْسَ كَرْتَمَنْ إِسْ شَكْرِيَّ مِنْ سَارِي رَاتِ نَوَافِلَ كِيوُولَ نَزِرِّهُ

کیا آپ کے خیال میں آ سکتا ہے کہ امام صاحب نے جو اس شخص کو یہ علاج بتایا یہ کس آیت یا  
حدیث سے ماخوذ ہے۔ لوہم بتاتے ہیں۔ حدیث شریعت میں ہے۔ حب اذان ہوتی ہے  
تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے۔ پھر اقتا  
کے وقت چلا جاتا ہے۔ پھر ختم ہونے پر آ جاتا ہے اور نمازوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا  
شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے:

أَذْكُرْ لَدَّا أَذْكُرْ لِمَالِمِيْكُنْ يَذْكُرْ۔  
فلان بات یاد کرنے والا بات یاد کر۔

یعنی جو اس کو یاد نہیں ہوتی وہ یاد کرتا ہے یہاں تک کہ آدمی نہیں جانتا۔ کہ کیا پڑھا ہے  
اس حدیث سے سمجھ کر امام صاحب نے فرمایا:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الشَّيْطَنَ لَا يَدْعُكَ يُصَلِّي لَيْلَتَكَ حَتَّى  
يَذْكُرَكَ وَيُحَكَ فَهَلَا لَا أَشَمَّتَ لَيْلَتَكَ شُكْرَ اللَّهِ  
مِنْ جَاتِنَا تَحْكَمُ شَيْطَانٌ تَجْهِي سَارِي رَاتِ نَمَازِنَ پُرِّحَنَ دَوَّسَهُ كَا۔ اُورِيادِ کِرا  
دِیگَا۔ مَكْرًا فَوْسَ كَرْتَمَنْ إِسْ شَكْرِيَّ مِنْ سَارِي رَاتِ نَوَافِلَ كِيوُولَ نَزِرِّهُ

تفسیر کبیر و حیرات الحسان میں ہے کہ ایک شخص نے امام غلط رحمہ اللہ کی خدمت میں آ کر  
عرض کی کہ میں نے اپنی عورت کو قسم کر کے کہا ہے کہ جب تک تو میرے ساتھ نہ بولے گی  
میں بھی نہ بولوں گا اس نے بھی قسم کی اور کہا کہ حبیت تک تو نہ بولے گا۔ میں نہ بولوں گی۔ اب

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حدیثوں کا یاد رکھنا اور ہے اور سائل کا استخراج  
اور ہے اور یہ نظریفہ فقیہہ کا ہے۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تلمیس المبیس میں لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا،

أَنْ يَسْقِي الرَّجُلَ مَاءَهُ ذَرْعَ غَيْرِهِ  
حضور نے اپنا پانی دوسرا کی کھیتی کو پلانے سے منع فرمایا ہے۔

تو محمدین کی ایک جماعت نے جو وہاں موجود تھی کہا جب ہمارے باعزوں یا کھیتوں  
سے پانی پیچ رہتا تھا تو ہم اپنا زائد پانی ہسایوں کے کھیتوں کی طرف چھوڑ دیتے  
تھے۔ اب ہم اس بات سے تو بکرتے ہیں اور خلاف استغفار کرتے ہیں، ویکھیے  
قلت فتاہت کے سبب یہ محمدین حدیث کا صحیح مطلب نہ سمجھ سکنے جس سے مراد  
پرانی عورت کے ساتھ وطنی کرنے کی ممانعت تھی۔ معلوم ہوا کہ ظاہر الفاظ سے ہمیشہ  
ظاہر مقصود نہیں ہوتا اور یہ سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں۔

اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک اور محدث کا حال لکھا ہے کہ انہوں نے  
چالیس سال حجید کی نماز کے پہلے کبھی سرمه مذدا یا اور دلیل میں یہ حدیث پیش کی کہ رسول  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے:

عَنِ الْحَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

حالانکہ اسی حدیث میں لفظ حلق بحسر لام ہے جس کے معنے حلقة کر کے بیٹھنا ہے۔ اسی  
واسطے ابن جوزی ابن صاعد محدث کے حق میں لکھتا ہے:

كَانَ ابْنُ صَاعِدٍ كَيْمُونَ الْقَدْرِ فِي الْمُحَدِّثِينَ لِكَثَرَةِ لَمَّا  
قَلَّتْ مُخَالَطَتُهُ لِلْفُقَهَاءِ كَانَ لَا يَفْهَمُ جَوَابَ الْفَسَوْىِ  
یعنی ابن صاعد بِالْمُحَدِّثِ تھا۔ لیکن فہم کے ساتھ اس کی نشست برقرار

کوئی ایسی وجہ بتاؤ کہ ہم آپ میں بات چیت کریں اور کفارہ پڑھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ سلسلہ کسی اور سے بھی دریافت کیا ہے یا انہیں۔ اس نے کہا کہ سفیان ثوری سے پوچھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو پہلے بولے گا وہ حادث ہو گا۔ آپ نے فرمایا۔ جاتو اور اس کو بولا۔ کوئی حادث نہ ہو گا۔ حب ثوری کو یہ فتویٰ پہنچا۔ حیران ہوا تو آپ نے سمجھایا کہ عورت نے حب قسم کی مرد کی قسم کے بعد۔ یہ اس کی طرف سے بات ہو گئی۔ اب مرد کے بلا نے سے کوئی حادث نہ ہو گا۔ اس پر ثوری نے فرمایا کہ ہم اس سمجھے سے غافل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اخشن حب حدیث ختم کر کے فتویٰ دینے کے لئے بیٹھے تو پہلے ہی سلسلہ کا جواب دے سکے جس سے معلوم ہوا کہ صرف حدیث سے کام نہیں چلتا فتنہ کی بہت ضرورت ہے۔

مخصر کتاب النصیحۃ مؤلفہ خطیب بغدادی میں لکھا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا جمع تھا جس میں یحییٰ بن معین اور فضیلہ اور خلف بن سالم وغیرہم موجود تھے اور تحقیق حدیث میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک سورت آئی۔ اس نے پوچھا کہ عتنا کہ خالصہ ہے کیا وہ صیت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں فقیہ ابوثور آگئے۔ ان کو دیکھ کر سب نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ بتائیں گے۔ ابوثور نے فرمایا کہ ہاں حاصلہ غسل دے سکتی ہے۔ اور عالیہ الشرفی اللہ عنہما کی وہ حدیث پڑھی۔ جس میں حسنونے ان کو فرمایا تھا،

إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيُسْتُ في يَدِكِ.

(اور حدیث) كُنْتُ أُفْرِقُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَاجِزٌ

ستہ ہی سب نے تصدیق کر دی اور کہا کہ یہ حدیثیں ہم کو فلاں فلاں راوی کے فرعی پہنچی ہیں اور اس کے اتنے طریقی ہیں۔

بہت کم تھی۔ اس لیے فتویٰ کا جواب نہیں سمجھ سکتا تھا۔

ابو بکر فیضہ کہتے ہیں کہ میں ابن صاعد کے پاس تھا تو ایک عورت آئی اس نے پوچھا کہ جس کنوں میں مرغیٰ گر کر مرجائی۔ اس کا کیا حکم ہے۔ تو ابن صاعد نے فرمایا کیف سقطت کس طرح گری۔ عورت نے کہا لم عریکن البیر مقطاہ۔ کنوں دھماں پاہوا تھا۔ تو اپنے فرمایا الاغطیۃ حتى لا يقع فيها شی۔ تو نے کنوں کیوں نہ دھماں پا کر اس میں کوئی چیز نہ گرتی؟

اسی طرح بعض محدثین کو فرض کا مستحلہ پوچھا گیا تو اپنے جواب میں لکھ کر مطابق حکم خدا تعالیٰ کیا جاوے۔ علامہ ابن حوزی رحمۃ اللہ علیہ ابراسیم حربی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت علی بن واڑہ محدث کے پاس آئی۔ وہ اس وقت حدیث بیان فرماتے تھے اور ان کے سامنے ہزار آدمی سامعین میٹھے ہوتے تھے۔ اگر کہنے لگی کہ میں اس نے قسم کی تھی کہ اپنے ازار کو صدقہ کروں گی تواب کیا کروں فرمایا تو نے ازار کرنے کو لیا۔ اس نے لکھا کہ دوسو میں درہم کو۔ فرمایا! جا بائیں روزے رکھ۔ جب وہ چل گئی تو اپنے افسوس کرنے لگے کہ تم سے غلطی ہو گئی کہ عورت کو ظہار کے کفہ کا حکم دے دیا۔ انتہی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فہم حدیث کے واسطے فتاہیت کی بڑی ضرورت ہے۔

کشف پر زدہ میں لکھا ہے کہ ایک محدث بعد استخخار کے وتر پڑھا کرتے تھے۔

پوچھا گیا تو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:  
منِ استبَنْجَى فَلَيُؤْتِرَ.

جو استخخار کے چاہیئے کہ وتر کرے۔

اس نے یہ متنے سمجھ کر جو استخخار کے چاہیئے کہ وتر پڑھے۔ حالانکہ متنے یہ نہ کر استخخار میں طلاق کو ملاحظہ رکھتے۔

مجھے اس مقام پر ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ کسی شخص کا ایک مخلص دوست کی دوسرے

سے لڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ میرا دوست تکلیف میں ہے اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ دیا۔ مخالف نے اس کو خوب پیٹا۔ چونکہ اس کے دونوں ہاتھ دوست نے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ لاچار ہو کر دوست کو کہنے لگا کہ تو نے کیا سلوک کیا ہے کہ مجھے پکڑ کر پوایا ہے۔ دوست بولا تو نے نہیں سننا کہ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

دوست آں باشد کہ گیر دوست دوست  
در پیش اس حالی و درماندگی !!!

میں نے تو اس قول پر عمل کیا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو دوست کی مدد کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم مطلب تو جانتے نہیں ہم تو ظاہر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حدیث کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس کام کے لیے حضرات فتحہا علیہم الرحمۃ ہی مخصوص ہیں۔

ویکھو حضرت ابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیوخ بدر کے ساتھ بھجا یا کرتے تھے۔ اور اکیل دنِ اذاجاء نصراً اللہ کے معنے ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اس سے حضور علیہ السلام کی وفات شریف کی مراد بیان کی۔ جس پر حضرت ابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کی اور شیوخ بدر رحمہم اللہ پر حضرت ابن عباس کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ کما فی البخاری۔

اسی طرح حدیث اَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات شریف کو سمجھا۔ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعلم مانا۔

امام رازی نے کہیر میں آیت الیوم اکملتُ لَكُمْ دِینُكُمْ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی وفات شریف کا استنباط کیا۔ ابن کثیر نے

اس آیت سے وفات شریف کا استنباط حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فہم مسائل ہر کسی کا کام نہیں۔

پس جو لوگ فقہ کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں وہ ان کے فہم کا قصور ہے کیا قانون کی شرح قانون نہیں۔ اگر اصول اقليدیس سے اشکال جدید بنلئے جائیں تو ان اشکال کو اشکال اقليدیس کہا جائیگا۔ ضرور کہا جائے گا۔ اسی طرح فقہ بھی قرآن حدیث کا ہی بیان اور تفسیر ہے۔ اسی واسطے ہمارے فتاوا علیہم الرحمۃ نے لکھ دیا ہے:

### القياس مظہر لامثبت۔

علاوہ اس کے حضرت اہل حدیث کے نزدیک حدیث کی صحبت کا دار اسناد پر ہے جس حدیث کی سند صحیح ہو۔ وہ حدیث بھی صحیح۔ جس کی سند ضعیف وہ حدیث بھی ضعیف۔ اگرچہ یہ سند بھی مخلص مختقات انہر حدیث ہے۔ تاہم اس خیال نے ہمارے ان ملکی بھائیوں کے دلوں میں یہاں تک قرار پکڑا کہ بغیر سچے سمجھ کہا جائے گیں کہ ہم (غیر مقلدین) جن مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ وہ احادیث صحیح سے ثابت ہیں اور حنفیہ کرام کے معمولات احادیث سے ثابت نہیں۔ حالانکہ حنفیہ کرام کے معمولات میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوجبے دلیل ہو۔

نیز بعض کچھ ایسے گستاخ پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اکابر امت پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے نہ علماء سمجھتے ہیں نہ انکہ دین۔ بالخصوص سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ کے توکھے و شمن میں۔ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ حنون کو بڑے بڑے محدثین مثل صاحب مشکوہ و ذہبی و غیرہ زادہ عابد، متقی پرمیزگار اور اعلیٰ درجہ کے بزرگ مانتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء ان کی تقدیم کرنے کو اپنے یہے ذریعہ سجاتے سمجھتے ہیں۔ امام شافعی ایسے امام فقرہ میں تمام خلفت کو ان کا کنہبہ مانتے ہیں ایسے جلیل القدر امام کو بڑے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور ان کی تحقیق کو خلاف قرآن و

حدیث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ امام عظیم محمد اللہ نے جس قدر ہم پر احسان کیے ہیں، ہم عمر بھر آپ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک ایسی سیدھی سڑک تیار کر گئے ہیں کہ ہمیں اب کسی نئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر بُنیا اور نابُنیا اسی سڑک پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو طبیب کے کہنے پر چلتا ہے اس کی مرضی کے مطابق دوائی کرتا ہے اور اپنی ساری عقل اسی طبیب واقف کا رک्तابخانہ کر دیتا ہے۔ آخر اپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں مرض کی ماہیت اور اس کے علاج کا واقف نہیں ہوں۔ اور یہ طبیب اچھی طرح سے ماہر ہے جو دوائی یہ تجویز کرے گا۔ اگرچہ میری عقل میں نہ آئے ضرور مفید ہو گئی اسی طرح مقدمات کی پروی میں جب کوئی فرقہ وکیل کرتا ہے تو وکیل کا تابع ہو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ جس قدر مقدمہ سمجھنے کی عقل وکیل کو ہے۔ مجھے نہیں۔ اس لیے وکیل کی مرضی پر عمل کرتا ہے مگر افسوس کہ آج تک لوگوں نے دین کو ایک کھیل بنارکھا ہے جن لوگوں کو ازدھو سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں اور عربی سے محض نابالدیں وہ بھی اپنی سمجھ پر عمل کرتے ہیں۔ لاکھ کوئی سمجھاوے۔ مگر مرغی کی دہی ایک مانگ کہتے چلے جائیں گے۔ دین میں ہرگز ضرورت نہیں سمجھتے۔ کہ دین کے واقف اور ماہر جو کہیں گے وہ تھیک ہو گا نہیں بلکہ اپنی اپنی چلاتے اور قرآن و حدیث و فقرے کے عالموں اور مجتہدوں کو بُرے بُرے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ فالی اللہ المستکی من صنیع الجھلاء۔

جانشناچاہتے کہ قرآن شریف و حدیث شریف دونوں عربی زبان میں ہیں اور جو فرقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ بجز چکڑا لوئی فرقہ کے کوئی حدیث کامنکر نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا تابع سمجھتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب فرقوں میں سے فی الواقع قرآن و حدیث کا چٹا تابع دار کون ہے۔ یہی ایک امر قابل غور

ہے۔ جس پر نظر غائر کرنے سے بہت کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم عربی ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک فرقہ اپنے اپنے ہم کے مطابق لیتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کا فہم الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفسیر یا حدیث کی کتاب نہیں لکھی۔ جس میں ہم حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھ لیا کرتے چھر صحابہ کرام رضنی اللہ عنہم نے بھی کوئی تفسیر یا حدیث کی کتاب نہیں لکھی۔ جس میں ہم بوقت صرورت مسئلہ دیکھ لیا کرتے اور قرآن کریم کے سمجھنے میں جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کو حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام کی تفسیر یا حدیث کی کتاب میں دیکھ کر فیصلہ کر لیتے تو اب قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی معیار ہے۔ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ اس کا مطلب یعنی میں فلاں فرقہ کی علطی ہے اور فلاں فرقہ حق پر ہے۔

اسی طرح حدیث شریف بھی عربی میں ہے۔ اس میں بھی سینکڑوں دقیق میں کوئی صحیح ہے کوئی ضعیف کوئی مصنوع ہے۔ کوئی شاذ۔ کوئی معلل۔ کوئی منفصل منقطع موقوف کوئی حسن لذات کوئی نیز و غرض حدیث کی کئی اقسام میں کوئی مقبول ہے کوئی مردود۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح مستند بھی ہیں۔ لیکن ان پر کسی کا عمل نہیں ہیں ایسی ہیں کہ اجتماعی ضعیف ہیں۔ لیکن انہی پر عمل ہے۔ پھر یہ سب کچھ حدیثیں کے پیشے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ ہر ایک نے اپنا اصول اپنی سمجھ کے موافق بنایا اور کسی کے مطابق حدیث کو صحیح یا ضعیف سمجھا۔

امام زمانی حدیث حسن کو حجت نہیں مانتے۔ مسلم وغیرہ مانتے ہیں۔ شیخہ قدیریہ وغیرہ بدھیوں کی حدیثیں بعض حدیثیں کے نزد مکی مطلقاً قبول ہیں۔ بعض بوقت داعی الی البدعتہ نہ ہونے کے مقبول سمجھتے ہیں۔ ورنہ مردود بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ بعثت مسیم بالکذب نہ ہو تو مقبول ہے۔ ورنہ مردود۔ چنانچہ صحیح زمانی میں بدھیوں سے روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح مدرس کی بعض میں بعض کے نزد ایک قادر شرط ہے اور بعض کے

نزو دیکھ صرف معاصرت کافی ہے امام بخاری و علی بن میتی راوی کا اپنے مروی  
عنه سے ملاقات شرط صحیت حدیث لکھتے ہیں۔ امام مسلم اسی مذهب کی مقدار میں  
تردید کرتے ہیں۔ پھر حدیث کے روایہ میں محدثین کا اختلاف کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ  
ایک محدث کسی راوی کو ضعیف کہتا ہے۔ تو دوسرا اس کی توثیق کرتا ہے پھر حدیث  
کے روایہ کی جرح میں محدثین کا یہ اصول کہ معاصر کی جرح معتبر نہیں۔ پھر غیر معاصر کے  
کہنے کو مان لیا۔ حالانکہ وہ بھی کسی معاصر سے نقل کرے گا۔ وغیرہ وغیرہ کئی ایسی مشکلات  
ہیں جو بجز تقلید حل نہیں ہو سکتے۔

امام اعظم رحمہ اللہ سے پہلے صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
کے اقوال و افعال اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنبھلے ان کو کسی قسم کی تحقیق و  
تقلید کی ضرورت نہ ہوئی۔ ان کو ان امور میں تابہ امکان البشری کمال یقین لانا فرض ہو  
گیا۔ اسی واسطے صحابہ کو حضور علیہ السلام سے دیکھے یا سنبھلے اور سیکھ ہوئے امور میں نہ کسی  
اجماع کی پرواہ ہوئی نہ کسی ولیل پر التفات۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو نابع تھے۔  
ان کے زمانہ میں گو حضرت بنت سے حجاب تھا۔ لیکن ان کے علوم فطیعت میں علوم صحابہ  
سے کم اور تمام عالم سے قوی و محکم تھے۔ ان کو صحابی سے منکر ایک رسوخ و ثوق بلکہ  
و جداب و حال ہو جاتا تھا اور حجاب صحابیت کمال لطافت سے بالغ نظر نہ آتا تھا۔ ہاں  
اس قدر موخر و تم بڑھ گیا۔ شاہدگی اور سستنا ہو اور اس نے صحابی سے سستنا ہو اور  
فہم سرا دھمل لفظ و ادای میں قصور ہو گیا ہو۔ اس لیے راوی کے قوت و ضعف پر مقابلوں  
میں نظر پڑنے لگی۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص یاد کا پٹکا اور سچ بولنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ بھی خطا بھی  
کرے ایک شعبہ رضی اللہ عنہ دیکھو جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اور بخاری مسلم کے  
روایہ میں سے ہیں۔ پھر بھی جامع ترمذی دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے

کس قدر غلطیاں کیں۔ یہاں تک کہ محدثین میں آپ کثیر الغلط مشہور ہو گئے۔ پس ہر حدیث صحیح جس کے راوی ثقہ عادل حافظ ہوں۔ ممکن ہے کہ غلط ہو۔ اور نفس الامر میں تن حدیث صحیح نہ ہو۔ اور اس میں کسی ثقہ کو غلطی لگ کر کی ہو۔ اسی طرح جو شخص حافظ کا کمزور یا حجبوٹ ہونے والا ہو۔ ممکن ہے کہ کسی حدیث میں اس کی یاد نہ خطا نہ کی ہو اور اس میں حجبوٹ نہ بولا ہو۔ کیونکہ بڑا حجبوٹا بھی کبھی سچ پوچلتا ہے۔ تو اس صورت میں ہر حدیث ضعیف ممکن ہے کہ نفس الامر میں صحیح ہو اور ہر صحیح ممکن ہے کہ نفس الامر میں غلط ہو تو معلوم ہوا کہ ہر حدیث صحیح الاسناد کافی الواقع غلط ہونا اور ضعیف الاسناد کافی الواقع صحیح ہونا جائز اور ممکن الواقع ہے۔ كما حققت العلامة ابن الهلام في الفتح حيث قال و يجوز غلط الصحيح و صحة الضعيف۔

علامہ ابن الصلاح مقدمہ میں لکھتے ہیں :

مَتَّى قَالُوهُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ سَابِرِ الْأَوْصَافِ الْمَذَكُورَةِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَقْطُوْعًا عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (إِنْ قَالَ)، وَكَذَلِكَ مَتَّى قَالُوا فِي حَدِيثِ إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَيْسَ ذَالِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِيبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَذْقَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي النَّفْسِ الْأَمْرِ وَإِنَّمَا الْمُرْادُ إِنَّهُ لَغَيْرِ صَحِيحٍ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذَكُورِ۔

یعنی محدثین جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اس سے مراد حدیث کی سند ہوتی ہے۔ کہ متصل ہے اور سب اوصاف صحت کے اس میں پائی جاتے ہیں۔ حدیث صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ متن حدیث بھی نفس الامر میں صحیح ہے اور غیر صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ متن حدیث نفس الامر میں غلط ہے۔ اسی واسطے نوی نے شرح صحیح مسلم کے

مقدمہ میں ثابت کیا ہے کہ خبر واحد اگرچہ صحیح نکی ہو مثبت علم لقینی نہیں بلکہ مفید طریقے ہے حافظ محمد لکھنؤ کے والاجوں پنجاب کے غیر مقلدین کا پیشو اتحاد۔ اپنی کتاب بخاندان محمدی کے صفحہ ۹ میں لکھتا ہے :

وچ خبر احادیث نظر خطا و ابجا و اس پسے راوی  
ہے قطع دلیل قرآن لقینی شک شہ بن بٹھا وی

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعض وضہ احادیث صحیح کو رد کر دیا۔ حدیث تیکم جنب کے بیان کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو رد کیا اور یہ حدیث طبقہ ثانیہ میں طرق کثیرہ سے مروی ہو گئی۔ اور لوگ تیکم جنب کے قائل ہو گئے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر فائم رہتے۔ اسی طرح حضرت عمر نے حدیث فاطمہ بنت قیس کو رد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عدم قبول خبر مغلب بن سنان مروی ہے اب عباس نے خبر الامر برہ پر اعتراض کیا کہ حمل جنازہ سے وضو کیونکر ہو گا۔

لہذا امام عظیم حضرت اللہ علیہ نے جو کہ ستر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے۔ اپنی خداداد لیاقت سے یہ مشکلات قبل از وقت معلوم کر کے فقہ کی بنیاد ڈوالی ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ قرآن کریم کی آیات سے بے دین لوگ آزاد ہو کر اپنا اپنا مطلب کھڑیں گے اور حدیث کی کوئی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تیار نہیں ہوئی۔ اس لیے لوگ جھوٹی مٹی حدیثیں بناتے ہی سمجھنے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیں گے اس لیے قرآن کریم و حدیث رسول حیتم میں بخوبی غور و فکر کر کے ہر ایک ضروری مسئلہ مہینوں بھر کو شش کر کے اپنے شاگردوں سے صحیح صلح مسائل جو کہ بے کشکن ہم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کافی تھے۔ کتابوں میں لکھوا دیئے۔ تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے موجب آسانی ہو۔

اللہ جل شانہ نے ان کو اس محنت و مشقت کا اجر عظیم عطا فرمایا۔ اور ان کی یہ

محنت و کوشش یہاں تک مقبول ہوئی کہ مسلمانوں کے قریبًاً میں شلث ان کے تابع دار ہو  
سکتے ذالک فضل اللہ یُؤْتیْهِ مَنْ يَشَاءُ۔

اسی واسطے امام بخاری کے پاس جب ایک حدیث کا طالب اور عمل کا حرصی  
آیا تو آپ نے وہ سب مشکلات بیان کر کے فرمایا:

وَإِنْ لَمْ تُطْقِ حَمْلَ هَذِهِ الْمَشَاقِ كُلِّهَا فَعَلَيْكَ  
بِالْفِقْهِ (الى تحرقال) مَعَ هَذَا شَمَرَةُ الْمُحَدِّثِ وَلَيْسَ ثَوَابُ  
الْفِقْهِ دُونَ ثَوَابِ الْمُحَدِّثِ فِي الْآخِرَةِ وَلَا عِزَّةُ أَقْلَى  
مِنْ عِزَّةِ الْمُحَدِّثِ۔ (رسطلافی)

کہ توفیق کو لازم ہے کہ وہ حدیث کا فخر ہے اور فقیہہ کا ثواب اور عزت حدیث کے  
ثواب اور عزت سے کم نہیں۔

فَتْرَضَى حَدِيثَهُ



اس موصنوع پر کچھ عرض کرنے سے پہلے، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ "حدیث کیا چیز ہے؟" ہدیث کے معلوم ہو جانے سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتے گا کہ "فتنہ کیا چیز ہے؟"

**حدیث کی تعریف** | جمہور محدثین کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول فعل تقریر اور تابعین کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو یا صحابہ تابعین نے فرمائی ہو وہ حدیث ہے۔ جو فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ تابعین نے کیا ہو وہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کیا ہوایا کوئی بات کی ہو اور حضور علیہ السلام نے اس پر انکار نہ فرمایا ہو۔ بلکہ سکوت فرمایا ہو۔ یا صحابہ اور تابعین نے اس پر سکوت فرمایا ہو تو وہ بھی حدیث ہے۔ کسی نے کچھ کیا یا کہا تو صحابہ اور تابعین نے کوئی فعل کیا یا کچھ کہا یا تابعین کے سامنے چنانچہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ مقدمہ مشکوہ میں فرماتے ہیں:

اعلم ان الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم و فعله و تقریره - و كذلك يطلق على قول الصحابي و فعله و تقريره و على قول التابعي و فعله و تقريره -

صلیت حسن بھوپالی نے خط کے صفحہ ۲۷ میں جمہور محدثین سے حدیث کی یہی تعریف کی۔ میر سید شرعین نے ترمذی شریعت کے مقدمہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

**امام ابوحنین فہرست تابعی تھے** جب یہ ثابت ہو گیا کہ تابعی کا قول فعل تقریبی  
حدیث ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ امام اعظم

رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے یا نہیں؟  
محمد بن محدثین نے تصریح کی ہے کہ آپ تابعی تھے آپ نے حضرت انس بن  
مالك رضی اللہ عنہ کو کئی بار دیکھا۔ چنانچہ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں:  
راثی انس بن مالک غیر مرد لما قدم عليهم المکوفة.  
خطیب بغدادی نے صحیح تاریخ ص ۹ میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب  
نے انس بن مالک (صحابی) رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوتا  
ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔

عبد الحجی لکھنؤی مقدمہ عمدة الرعایہ ص ۳۴ میں آپ کے تابعی ہونے کے  
متعلق فرماتے ہیں:

هذا هو الصحيح الذي ليس ماسواه الا غلط او قد نص  
عليه الخطيب البغدادي والدارقطني وابن الجوزي  
والنووي والذهبى وابن حجر العسقلاني في جواب  
سؤال سُئل عنه والولى العراقي وابن حجر المكى والسيوطى  
وعندهم من اجلة المحدثين.

یعنی امام صاحب کا صحابہ کو دیکھنا اور تابعی ہونا یہی صحیح ہے۔ اس کا مساوا  
مجز فلسط کچھ نہیں۔ خطیب بغدادی دارقطنی ابن جوزی نووی ذہبی ابن حجر عسقلانی  
ولی عراقی ابن حجر مکی سیوطی وغیرہ اکابر محدثین نے اس پر نظر کی ہے۔ انتہی  
ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرقاۃ شریح مشکوۃ جلد اول کے ص ۲۷ میں امام  
رحمۃ اللہ کو تابعی کہا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے

اور یہ بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہر تابعی کا قول فعل تقریر حدیث ہے۔ تو اب نیچہ صاف ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہے۔ اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ امام اعظم کی فقرہ بھی حدیث ہے۔

## روایت حدیث | جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اخذ کرنے کے دو طریقے تھے:

ایک طور ظاہر ریعنی استاد کے ساتھ جس میں نقل کی ضرورت ہے متواتر ہو یا غیر متواتر۔

دوسرा بطریق دلالت۔ اس طرح کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو کوئی کام کرتے دیکھا یا کوئی حکم فرماتے سننا۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس قول یا فعل سے حکم و جوب یا مذب سمجھ کر اس حکم سے لوگوں کو خبردار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حکم کا انتساب نہ کیا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال و تقریر سے صحابی نے جو مسئلہ سمجھا اُسے اپنے شاگردوں کے سامنے بغیر انتساب بیان کر دیا۔ جیسے عام لوگوں میں دستور ہے۔ کہ عالم مسئلہ پوچھتے ہیں تو عالم مسئلہ کا جواب دیتا ہے۔ اور جو حکم ہوتا ہے۔ بتا دیتا ہے۔ مثلًاً ایک شخص پوچھتا ہے کہ مذی سے پابول سے وصیتوں کا جانا ہے یا نہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ثبوت جانا ہے۔ کوئی حدیث پڑھ کر نہیں سناتے۔ تو جس حدیث میں بول یا مذی نکلنے سے وصیتوں کا ثبوت جانا آتا ہے یہ فتویٰ اسی کی روایت ہے۔ لیکن بطریق ظاہر نہیں۔ بلکہ بطریق دلالت چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیزہ ص ۱۰۳ میں فرماتے ہیں:

اعلموا نتلقى الامة منه الشرع على وجهين احدهما

تلقی الظاهر ولا بدّ ان یکون بنقل امام تواتر او غير متواتر و  
ثانيةٰ ما التلقی ولالة و هي ان يرى الصحابة رسول الله صلی<sup>الله علیه وسلم</sup> يقول او يفعل فاستبطوا من ذالك حکما  
من الوجوب وغيره فاحبروا بذالك الحکم (ره)

**صحابہ کا روایت حدیث سے جھجکنا** | پہلی قسم کی روایت سے صحابہ  
کرام رضنی اللہ عنہم بہت جھجکتے تھے۔ میکر دوسروں کو بھی روایت کرنے سے منع کرتے  
تھے۔ اور جو مکثر تھے وہ بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔

**صدیق اکبر رضنی اللہ عنہ** | نے پانچ سو حدیثیں جمع کیں۔ اور ساری رات کروٹیں  
بدلتے رہے۔ صحیح اس مجموعہ کو جلا دیا اور فرمایا:

خشیت ان اموت وہی عندی فیکون فیہا احادیث عن رجل  
قد ائتمنتہ و ثقت ولو یکن کما حدثني۔

میں ڈر گیا کہ مر جاؤں اور یہ مجموعہ رہ جائے۔ اور اس میں کسی ایسے شخص کی  
روایت سے حدیثیں ہوں جسے میں نے ثقت اور امین سمجھا ہو اور حقیقت میں جس  
طرح اس نے مجھے حدیث بیان کی ہواں طرح نہ ہو (تو اس کا مجھے مواخذہ نہ ہو)  
(رتبہ المحفوظ)۔

اسی طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریعت کے بعد صدیق اکبر رضنی اللہ  
عنہ نے صحابہ کو جمع کیا خطبہ پڑھا اور فرمایا:

انکو تحد ثون احادیث تختلفون فیہا والناس بعد کم  
اشد احتلافاً فلا تحد ثوا۔ (رتبہ ذہبی)

تم احادیث بیان کرتے ہو اور ان میں اختلاف کرتے ہو اور تمہارے بعد لوگ بہت اختلاف میں پیس گے اس لیے تم حدیثیں نہ بیان کیا کرو۔ ریعنی یہی حدیثیں اختلاف کا باعث ہیں۔ اگر تم ان کی روایت کی بحث چھوڑ دو گے تو اختلاف کم ہو گا۔ ورنہ اختلاف شدید پیدا ہو جائیگا۔

**عمر رضی اللہ عنہ** | آپ کے زمانہ میں احادیث کا بحث روایت کرنا قانونی جرم تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہے:

لعلی عمن قال اقلوا الرؤایة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم  
الا فیما یعمل به۔

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں فرمایا ہے کہ بجز ان احادیث کے جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کر دو۔ (تذکرہ اعظم)  
امام ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں لکھا ہے:

ان عمر حبس ثلاثۃ ابن مسعود وابا الدرداء وابا  
مسعود الانصاری فقال لقد اکثرتم الاحادیث عن رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود ابو درداء و ابو مسعود الانصاری حبہ اللہ کو قید کر دیا۔ اس جرم میں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بحث روایت کرتے ہو۔

خطیب نے بھی شرف اصحاب الحدیث کے صفوٰ ۸۹ میں اس کو روایت کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

فوجسم حتی استشهد . یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں  
صحابہ کو اپنی شہادت تک قید رکھا۔

یہی خطیب اپنی سند کے ساتھ قرطبن کعب سے نقل کرتا ہے۔ کہاں  
نے کہ ہم نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے صراحتک آئے  
پھر باری پی منگا کرو چنو کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ گیوں آیا ہمیں  
انہوں نے عرض کی کہ ہاں آپ ہمیں رخصت کرنے اور ہماری غُفرانی کے لیے  
تشریف لائے ہیں۔ فرمایا ہاں لیکن اس کے ساتھ ایک اور حاجت بھی ہے۔  
وہ یہ ہے کہ تم ایسے شہر میں جاؤ گے جہاں لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ  
شہد کی مکھی کے آواز کی طرح آواز ہے (یعنی بہت محبت ہے)۔ اور بکثرت تلاوت  
کرتے ہیں، تم ان کو حدیثیں سننا کرنا رُوک دینا قرظ کہتا ہے۔ کہ میں نے اس  
کے بعد کوئی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی۔ اسی مضمون  
کو شاہ ولی اللہ حجۃ اللہ میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عمر نے حب الصار کی ایک جماعت  
کو کوفہ بھیجا تو فرمایا کہ تم کو فہ جاتے ہو اور وہاں ایسی قوم ہو گی جو قرآن کی تلاوت کرتے  
ہوئے روتے ہونگے۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم کے اصحاب آئے ہیں پھر وہ تم سے حدیثیں پڑھیں گے۔ تو تم حدیثوں  
کو بہت سلم روایت کرنا۔

امام ذہبی نے تذکرہ میں لکھا ہے۔ ابوسلم کہتے ہیں میں نے حضرت ابو  
ہریرہ کو کہا کہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں روایت  
کیا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

لو کنت احدث فی زمان عمر ممثل ما احدث کو لظری  
بمخفقتہ۔

یعنی اگر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس طرح حدیثیں بیان کرتا جب طرح تمہارے زمانہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو عمر مجھے درے لگاتے۔

**ہنادہ ۵ :** سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اس قانون پر عمل کیا اور حدیث کی پہلی قسم کی روایت میں کثرت نہ کی۔ رحمۃ اللہ ابا حینفہ کیف عمل بقول صلی اللہ علیہ وسلم اقتدا  
بِالْمُذِينَ مِنْ بَعْدِهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (ترمذی)

**عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ** کوفہ کے مفتی و مدرس مقرر ہوتے فتوے دیا کرتے تھے۔ مگر حبیح حدیث مسند متصل بیان کرتے تو پیشانی پیشہ پیشہ ہو جاتی۔ کاپنے لگتے اور فرماتے انشاد اللہ کذ الکب یا بکذا و سخوا۔ ابن مسعود کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ سال سال بھتر کہ ان کے پاس روزانہ درس میں حاضر ہوتے تھے۔ مگر کسی دن قال رسول اللہ علیہ السلام سنتے۔ ان کے بدن پر لرزہ لاری ہو جائی۔ (طبقات بن سعد) اسی طرح حجۃ التمریس لکھا ہے۔

**ابن عباس رضی اللہ عنہ** صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے

قال ابن عباس انَا كَنَا نَخْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْلَوْكُنَّ يَكْذِبُ عَلَيْهِ فَلِمَارِكَبِ النَّاسِ الصَّعْبُ وَالْذَّلُولُ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ۔

ابن عباس فرماتے ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ جب کہ ان پر جھوٹ ہنیں باندھا جاتا تھا۔ اور جب لوگ نرم سخت پر سوار ہوتے (یعنی اچھے بُرے مسلک پر چلنے لگے نیک بد کی تیزی نہ رہی)

توہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا چھوڑ دیا۔

ایک سو بیس صحابہ <sup>120</sup> دار میں عبد الرحمن بن ابی سلیل کا قول ہے کہ ایک سو بیس صحابہ کو کوفہ کی مسجد میں دیکھا وہ سب حدیثوں کے بیان کرنے سے بھگلتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما و حضرت النبی جاہد صہیب و عمران بن حصین و زید بن ارقم رضی اللہ عنہم سب حدیثوں کی روایت سے گھبراتے تھے۔ بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔

ام شعیی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

عَلَمْ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْيَنَافَانِ  
كَانَ فِيهِ زِيَادَةً أَوْ نَقْصَانَ كَانَ عَلَى مِنْ دُونِ النَّبِيِّ

صلی اللہ علیہ وسلم (رجہ اللہ)  
یعنی حضور علیہ السلام کی طرف ثابت کرنے سے کسی دوسرے کی طرف جو آپ سے نیچے کا ہو نسبت کرنا ہمیں بہت پسند نہ ہے۔ کیونکہ روایت میں اگر زیادت یا نقصان ہو تو حضور علیہ السلام کے سوا دوسرے کی طرف منسوب ہو گا اور یہ بھی فرماتے ہیں۔

لَوْجُوتُ أَنْ لَمْ أَتَعْلَمْ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ شَيْئًا  
كَلَاشَ كَمِّيْنِ عِلْمٍ حَدِيثٍ نَّهْ سِكَّتَا - (خطیب)

ابراهیم نجفی فرماتے ہیں :

أَقْوَلُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ عَلْقَمَهُ أَحَبُّ الْيَنَانِ

یعنی یہ کہنا کہ عبد اللہ نے کہا۔ یا علقمہ نے کہا یہ میں بہت پسند ہو۔ (صحیح)

**مکثتین کا رجوع** | شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ سات یا دس ہزار حدیث کے روایتی میں اخیر میں کہا کرتے تھے:

وددت افی وقاد العمام ولوا عرف الحدیث  
کاش میں حام کا ایندھن ہوتا اور حدیث کو نہ پہچانا۔ (ذکرۃ الحفاظ)  
ابوالولید کہتے ہیں۔ میں نے سُننا شعبہ فرماتے تھے۔

ان هذالحدیث یصدق کم عن ذکر الله و عن الصلة فهل  
انت منہمون۔

کہ یہ حدیث تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے کیا تم اس سے  
بازنہ رہو گے۔ (شرف الخلیب ص ۱۱۵) نیز فرمایا

ما ان ا مقیم علی شئ ا خوف علی ان یدخلنی النار عنہ یعنی الحدیث  
کہ میں اپنے اعمال میں سے کسی سے اتنا خلاف نہیں جتنا کہ حدیث سے  
کہ یہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔ (شرف الخلیب)

**سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ** | فرمایا کرتے تھے۔ میں کسی عمل سے اتنا خلاف نہیں

ہوں۔ جتنا کہ حدیث سے (ذکرہ ذہبی) اور فرمایا  
لو ددت اف لع اکن دخلت فی شی منه  
یعنی الحدیث یعنی کاش میں حدیث میں داخل نہ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں،

وددت ان کل حدیث فی صدری وكل حدیث حفظه  
الرجال عنی نسخ من صدری و صدورہ۔

یعنی کاش بوجو حدیث میرے سینے میں ہے۔ یا جو مجھ سے لوگوں نے حفظ کی ہے وہ میرے اور ان کے سینوں سے جاتی رہتے۔ اور فرمایا:

لوكان هذامن الخير لنقص كما نيقص الخير. يعني الحديث اگر حدیث بخلانی ہوتی تو اور محبلانیوں کی طرح یہ بھی کم ہوتی۔ یہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہر قسم کی محبلانیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو میں گمان کرتا ہوں کہ یہ اسباب خیر سے ہوتی تو یہ بھی کم ہوتی را لکھ من شرف الحديث ص ۱۲۳

**عبدالله بن عمر رضي الله عنه** نے احمدیث اور ان کی ابویہ کی طرف دیکھ کر فرمایا  
کہ تم نے علم کو تحریکے شکرے کر دیا۔ اور اس کا نور گھٹا دیا۔  
لوادر کنا و ایا کو عمر لا و جعلنا حضربا۔

اگر ہمیں نہیں حضرت عمر پاپتے تو سزادیتے۔ (شرف الخطیب)

**مفہیرو بن مقتسم** فرماتے ہیں:

كان مرة حنیار الناس يطلبون الحديث فصار اليوم  
شرار الناس يطلبون الحديث لواستقبلت من  
امری ما استدبرت ما حدثت۔

یعنی پہلے تو اپھے لوگ حدیث طلب کرتے تھے۔ اب بُرے لوگ طلب کرتے ہیں اگر میں پہلے یہ جانتا تو حدیثیں بیان نہ کرتا رشوف ص ۱۲۱

**امام عمش** فرماتے ہیں:  
ما فـ الدنيا قوم شر من اصحاب الحديث

یعنی اہل حدیث سے زیادہ بُریٰ قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ اور فرمایا  
 لوگانت لی اکلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث  
 اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں اہل حدیث پر چھوڑتا۔ رشوف الخطیب  
 ان اقوال کا کوئی بھی سبب ہو۔ بہر حال یہ لوگ روایت سے ڈرتے تھے اور  
 جنہوں نے روایت بخشت کی انہوں نے بھی اس پر خوف ظاہر کیا۔  
 پس جو لوگ احادیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے  
 نے ڈرتے تھے۔ اس جماعت کا طریقہ یہ تھا۔ کہ افعال و اقوال بنی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم سے جو کچھ دیکھتے تھے۔ اس پر اطمینان کر لیتے اور اس کو شاگردوں کے  
 سامنے بغیر انتساب بیان کرتے۔ یہی سلسلہ اخیر میں فقه کے نام سے موسم ہوا۔  
 یہ طریقہ پہلے طریقہ سے مضبوط اور حکم تھا۔ اس کے روایی کے لیے ضرور ہے  
 کہ فہم و فراست سے بہرہ وافر رکھتا ہو۔ مگر ایک حکم کی اصلاحیت کو سمجھتا ہو۔ اس لیے  
 اس طریقے سے بلخین کی تعداد بہت کم ہے۔ صحابہ میں بھی کم رہی۔ صحابہ میں  
 چند ممتاز ہے حضرت عمر۔ ابن مسعود۔ علی۔ ابن عباس۔ صنی اللہ عنہم بہت مشہور  
 تھے۔ تابعین میں سے بھی بہت کم بھی۔ مکہ میں عطاء بن ابی ریاح۔ مدینہ میں فہزادہ  
 سعد۔ کوفہ میں ابراہیم سخنی۔ بصرہ میں حسن۔ یہ لوگ بلا انتساب سلسلہ تبادیا کرتے تھے  
 ان کے سلسلے تلامذہ بھی اسی پر عامل رہتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں  
 کرتے تھے۔ اسی بنابریم کہہ سکتے ہیں کہ فقرہ بھی دراصل حدیث ہے۔

## فقہ اور حدیث مسند میں فرق | احادیث فقرہ پہلے سے

بہت زیادہ قوی قابل اطمینان ہے بوجہات ذیل :

(۱) مسند احادیث کے روایہ کی عادت تھی۔ ناسخ منسوخ متعارض غیر متعارض

واحیب سخب ضروری غیر ضروری حالات و قرائیں مقامات کا کچھ لحاظ ہنیں ہوتا تھا  
صرف مقصود روایت ہوتی تھی۔ بلا سند روایت فتحہ میں اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان  
سب کا اعتبار کر کے نفس مسلمہ کا بتانا مقصود ہوتا تھا۔ امت تک مسائل محقق طور پر  
پہنچتے تھے۔ مثلًا۔ حدیث ہنی عن المزارعہ یا ہنی عن بیع الشمارقیل ان یہ دو صلاح جما پہلے  
قسم کے راوی عموماً بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن فقہا صحابہ فرماتے رہے کہ یہ حکم طبوز مشرو  
تھا۔ (رجحت اللہ)

(۲) مسند حدیث کے لیے صرف راوی کی قوت حفظ دیانت کی ضرورت ہے۔ دوسرے  
طریقہ (فقہ)، میں انتہائی فقاہت اور سمجھو کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس کا سلسلہ حفاظت و  
ثقات و فقہا کبار کا ہوتا تھا۔

(۳) مسند میں صرف لفظ نقل ہوتا ہے۔ وہ بجنسہ مشکل ہے۔ اکثر روایت بالمعنى  
ہے۔ لفظی روایت بہت نادر ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں؛  
لوار دنا کو ان خدش کم الحدیث کے ما معناہ ماحد شناک  
بحدیث واحد۔

کہ اگر ہم ارادہ کریں کہ جس طرح حدیث کو سنائے اسی طرح روایت کریں  
تو ایک حدیث بھی روایت نہ کر سکیں۔ روایت بالمعنى میں اختلاف الفناد  
ضروری ہے۔ پھر استنباط احکام میں خلل ہونا لازم۔ ایک مَا اور لَا میں بڑا  
فرق ہے۔ اب فرق سمجھو لو کہ مسند احادیث میں اکثر الغافر رواۃ کے ہیں۔ پھر اس  
کو فرقہ پر جو کہ مستند حدیثوں کا مجموعہ ہے کس وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔

امام اعظم کے مرویات | اس تقریب سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ سیدنا ابو  
حنینہ رضی اللہ عنہ مسند حدیثوں کو کیوں کم روایت کرتے تھے۔ اور فتاویٰ مسائل کی

کیوں کہرتے تھی۔ حبیب ان کے دادا استاد رحیم الدین مسعود رضی اللہ عنہ (روایت حدیث سے کاپٹتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کیوں احتیاط نہ کرتے۔ امام عظیم رحمۃ اللہ نے تو سنت خلفاء پر عمل کیا اور کبار صحابہ کی روشن پر رہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو حنیفہ سے زیادہ کثیر الروایت شخص دنیا میں نہیں ہوا۔ ان کے روایات آج فتح حنفی کے نام سے تمام عالم کے سامنے ہے۔

**اجتہاد** امام ابو حنیفہ کے اپنے اجتہاد و بہت کم میں بلکہ عبد الدین بن مسعود سے جو علم فرمے نے سنا اور علم فرمے تھی نے اور تھی سے حمد افے۔ اکثر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ وہی ہے۔ یہ فتح حنفی فقہ ابن مسعودی ہے یا بطريقِ دوم فقہ محمدی۔

### چند اعتراضات کے جوابات

ہمارے اس مضمون پر ایڈیٹر اہل حدیث نے چند اعتراضات کیے چونہ ولار بعد جوابات لکھے جاتے ہیں:

(۱) لکھتا ہے کہ امام مالک و شافعی و احمد و امام ابو یوسف و محمد و زفر رضی اللہ عنہم تابعی نہ تھے۔ اس لیے ان کے اقوال نہ فتحہ ہوئے نہ حدیث (حدیث ۸۴، بر ۱۹۳۸ء) میں کہتا ہوں ہم نے فقہ کے در حمل حدیث ہونے کی دو وجہیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ تابعی کے اقوال و افعال بھی حدیث ہیں۔ دوسری یہ کہ حدیث کی روایت دو قسم ہے۔ ایک بطريق ظاہر و دوسری بطريق دلالت۔ ان دونوں وجہوں کے سبب امام عظیم رحمۃ اللہ کی فتحہ در حمل حدیث ہے لیکن امام مالک و شافعی و احمد و ابو یوسف و محمد و زفر کو تابعی نہ تھے۔ لیکن ان کی فتحہ بھی دوسری وجہ کے سبب اصل میں حدیث ہی ہے۔

۲) لکھتا ہے کہ جو عالم قرآن سے کوئی مسئلہ بتائے وہ قرآن بالدلالت ہے۔ (البحدیث)؟ میں کہتا ہوں وہ مسئلہ اصل قرآن ہی کی روایت تبلیغ ہوگا۔ خود مخبر البحدیث نے اصل علم فقہ کو عین قرآن و حدیث مانا ہے۔ (البحدیث ۲۳۷ ص ۲۵)

۳) لکھتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ حدیث (قول مجتبہ) تو کبھی غلط ہو۔ مگر ادنیٰ حدیث (قول رسول) کبھی غلط نہ ہو (البحدیث ۲۵، ۲۶ ص ۲۳۷)

میں کہتا ہوں جس طرح مجتبہ کبھی خطاب کبھی کرتا ہے۔ اسی طرح مسند میں ثقہ کبھی غلطی بھی کر جاتا ہے اور جوٹا کبھی پچ بولتا ہے۔ اس لیے محققین نے تصریح کی ہے کہ یجوز غلط الصحيح و صحة الصعیف۔ (فتح القدير) اور اسی طرح حدیث مسند کبھی غلط ہوتی ہے۔ کبھی صحیح کبھی شاذ کبھی ضعیف کبھی مرسل کبھی منقطع۔ کبھی ناسخ کبھی منسوخ کبھی متعارض کبھی غیر متعارض کبھی ماؤل کبھی عام کبھی خاص کبھی مخصوص کبھی غیر مخصوص۔ اور مجتبہ ان سب امور سے وقف ہوتا ہے۔ اور ان سب کا اعتبار کر کے مسئلہ بتاتا ہے۔

ولیکن هذا اخر ما اردنا في هذا الباب والله عند علم الصواب -

# تقطیعیہ

اکیغیرمقلد کے پانچ دلائل  
اور آن کے جوابات



مسئلہ تقلید پر مختصر مگر جامع تحریر



**غیر مقلد کے دلائل** | تقلید شخصی الہمہ دین میں سے کسی کی بھی مسلمانوں پر فرض واجب ہنیں اور نہیں اس پر بحاجت کا دار و مدار ہے۔

بلکہ بغیر تقلید شخصی بھی اللہ کے نزدیک انسان پنکا سچا مون بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث شریعت میں تقلید کے متعلق کوئی حکم نہیں۔ اللہ کی کتاب اور حدیث نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہیں۔

تردید تقلید پر اقلم مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتا ہے جو صاحب اختلاف رائے رکھتے ہوں وہ ان دلیلوں کو غلط ثابت کر کے تقلید کی فرضیت پر دلائل بیان کریں۔

**دلیل نمبر اسٹر** | امام ابوحنیفہ کا سبق پیدائش اسی یادو سے ہجری کے درمیان ہے۔ پس اگر ان کو تیس یا پانچ سو برس کی عمر میں فارغ التحصیل سمجھ لیں اور اسی زمانہ کو آغاز زمانہ تقلید امام صاحب فرض کیا جائے تو بھی تقلید کا وجود سوال سال سے پچھو برس پچھے ثابت ہو گا۔ صحابہ کرام صنی اللہ عنہ اکا زمانہ مبارک جس کو خیر القرون کہا گیا ہے اس سے پہلے ہی گذر چکا تھا۔ اور وہ لوگ امام صاحب کی تقلید میں نہیں آسکے تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ پہلے پچھے مسلمان تھے کہ صنی اللہ عنہم و صنوا عنہ کا خطاب حاصل کر چکے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان امام ابوحنیفہ کی تقلید کے بغیر صرف اتباع نبوی حاصل کر کے کامل مسلمان بن سکتا ہے۔  
معلوم ہوا کہ تقلید دین میں ضروری امر ہیں۔

**دلیل نمبر ۴** | حسنور علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا:  
ترکت فیکم امرین۔ کتاب اللہ۔ دستی۔  
لیعنی میں تمہاری، یہ صرف دو چیزیں جھوڑ چلا ہوں اللہ کی

کتاب اور اپنی سُفت۔

تقلید کا اس میں ذکر نہ تھا۔ پس آپ کے فرمان کے مطابق کہ:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

تقلید رکجھی جائے گی۔ اگر تقلید کتاب اللہ اور سُفت ہی میں داخل ہے تو یہ کوئی علیحدہ چیز نہ ہوئی عامل بالکتاب والسنۃ کا اس پر بھی عمل ہو گیا۔ چنانچہ امام عالی مقام کا مشہور قول ہے:

اذا صاحح الحديث فهومذهبى

لینى صحيح حديث پڑھی میرا مذہب ہے

اور یہ کہ:

اترکو اقولی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم  
حدیث کے مقابلہ میں میرا قول معتبر نہ ہو گا۔ (عقد الجید، شاہ ولی اللہ)

پس تقلید پر عمل کرنا، حدیث کے ہوتے ہوئے ضروری نہ ہوا ہے  
ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفار مدت دیکھ کسی کا قول وکردار  
جب اصل مٹے تو نقل کیا ہے وال وهم و خطا کا داخل کیا ہے

دلیل نمبر ۳۴ | تقلید کے معنی ہیں:

التقلید قبول قول الغیر بلا دليل

بالعمل بقول الغير من عنصر جعلية (امال، سلم الثبوت وغيرها)

یعنی بغیر کسی دلیل پوچھنے کے کسی کے قول پر عمل کرنا

خیاش اللفاظ وغيرها میں ہے:

”پیرودی کے بے دریافت حقیقت آل“

شریعت میں کوئی بات بغیر اعتبار قرآن و حدیث نہیں مانی جاتی چنانچہ حضور فرماتے ہیں :

علی بصیرة انا ومن اتبعني

میں اور میرے تابع دار ایسا مذہب رکھتے ہیں جس کی صداقت پر دلائل عقلیہ و تقلیدیہ موجود ہیں۔ قرآن مجید بات پر مشکر کرنے سے دلیل طلب کرتا ہے اور فرماتا ہے،  
هاتوا بر ها نکو ان کنست و صادقین۔  
چون کہ تقلیدیہ میں دلیل سے کنارہ کشی سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کے اصول کے مطابق تقلیدیہ باطل ہے۔

دلیل نمبر ۳

نبی کا کلام وحی الہی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے خطا،  
و سہو سے مبرأ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَيْنِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  
غیر نبی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ مجتبی کے بارے میں لکھا گیا ہے:

وَتَدْ يَخْطُطِي وَيَصِيبُ  
یعنی وہ خطا رجھی کر جاتا ہے۔ پس مقلد انہ صادقہ تقلیدیں اپنا ایمان حرب کر لے گا  
اسی لیے بعض فقہاء نے نبی نوع انسان کی خیرخواہی کے لیے خود ہی تقلید سے روک  
دیا ہے چنانچہ علپی نے حاشیہ شرح و قایہ کے آخری صفحہ پر لکھا ہے۔

فَاهْرَبْ عَنِ التَّقْلِيدِ وَهُوَ صَلَالَةٌ

اَنَّ الْمَقْلُدَ فِي سَبِيلِ الْهَالِكِ

یعنی تقلید سے بھاگ کر یہ گمراہی ہے اور مقلد ملاکت کی راہ پر گامز نہ ہے  
تقلید شخصی مذکورہ بالا طریق سے بھی باطل ہوئی۔

**دلیل نمبر ۵**

لغظہ تقلید ہبھ کے لغوی معنی گردن میں پڑھہ ڈالنے کے  
ہیں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اپنے  
لغوی معنی کے لیے ااظہ سے استعمال ہوتا تھا جیسا کہ آیت والقتlad میں پڑھہ  
ڈالا ہوا جانور مراد ہے۔ نیز ابن ماجہ کی حدیث مکمل الدختا زیر الجوهر  
میں مقلد کے معنی پڑھہ ڈالنے والا ہے۔ قرآن شریف و حدیث بنی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم میں لغوی تقلید کسی جگہ بھی تابع داری و فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا  
 بلکہ ہر جگہ لغوی معنی دیتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تقلید کا وجود بلکہ نام و  
نشان بھی آپ کے زمانہ میں نہ تھا۔ ورنہ یہ لغوی تقلید ضرور اپنے اصطلاحی معنوں میں بھی  
استعمال ہوتا۔ پس تقلید قرآن و حدیث سے ہرگز ثابت نہیں۔ بلکہ یہ لغوی تقلید اصطلاحی  
معنوں میں قرآن و حدیث میں نہیں تھا۔

## مقلد کا جواب

غیر مقلد نے تقلید کا نہ تو صحیح مفہوم سمجھا اور نہ یہ سمجھا کہ تقلید کن امور میں لازم  
ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے دلائل میں کئی سمات واقع ہو گئے۔ جو اشاعت اللہ  
ناظرین کو آئندہ سطود کے پڑھنے سے معلوم ہو جائیں گے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں  
کہ جواب لکھنے سے پہلے تقلید کا صحیح مفہوم بیان کروں تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔  
جانا چاہیئے کہ تقلید و قسم پر ہے (۱) تقلید شرعی (۲) تقلید غیر شرعی

**تقلید شرعی** غیر کے قول پر بھکم جدت شرعی عمل کرنے کو تقلید شرعی کہتے ہیں اس کو  
تقلید عرفی بھی کہتے ہیں۔ اگر عنصر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ تقلید نہیں

بلکہ عمل بالدلیل ہے۔ کیونکہ غیر محتہد کو مجتہد عادل کا قول ماننا اور اس پر عمل کرنا بھکم جگت شرعی ثابت ہے۔ اس لیے یہ حقیقتاً تقليید نہ ہوئی بلکہ ماننے والے نے اس دلیل پر عمل کیا جس دلیل کی رو سے اس کو مجتہد کا قول ماننا لازم تھا۔

**تقلييد غير شرعي** غیر کے قول پر بلا حجت شرعی عمل کرنا تقلييد غير شرعی  
ہے۔ اس کو تقلييد حقیقی بھی کہتے ہیں۔

**ہماری تقلييد** ہم جس تقلييد کو ضروری کہتے ہیں وہ تقلييد شرعی یا عرفی ہے نہ کہ تقلييد حقیقی یا غیر شرعی۔ تقلييد حقیقی کو ہم میں سے کوئی بھی ضروری نہیں کہتا۔

**تقلييد کے معنی میں ہیر پھیر** غير مقلد نے اپنی دلیل نمبر سے میں تقلييد کے غلط معنی بیان کئے ہیں۔ یا تو وہ سمجھ رہ سکا یا پھر اس نے مغالطہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ چنانچہ مسلم الشبوت کی عبارت:

ال تقلييد قبول قول الغير بلا دليل ، بالعمل بقول الغير من غير حججه .

نقل کر کے ترجمہ یہ کیا :

" یعنی بغیر کسی دلیل پوچھنے کے کسی کے قول پر عمل کرنا ۔"

پھر اس پر یہ اعتراض کرتا ہے۔ " چونکہ تقلييد میں دلیل سے کنارہ کشی سکھائی جاتی ہے اس لیے یہ باطل ہوئی ۔"

حالانکہ اس عبارت کے یعنی قطعاً نہیں میں۔ اس عبارت کے صحیح معنی وہ میں جو ہم نے تقلييد حقیقی کی تعریف میں لکھے ہیں :

"یعنی جس شخص کے قول کو ماننا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو اس کے قول کو مان لینا تقلید (حقیقتی) ہے۔"

**اکی مثال** جیسے غیر مقلدین اپنے غیر مجتهد استادوں کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے فتاویٰ بغیر دلیل مانتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملتے ہیں جیقہاً مقلد یہی ہیں اور تم لوگ عرفًا مقلد ہیں اور حقیقت میں عامل بالدلیل۔ یہ نہ کہا جائے کہ تم اپنے استادوں کی وہ بات مانتے ہیں جو با دلیل ہوتی ہے اس لیے کہ دلیل تفصیلی کا سمجھنا بغیر معرفت تامر کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور معرفت تامر بجز مجتهد کے دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اس لیے معرفت تامر نہ آپ کو حاصل ہے اور شہی آپ کے اساتذہ کو۔ پس آپ جوان کی بات مانتے ہیں تو محض ان کے اعتبار سے مانتے ہیں اس لیے حقیقتاً آپ اپنے غیر مجتهد استادوں کے مقلد ہوتے اور یہ وہی تقلید ہے جس کی شروع میں نہ مت وارد ہوتی ہے۔

## **مُعْرَض لِمُسْكِلِ الْبُوْتِ كِي لُورِي عَبَارِ مِيْنَ نَظَرِهِيْشِ كِي**

مععرض نے علامہ بہاری کی ادھوری عبارت نقل کر کے اس کو غلط معنی پہنا دیئے اگر وہ اس سے آگے بھی عذر کرتا تو اس کو اپنے معنوں کی غلطی معلوم ہو جاتی۔  
سُفْيَانٌ ! عَلَامَة موصوف لکھتے ہیں :

التقليد العميل بقول الغير من غير حجة كاخذ العامي  
والمجتهد من مثله فالرجوع الى النبي صلى الله عليه  
وسلم او الاجماع ليس منه وكذا العامي الى المفتى و

القاضى الم العدول لا يحاب البعض ذلك عليهم  
لكن العرف على ان العامى مقلد المجتهد قال الإمام و  
عليه معظم الاصوليين انتهى  
غیر کے قول پر بلا جدت شرعاً عمل کرنا تقلید ہے۔ جیسے عامی (غیر مجتهد)  
کا اپنے جیسے (عامی غیر مجتهد) کے قول پر عمل کرنا۔  
رکیوں کہ عامی کا قول اصلاً بحث نہیں، نہ اپنے یہے نہ غیر کیلئے  
اسی طرح مجتهد کا اپنے جیسے مجتهد کے قول پر عمل کرنا۔  
رکیوں کہ مجتهد خود اصل سے اخذ کرنے پر قادر ہے  
پس رجوع کرنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اجماع کی طرف تقلید  
نہیں۔ اسی طرح عامی (غیر مجتهد) کا مفتی (مجتهد) کی طرف رجوع کرنا  
اور قاضی کا گواہان عادل کی طرف رجوع کرنا اور ان کی بات پر عمل کرنا  
تقلید نہیں۔ کیوں کہ نص نے غیر مجتهد کو مجتهد کے قول پر اور قاضی کو  
گواہان عادل کے قول پر عمل کرنے کو واجب کیا ہے۔ پس عیمل بالدلیل  
ہوگا۔ (یہ ہے تقلید کی حقیقت)

لیکن عرف اس پر ہے کہ عامی مجتهد کا مقلد ہے اور مجتهد کے  
قول پر غیر اس کی دلیل تفصیلی کی معرفت کے عمل کرنا تقلید ہے  
کہا امام نے اور اسی پر معظم اصولیوں کا گردہ ہے۔

پس معارض کا تقلید کے یہ معنی کرنا، کہ بغیر کسی دلیل پوچھنے کے، کسی کے قول پر  
عمل کرنا، پھر اس پر یہ اعتراض کہ ”تقلید دلیل سے کنارہ کشی سکھاتی ہے، بناء  
الفاسد على الفاسد ہے۔

## معترض کی تقلید معترض نے اپنے مصنفوں کے آغاز میں بھی لکھا ہے،

"تقلید شخصی اللہ دین میں سے، کسی کی بھی مسلمانوں پر فرض واجب نہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ معترض کو تقلید کے فرض یا واجب ہونے سے انکار ہے۔ اس کو تقلید کے سنت یا ستحب ہونے سے یا کم از کم جائز ہونے سے کوئی انکار نہیں۔ کیونکہ لفظی وجوب سے لفظی سنیت، اتحاب یا لفظی جواز ثابت نہیں ہوتی۔ الگری بی بات ہے تو سنت یا ستحب سمجھ کر ہی امام اعظم کامقدمہ بن جائے۔

اگر یہ خیال ہو کہ اللہ دین میں سے تو کسی کی تقلید فرض واجب نہیں۔ التبرانی بے دینوں کی تقلید لازم ہے جو اللہ دین کو بڑا حبلہ کہتے ہوں یا ان کو بہ نیت توہین اہل الرائے کہتے ہوں۔ یا ان کے حق میں گستاخانہ الفاظ لولتے ہوں۔ تو یہ تقلید معتبر ہی کو مبارک ہو۔

## نجات کا دار و مدار معترض نے مصنفوں کے شروع میں لکھا ہے،

"اور نہ ہی اس امر (تقلید) پر نجات کا دار و مدار ہے۔"

اس سے بھی تقلید کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح تقلید پر نجات کا دار و مدار نہیں اسی طرح نہ نماز روزہ پر ہے اور نہ ہی حج و زکوٰۃ پر۔ بلکہ نجات کا دار و مدار محض اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے۔

لَنْ يُنْجِيَ أَحَدٌ كَعَمْلِهِ

تو کیا نجات کا دار و مدار نہ ہونے کے باعث نماز و روزہ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں مگر نہیں۔

فَلِيَكُنَ التَّقْلِيدُ كَذَالِكَ

## تقلید کا ثبوت — قرآن سے

معترض نے مضمون کے  
آنماز میں لکھا ہے :

”قرآن و حدیث میں تقلید کے متعلق کوئی حکم نہیں“  
میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں تقلید کا ارشاد موجود ہے۔ لیکن ہر ایک اردو وال  
اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیجھے ؟  
سُنْيَةٌ إِحْقَانٌ وَ تَعَالَى فَرَمَّاتَهُ إِلَيْنَا :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ نَفْرُوا كَافِةً فَلَوْلَا نَصْرَ مِنْ  
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَافَةٌ لِيَفْقِهُوا فِي الدِّينِ  
وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِعِلْمٍ يَجِدُونَهُ

اس آیت میں تفقہ فی الدین فرض فرمایا۔ لیکن یہ نہیں کہ سب کے سب اہل اسلام  
پر فرض کیا ہے بلکہ عام مومنین کو اس سے معاف فرمایا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ احکام الہی ہر  
عالم اور ہر عالم مسلمان پر ہیں۔ کسی کو احکام سے آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن تفقہ فی الدین  
میں صاف فرمایا کہ سب نہیں بلکہ ہر گروہ میں پسے بعض اشخاص سیکھیں اور وہ اپنی قوم  
کو ڈرائیں اور احکام تباہیں تاکہ وہ مخالفت سے بچیں۔

اس آیت میں واضح طور پر لوگوں کو فتحہا، کی بات مانندہ اور اس پر عمل کرنے  
کا حکم ہوا۔ اور اسی کا نام تقلید ہے جس کا فرض ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔  
اسی طرح آیتہ

وَأَولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَوْرَ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الزَّكِرِ  
میں عام مسلمان کو تقلید ہی کا حکم ہے۔

## کتاب و سنت کی راہنمائی

[ مختصر نہ لکھا ہے ]

"اللہ کی کتاب اور حدیث نبی کریم انسان کی راہنمائی وہدایت کے لیے کافی ہیں۔" میں کہتا ہوں بلے شک۔ لیکن اسی انسان کے لیے دہائی و راہنمائی ہوگی۔ جو مقلد ہوگا۔ ورنہ یہی قرآن پاک بہتوں کے لیے محب گرامی بن جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے سلف کا دامن چھوڑا اور اپنی سمجھ سے قرآن کے معنے سمجھ وہ کیا سے کیا ہو گئے۔ کیا چکرِ الہی قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مرزا اُفی قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا سہائی قرآن نہیں پڑھتے؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ کیا وہابی قرآن نہیں پڑھتے؟ سب کے سب قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ بچریہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے تقلید کا دامن چھوڑا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں کتنی ایسے امور میں جو منصوص نہیں اور تنکروں جزئیات میں اور آئندہ ہونگی جن کا ذکر صراحتہ نہ قرآن میں ہے اور نہ یہ حدیث میں۔ ایسے موقع پر تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ کتب اصول میں تصریح موجود ہے کہ تقلید اجتہادیات میں ہے عقائد و ایمانیات میں نہیں جہاں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہے یا ملے لیکن متھل الوجوه والمعانی ہو تو اس وقت تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔

## اکیٹ مثال

[ مثال میں تم اکیٹ حدیث پیش کرتے ہیں جو غیر مقلدین کے پچھے بچپن کو ازبر ہے۔ ]

لا صلوا لمن لم يقراء باعر القرآن

اس حدیث کو ہم بھی صحیح جانتے ہیں اور غیر مقلدین تو اس کو قرآن کریم سے

بھی مقدم سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ آیت:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصُتوا

جو مقدم یوں کے استماع والفات کا حکم فرماتی ہے، اس آیت کے معنی اور مطلب کا ہیر پھر کریں گے۔ کبھی تو بخلاف جمہور مفسرین، صحابہ تابعین و تبع تابعین، اس آیت کو کفار کے حق میں کہیں گے۔ کبھی پہ کہیں گے کہ اس میں صرف اونچی آواز سے پڑھنے کی مانعت ہے، کبھی بغیر فاتحہ کے باقی قرآن کے استماع والفات کے لیے اس حکم کو مخصوص کریں گے غرض کتنی طرح کے وجوہات آیت کی مطلب میں گھریں گے۔ مگر حدیث کو مخصوص نہ نہیں گے۔

اس حدیث میں دو احتمال ہیں، نفی ذات، نفی کمال۔ محاورات عرب میں یہ دونوں معنوں پوشتمی ہوتا ہے۔ ان دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کرنے میں تقلید کی ضرورت ہوگی۔ اور بجز تقلید مجتہدیہ تنازع رفع نہیں ہوتا۔

اکیش بہ کازالہ | شاید کوئی یہ کہ کہ بحکم آیت :

اذا تنازع عتمن في شيءٍ

ہر ایک تنازع کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت میں تنازع سے تنازعہ ذاتی مراد ہے کہ اکیش ذاتی تنازعہ کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کا مطلب سمجھنے ہی میں تنازعہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس پر بھی تو کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیتے۔ لیے موقعہ پرجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے اجتہاد سے جو احتمال متعین کرے گا مقلدہ کو وہی ماننا پڑے گا۔

یا اس آیت میں مجتہدین کو خطاب ہے کیونکہ تنازع حقیقت میں اسی شخص کے

یہے ہو سکتا ہے جو اقسامت دلیل پر طبق نظر قادر ہو، اور وہ مجتہد ہے۔

اگر اس آیت کو سب کے لیے عام سمجھا جائے تو الی اللہ والرسول سے مراد الی عالم کتاب اللہ والرسول ہے۔ اور تنازع کا عالم کی طرف لوٹانا، تقلید ہے۔ تو یہ آیت بھی وجہ تقلید کی دلیل ہے زکر ترک تقلید کی۔

کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد نہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی مگر وہ اپنے آہماً پر فقام ہے۔ پھر حضرت عمر نے بھی ان کے اجتہاد کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور دیگر صحابہ نے مان لیا۔

پس جو شخص صرف قرآن مجید اور حدیث شریف کو مجتہد کی تقلید کے بغیر کافی سمجھتا ہے، خدا جانے وہ حدیث کا صحیح، ضعیف، شاذ، منکر، محفوظ، منقطع محضل، مدرس وغیرہ ہونا کس طرح معلوم کرے گا؟ اور وہ حدیث کا عامل ثقہ ہونا یا مجرور ہونا کیسے سمجھے گا؟ ان جزئیات کو جو لعینہ قرآن و حدیث میں نہیں، کس طرح معلوم کرے گا؟

اب ملاحظہ فرمائیئے مفترض کے دلائل کا نمبر وار جواب:

## دلیل نمبر اس کا جواب

چنانچہ مفترض نے پہلی دلیل یہی لکھی ہے۔ مگر ہمیں تعجب ہے کہ خود تو تقلید کے معنی کرتے ہیں "دلیل پوچھے لعینہ کسی کی بات پر عمل کرنا"۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں تقلید نہ تھی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعیں میں سے جو اصحاب حضور علیہ السلام سے مشرف بمقابلات ہو کر اپنے ملک میں جاتے تھے، اس ملک کے لوگ انہی کی تقلید کرتے تھے۔

عقد الجيد میں ہے :

ان الناس لم ينلوا من زمان الصعابة الى ان ظهرت  
المذاهب الاربعة ، يقلدون من اتفق من العلماء  
من غير تکیر من يعتبر انكاره ولو كان ذالك باطلا  
لانكره -

زمانہ صحابہؓ نے مذاہب اربعہ کے ظہور تک، لوگ بلا انکار کسی  
نہ کسی عالم کی ہمیشہ تقليید کرتے رہے۔ اگر یہ باطل ہوتا تو علماء ضرور  
انکار کرتے۔

جحۃ اللہ بالغہ میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں :

ثُمَّ انہمْ تفرقُوا فِي الْبَلَادِ وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ  
مَقْتَدِيًّا نَاحِيَةً مِنَ النَّوَاحِي وَكَثُرَ الْوَقَائِعُ وَدارَتِ  
الْمَسَائلُ فَاسْتَفْتُوا فِيهَا فَاجَابَ كُلُّ وَاحِدٍ حَسْبَ  
مَا حفظَهُ، أَوْ اسْتَبْطَطَ مَا يَصْلِحُ لِلْجَوابِ اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ أَنْتَ  
صحابہؓ کرام شہروں میں متفرق ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک اس  
جانب کا مقتدا بن گیا اور بہت سے معاملے اور مسائل پیش آئے  
لوگوں نے فتویٰ پوچھنا شروع کیا تو ہر ایک صحابی نے اپنی یاد یا استنباط  
سے جواب دیا۔ اگر یاد اور استنباط میں جواب نہ بلاؤ اپنی رائے سے  
اجتہاد کیا۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح سے چند امور مستفاد ہے  
(۱) زمانہ صحابہؓ میں بھی تقليید جاری تھی۔ اور تقليید بھی شخصی چنانچہ عبارت  
فصادر کل واحد مقتدا ناحیۃ من النواحی -

اس بات پر دلیل ہے۔

(۲) ہر شخص تقلید شخصی کا پابند نہ تھا۔ بعض ایک ہی مجتہد سے سنتے پوچھ کر عمل کرتے تھے اور بعض دوسروں سے بھی پوچھ لیتے تھے۔

(۳) صحابہ کرام بھی استنباط و اجتہاد کر کے مسائل غیر منصوصہ کا جواب دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں بھی تقلید چاری تھی۔ اور باوجود کثرت صحابہ کے اہل فتویٰ بہت کم تھے جن کی تعداد چھ سات بیان کی جاتی ہے۔ مگر چون کہ وہ زمانہ خیر القرون تھا شروفاد بہت کم تھا، عوام مذہبی آزادی اور خود رائی سے محفوظ تھے اسی واسطہ اس دور کے علماء نے تقلید شخصی کو واجب لغیرہ نہیں فرمایا تھا۔

آجکل کا دور شر المقرون ہے۔ لوگوں کے خیالات بدل گئے۔ ذہن آزاد و آوارہ ہو گئے۔ ہر شخص کو مجتہد بننے کا حوصلہ ہو گیا۔ ائمہ سلف پر طعن کرنافخر ہو گیا۔ ایسی حالت میں تقلید کو واجب قرار دینا ازبس لازم ہے تاکہ عوام کو آزادی اور خود روی سے روکا جائے۔

فقہاء کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے بعض احکام بدل جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام المواقعین میں اس امر کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جہاد کے لیے تیر اندازی اس زمانہ میں واجب تھی۔ موجودہ زمانہ میں چونکہ اسلام جنگ نیا ایجاد ہو گیا اب تیر اندازی کافی بیکار۔ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں :

وَفِي زَمَانَةِ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِالْمَدْافِعِ

یعنی اس زمانہ میں قوبوں کی وجہ سے تیر اندازی سے بے نیازی ہو گئی۔

اسی طرح زمانہ رسول میں عورتیں نمازِ عشاء یا فجر کے لیے سجدوں میں آیا کرتی تھیں مگر بعد میں زمانہ کانگ بدل جانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا لو اورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحدثہ النساء

## ملنعن المساجد -

مولوی شناۃ اللہ صاحب اہل حدیث، ۲۷ جنوری ۳۳۳ھ کے صدر میں لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ نماز عید کے لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غارت یا دیوار نہ بنوائی تھی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

لیکن زمانہ بدلتے سے فوائد بدل جاتے ہیں۔ آج ایسی افتادہ زمین کے حزاد یا مقبوضہ خیر سو جانے کا اندیشہ ہے تو رفع فاد اور رفع مضر کے لیے دیوار بنادی جائے تو جائز ہے۔“

اسی طرح بعض امور بنفسہ جائز ہوتے ہیں مگر بعض عوارض سے واجب بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ترک اور بعض اوقات ان کا فعل واجب ہو جاتا ہے مثلاً قبروں کی زیارت بعد مختار عورتوں کے لیے جائز ہے مگر اس دور میں منع کرنا واجب ہے۔ حدیثوں کا لکھنا بنفسہ جائز ہے مگر اس زمانہ میں ایسے لوگ نہیں کہ لاکھوں حدیثیں بیع اسناد ربانی یا درکھلکھلیں، اس لیے لکھنا واجب۔

صحابہ کے زمانہ میں جو لوگ حدیث سنتے تھے، اسناد کی تحقیق کے بغیر قبول کر لیتے تھے۔ پھر اسناد کی قید واجب ہو گئی کیونکہ سہیت سے کذاب اور صنایع پیدا ہو گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کے زمانہ میں اسناد کی قید واجب نہ تھی۔ آج واجب کیوں ہو گئی؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے تقلید کے بارے میں لکھا کہ وہ زمانہ شر و فساد کا نہ تھا۔ اس لیے یہ سبب تغیر زمانہ حکم بھی متغیر ہو گیا۔

حدیث سے ثبوت کہ صحابہ میں تقلید مرفوج تھی | سنن نسائی میں

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق سوال

ہوا۔ کہ اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں ہوا  
آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بارہ میں حضور کو کوئی حکم دیتے نہیں  
دیکھا۔ آخر سالین کے ایک مہینے کے اصرار کے بعد آپ نے اجتہاد  
کے ساتھ حکم دیا کہ اس کے لیے مہر مثل ہے، نہ کم نزیادہ۔ اور اس پر  
عدت واجب ہے۔ دراثت اس کو ملے گی۔

تو حضرت معقل بن سنان کھڑے ہوئے اور شہادت دی کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غورت کی فیضت یہی فیصلہ کیا تھا۔  
یہ سُن کہ حضرت عبد اللہ بن سعید اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے  
کے بعد اس قدر بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام صنی اللہ عنہم حدیث مرفوع کے نہ ملنے پر  
اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی تو تقیید  
ہے جو صحابہ کے دور میں مروج تھی۔

## دوسری حدیث

حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، حب  
حضور علیہ السلام نے ان کوئیں کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، صاف تصریح موجود  
ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے قرآن و سنت میں مسئلہ نہ ملنے کی صورت میں اپنی رائے  
اور اجتہاد سے حکم کرنے کے متعلق کہا تو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ یہ نہ  
فرمایا کہ حب حدیث سے معلوم نہ ہو تو کسی کو بھیج کر مجہد سے دریافت کر دیا کرو۔  
جس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت سے اگر مسئلہ مختصر نہ ہو تو شریعت  
میں اجتہاد کی اجازت ہے۔ اور یہ مسئلہ اس لیے نہ تھا کہ حضرت معاذ تو اجتہاد  
کر لیں لیکن لوگ نہ مانیں بلکہ لوگوں کو ماننے کا حکم تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ

کے زمانہ میں اجتہاد بھی ہوتا تھا اور اس اجتہاد کی تقلید بھی۔

تیسرا حدیث | بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عالم (عبداللہ بن مسعود) تم لوگوں میں موجود ہیں، مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔

اس ارشاد سے تقلید کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعظم کے ہوتے ہوئے ادنیٰ سے پوچھنا ممکن نہیں۔

## معترض نے اپنی پہلی دلیل میں یہ لکھا ہے

"کہ انسان بغیر تعلیم ابوحنیف کے بھی صرف اتباع نبوی حاصل کر کے کامل مسلمان مطابق منشاء خداوندی بن سکتا ہے۔"

میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ صحابہ کرام کا ہی تھا کہ ہر ایک سسئلہ ضرورت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے۔ لیکن آج اگر امام اعظم کا مقلد نہ ہوگا تو انہے ارجع میں سے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرے گا۔ آج کے دور میں بجز تقلید اتباع نبوی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی حدیث کے صحیح سمجھنے یا مان لینے میں کئی مرحلے ہیں جو بجز تقلید طے نہیں ہو سکتے۔ ہاں غیر مقلدین کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم بھی مقلد ہوئے تو ہم سے کاوش کیا؟ یہیں کہتا ہوں بلے شک غیر مقلدین حقیقت میں سخت مقلد میں لیکن مقلد اپنے غیر مجتبہ استادوں کے میں یا اپنے علماء کے جو ممنوع ہے۔

ایک مثال | کسی غیر مقلد نے لکھ دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثما میں جمعہ پڑھا، پھر کیا تھا۔ حافظ محمد نے تفسیر محمدی میں لکھ دیا "نبی پڑھایا جمعہ جو اثما اندرا"

مولوی شنا، اللہ نے آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دیا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثاب میں جمعر پڑھا کسی نے نہ سوچا کہ جو اثاب میں جمعر کس زمانے میں پڑھا گیا اور نہ دیکھا کہ کسی حدیث میں آیا بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے ان کی اپنی تقلید۔

## دلیل نمبر ۲ کا جواب

معترض نے جو حدیث ترکت فیکام رین لکھی ہے وہ مرسل ہے اور مرسل کو وہ خود حجت نہیں سمجھتے۔ علاوہ ازیں بعض ولایات میں کتاب اللہ و عترتی آیا ہے بہر حال یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں۔ ہم فتنہ آنے کی حدیث کو بحر و حشم قبول کرتے ہیں۔ البتہ تمہاری سمجھ کو نہیں مانتے اور نہ اس کا ماننا ہم پر لازم ہے۔

بے شک تقلید کتاب اللہ و سنت نبوی میں داخل ہے۔ کیونکہ تقلید اجتہاد یا میں ہے اور اجتہاد سے جو بات معلوم ہو، وہ بھی قرآن و حدیث میں داخل سمجھی جاتی ہے اس لیے ائمہ ارجمند میں سے کسی ایک کا مقلد قرآن و حدیث ہی کا متبع ہے، البتہ غیر مقلدین نہ تو قرآن و حدیث کے متبع ہیں نہ ائمہ ارجمند کے اجتہادات کے۔ بلکہ ان کے علماء میں تو ہر ایک مجتہد ہے۔ وہ اپنی سمجھ سے جو کہ گاؤں سے خواص اس کے اعتبار پر قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ اور یہی حقیقتاً تقلید ہے۔ پس جو فرقہ ہے امام اعظم اور موجودہ علمائے غیر مقلدین میں۔ وہی فرقہ ہے ہماری اور ان کی تقلید میں۔ امام اعظم بالاتفاق مجتہد تھے اور حافظ حدیث۔ لیکن موجودہ علمائے غیر مقلدین میں سکھ کو سمجھی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام نے مجتہد تعلیم نہیں کیا اور نہ ان میں فی الواقع کوئی مجتہد ہے۔ پس یہ لوگ خود بھی غیر مجتہد عامی اور مقلد بھی غیر مجتہد عامیوں کے۔ اور ہم بغفلت تعالیٰ ایسے شخص کے مقلد ہیں جن کے اوصاف میں امام مالک، احمد و شافعی اہد ان کے مقلدین طب اللسان تھے جس نے رسول کریم کے صحابہ میں سے

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کئی بار دیکھا۔ جو بشہادت ائمہ حدیث طبقہ تابعین میں سے تھے۔ جو بشہادت طوبی لمن رانی ولمن رائی من رانی میں داخل تھے۔ جو حدیث لوگان العلم بالتریا کے مصدق تھے جو آیت رضی اللہ عنہم و رضوان علیہ کی سند لیے ہوئے تھے۔

امام عالی مقام کے مقولہ اذا صحت الحدیث ففهوم ذہبی سے مراد یہ ہے کہ جب متبیں کسی خاص مسئلہ میں میرے مذہب کی روایت معلوم نہ ہو اور تم معلوم کرنا چاہو کہ اس مسئلہ میں امام صاحب کا مذہب کیا ہے؟ تو جب حدیث صحیح ثبوت کو پہنچ جائے تو وہی میرا مذہب ہو گا۔ اور جس مسئلہ میں امام صاحب کی روایت موجود ہو وہاں ان کا مذہب وہی ہو گا جو ان سے ثابت ہے۔

کتب احادیث میں چہار ائمہ کا اختلاف نقل کرتے ہیں وہاں امام اعظم کا وہی مذہب نقل کرتے ہیں جو ان سے ثابت ہے۔ نزدہ جو ان کی سمجھ میں حدیث سے سمجھا جاتا ہو۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ امام اعظم نے احادیث صحیحہ کا خلاف کیا ہے۔ پس اگر ان کے نزد کیک یہ مقولہ انہی معنوں سے جو وہ کرتے ہیں صحیح ہو تو کبھی امام الائمہ پر الزام نہ لگائیں۔ بلکہ ہر حجہ امام اعظم کا وہی مذہب لکھیں جو ان کی سمجھ میں صحیح حدیث نے معلوم ہو۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اس مقولہ کا صحیح مطلب ان کے نزد کیک بھی یہی ہے کہ جب روایت مذہب معلوم نہ ہو تو حدیث صحیح سے جو امر ثابت ہو، وہی امام صاحب کا مذہب ہو گا۔

یا اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ جب حدیث کی صحت مجھے معلوم ہوتی ہے تو میں اس کو اپنا مذہب قرار دے دیتا ہوں۔ یعنی صحیح حدیث پر ہی میرا مذہب ہے تو اس مقولہ میں امام اعظم نے زمانہ حال کے غیر مقلدین کی تردید فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے اکثر صحیح حدیشوں کا خلاف کیا ہے۔ اور امام اعظم کے اس مقولہ:

## اترکوا قولی بخبر الرسول

کا بھی بھی مطلب ہے کہ میرا کوئی قول حدیث صحیح کے خلاف نہیں۔ اگر تم میرا کوئی قول صحیح حدیث کے خلاف معلوم کرو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس میں امام صاحب نے اپنی تقلید کا حکم فرمایا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ صحیح حدیث کے خلاف نہیں اس لیے میرے کہنے پر عمل کرو۔

معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم کا قول اسی وقت چھوڑا جاسکتا ہے جب صحیح حدیث کے خلاف ہو ورنہ اس کی تقلید لازم ہوگی۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، غلط ہے۔ انہم کا فقہ کو مدون کرنا، اس کے اصول بنانا اور اجتہاد کرنا اس غرض سے تھا؟ یہی کروگ اس پر عمل کریں۔

اس مقولہ میں ایک اور بات قابل خور ہے وہ یہ کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اترکوا قولی فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ

اترکوا الایة التي استدللت بها بخبر الرسول    یا

اترکوا الحديث الذي احتججت به بخبر الرسول الذي احتجج به  
یعنی میرا فہ قول جس کی کوئی سند قرآن و حدیث میں نہ ہو، حدیث ملنے پر چھوڑ دو۔  
یہ نہیں فرمایا کہ میں جس آیت یا حدیث سے استدلال کروں، تم اس آیت یا حدیث کو جب کوئی اور حدیث مل جائے، تو چھوڑ دو۔

پس امام اعظم کا شاذ نہدار ہی کوئی ایسا قول ہوگا۔ جس کی کوئی دلیل قرآن سنت یا آثار صحابہ سے نہ ملتی ہو۔ اور وہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہو۔ بچھا اس پر مقلدین کا عمل بھی ہو۔ جب ایسا کوئی قول نہ دکھا سکیں اور انشا اللہ ہرگز نہ دکھا سکیں گے تو اس بیت کے وظیفہ کا کیا معنی ہے؟

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار  
مت دیکھ کسی کا قول دکردار

اولًا تو کسی حدیث کو یقیناً رسول کریمؐ کے الفاظ ثابت کرنا مشکل - پھر دوسرا طرف امام صاحب کا صرف قول بلا دلیل ہونا اور مشکل - پھر ایسے موقع پر مقلدین کا عمل صرف قول امام پر ہونا مشکل پڑھکل۔

## دلیل نمبر ۳ کا جواب

مقالہ کے آغاز میں دیا جا چکا ہے دوبارہ مطالعہ فرمائیجئے۔

## دلیل نمبر ۴ کا جواب

معرض نے لکھا ہے کہ "نبی کا کلام وحی الہی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے خطاء و سهو سے مبترا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى غير نبی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی"۔

یعنی غیر نبی کا کلام سہو و خطاء سے مبترا نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں بے شک صحیک ہے۔ اسی واسطے جس حدیث کو محدث کہا دے کہ صحیح ہے، ممکن ہے کہ ضعیف ہو اور اس نے صحیح کہنے میں خطا کی ہوا اور جس کو ضعیف کہا دے، ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ اور اس نے ضعیف کہنے میں خطا کی ہو۔ جس راوی کو مجروح قرار دے ممکن ہے کہ تلقہ ہو یا اس نے پس کہا ہو جس کی تقدیل کرے ممکن ہے کہ وہ مجروح ہو اور یہ محدث سہو و خطا سے اس کی تقدیل کر رہا ہو۔ پھر راوی حدیث اگرچہ تلقہ ہو مگرچوں کہ غیر نبی ہے اس لیے اس کا کلام سہو و خطا سے مبترا نہیں ممکن ہے کہ اس نے حدیث کے بیان میں یا حضور کی طرف نسبت کرنے میں غلطی کی ہو۔ اس لیے کسی حدیث کا قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ثابت ہونا مشکل ہے تا اقتیکہ غیر نبی کے کلام کا اعتبار نہ کیا جائے۔

جب کو معرضن نے لکھا ہے، کہ غیر بنی کے کلام کو مان اندھاپن تقليد ہے۔ میں معرضن سے سوال کرتا ہوں کہ غیر بنی کے کلام پر اعتبار کے بغیر کسی حدیث کو بھی نقینی طور پر حضور کی حدیث کس طرح ثابت کیا جائے کا، معرضن نے لکھا ہے کہ بعض فقہاء ازروئے خیر خواہی تقليد شخصی سے روک دیا ہے۔ چنانچہ چلپی نے حاشیہ شرح و قایہ کے اخیر صفحہ پر لکھا ہے ۔

### فاهرب عن التقليد فهو صدالة

### ان المقلد في سبيل الحالك

میں کہتا ہوں علامہ چلپی محسنی شرح و قایہ خود مقلد تھا۔ وہ تقليد کو گمراہی کیسے کہہ سکتا تھا؟ یہ شعر چلپی میں کہیں نہیں۔ معرضن نے جو اخیر صفحہ کا حوالہ دیا ہے۔ شاید اپنے شرح و قایہ کے اخیر سادہ درج پر خود بدولت نے لکھ دیا ہوگا۔ یہ شعر غالباً کسی غیر مقلد کا ہے اور اس سے مراد وہی تقليد ہے جس کے مرتکب غیر مقلدین زمانہ میں آئیے شعریوں پڑھیے ।۔۔

### الاَكْلُ مِنْ لَا يَقْتَدِي بِأَنْتَهُ

### فَقَسْطَهُ، ضَيْرٌ مِّنْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجٌ

## دلیل نمبر ۵ رکا جواب | معرضن نے لکھا ہے کہ :

قرآن و حدیث میں لفظ تقليد کسی جگہ میں تابعداری اور فرمائی برداشتی کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ ہر جگہ لغوی معنی دیتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تقليد کا وجود بلکہ نام و نشان بھی آپ کے زمانہ مبارک میں نہ تھا۔ ورنہ یہ لفظ حضور اپنے اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگرچہ اس زمانہ میں لفظ تقليد بمعنی اصطلاحی مستعمل نہیں تھا۔ لیکن تقليد

کے اصطلاحی معنی ضرور پائے جاتے تھے۔ نہ صرف تقلید ملکہ لفظ حدیث یا اہل حدیث بھی اپنے اصطلاحی معنوں میں حسنور کے زمانہ میں مستعمل نہ تھا۔ من ادعی فعلیۃ البیان۔ حدیث کے اقسام صحیح، ضعیف، شاذ، منکر، مرسل، متفقظ وغیرہ بھی اس زمانہ میں اصطلاحی معنوں میں استعمال نہ ہوتے تھے۔

تو کیا کوئی اس سے یہ دخوی کر سکتا ہے کہ حدیث کا یا حدیث کی اقسام کا اس نام میں وجود نہ تھا؟ کیوں کہ یہ الفاظ اپنے اصطلاحی معنوں میں حسنور کے زمانہ میں مستعمل نہ تھے۔ فلیکن التقلید کذالک

# محدثین کرام مقلد تھے



چند کار آمد حوالے  
خود غیر مقلدین کے گھر سے



## حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

قال الشیخ تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری امام المسلمين و قدوة المؤمنین و شیخ الموحدین والمعلول  
علیہ فی احادیث سید المرسلین قال وقد ذکر ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیة

شیخ تاج الدین سبکی نے طبقات میں فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمين، قدوة المؤمنین، شیخ الموحدین اور حدیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں محول علیہ تھے۔

تو انہوں نے کہا کہ ابو عاصم نے امام بخاری کو شافعیہ میں شمار کیا ہے

(الخطه مصنفہ نواب صدیق حسن خاں، فصل ۴، ص ۱۲۱)

نواب صدیق حسن خاں والی بھجوپال، غیر مقلدین کے اکابر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی یہ عبارت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی کے مقلد تھے۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین کو لازم ہے کہ نواب صاحب کی اس عبارت میں غور کریں کہ جب امام بخاری جیسے محدث، تقلید کر رہے ہیں تو انہیں بھی لازم ہے کہ ترک تقلید سے روگرداں کر کے کسی مجتہد مطلق کی تقلید کریں۔

## حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ

الإمام أبو داؤد سليمان بن الأشعث أعده الشیخ ابو اسحق  
شیرازی فی طبقات الفقهاء من جملة اصحاب الإمام احمد۔  
واختلف فی مذهبہ فقیل حنبیل و قیل شافعی

امام البداؤ د سلیمان بن الاشعشٹ، جن کو شیخ ابو سحن شیرازی نے  
طبقات الفقیہاء میں، امام احمد بن حنبل کے اصحاب میں شامل کیا ہے۔  
ان کے مذکوب میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حنبلی تھے اور یہ بھی کہا گیا  
ہے کہ وہ شافعی تھے۔

(الخطر، مصنفہ نواب صدیق حسن ص ۱۶۰)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ امام البداؤ د حنبلی تھے۔ اگر حنبلی نہ تھے تو شافعی  
یقیناً تھے۔ بہر حال مقلد ضرور تھے۔

## حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ

کان النسائی شافعی المذهب

حضرت امام نسائی شافعی المذهب تھے

(رکتاب مذکور ص ۱۷۷)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام نسائی غیر مقلد نہیں تھے بلکہ مقلد تھے۔

## ابن تیمیہ کے مقلد ہونے کا اقرار

ابن تیمیہ وہابیوں کے امام میں۔ مگر وہ بھی مقلد تھے۔ اس کا اعلان بھی نواب  
صدیق حسن کر رہے ہیں:

احمد بن الحیلہ بن مجید الدین عبد السلام بن عبید اللہ بن  
عبد اللہ بن ابی القاسم بن تیمیہ الحرانی شم الدمشقی  
الحنبلی صاحب منہاج السنۃ۔

احمد بن حیلہ بن مجید الدین عبد السلام بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی القاسم

”بن تیمیہ حراقی دمشقی، صاحب مہلک السنۃ جبلی تھے۔“

ر منقول من الفوائد البیهیہ فی تراجم الحنفیہ، التعليقات السنۃ

علی الفوائد البیهیہ، مصنفہ نواب صدیق حسن خاں ص ۸۰

اس تحریر سے صاف ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ، غیر مقلد نہ تھے بلکہ امام احمد بن جبل کے مقلد تھے۔ وہ کونسا غیر مقلد ہے؟ جس کے دل میں ابن تیمیہ کی عقیدت اور احترام نہیں۔ لہذا الصاف شرط ہے کہ ابن تیمیہ تو تقليید کریں لیکن ان سے عقیدت رکھنے والے تقليید سے نفرت کریں! فیاللّٰحِب!

## غیر مقلدین یہ عبارت بھی غور سے پڑھیں

حضرت شاہ ولی اللہ، رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف حجر الدار بالغاۃ میں فرماتے ہیں:

منها ان هذالمذاہب الاربعة المدونة قد اجتمعوا  
الامة او من يعتد به منها على جواز تقليده الى يومنا هذا  
وفي ذلك من المصالح مالا يخفى الا سيما في هذه الايام  
التي قصرت همتهم جدا

یہ مذاہب اربعہ موجودہ ہیں۔ ان کی تقليید کرنے پر امت یا امت میں سے ان لوگوں نے، جن کا دین میں اعتبا کیا جاتا ہے، اجماع کیا ہے ہمارے اس زمانہ تک۔ اور اس تقليید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ تمثیں بہت کوتاہ ہو گئی ہیں۔

**خُدَاراً** مسند رجہ بالاحوالوں میں غور فرمائیتے اور خود فیصلہ فرمائیتے کہ

جب امام بخاری جیسے تاج المحدثین اور دیگر اکابر محدثین مقلد تھے تو مشکوہ شرایف اور بلوغ الہرام کا اردو ترجمہ پڑھ کر نامہ نباد مولوی — کس شمار میں ہیں؟ کیا موجودہ دور کے وہابی امام بخاری ، امام ابو داؤد اور امام نسائی سے زیادہ قرآن و حدیث کی سمجھ رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ابن تیمیہ سے بھی زیادہ عالم ہیں؟ اگر نہیں اور یعنیا نہیں تو لازم ہے کہ وہی راستہ اختیار کیا جائے جو محدثین کرام کا مختوا۔ اسی میں فلاحِ دارین ہے۔

عَطْرَ رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ  
امام امام کامدہب

تقویٰ اور احتیاط

## امام صاحب کا تقویٰ اور احتیاط

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مذہب میں دوسرے مذہبوں کی نسبت اکثر قوت دلیل یا تقویٰ و احتیاط کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ احتیاط اور تقویٰ بہت اچھی چیز ہے۔

حضرت امام صاحب کے تقویٰ کو کون نہیں جانتا۔ آپ مدیون کی دیوار کے سائے کے نیچے اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ لفظ سودنہ ہو جائے۔ کسی کی بھروسہ گم ہوتی ہے تو آپ دریافت کرتے ہیں کہ بھروسہ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ معلوم ہونے پر اتنے ہی سال گوشت کھانا چپوڑ دیتے ہیں کہ مبادا وہی بھروسہ کسی نے ذبح کی ہو کر پڑوں کے تھان فروخت کے پیسے ملازم کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک تھان میں عیوب ہے وہ خزیدار کو بتا دینا۔ ملازم فروخت کرتا ہے۔ مگر عیوب بتانا بھول جاتا ہے۔ تو آپ سب تھانوں کی قیمت تصدق کر دیتے ہیں۔

آپ کے تقویٰ کی جملک آپ کے مذہب میں بھی نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت چند اختلافی مسائل بطور نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ کوئی سید روح اس سے متاثر ہو کر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر زبان طعن دراز نہ کرے۔

## کنوال کی طہارت

امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ کنوال میں کوئی جانور گر کر مرجاتے تو کنوال پلید ہو جاتا ہے۔ اس سے پانی نکال کر پھر استعمال میں لانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ کنوال پلید نہیں ہوتا تو قیکر نجاست سے اس کا نگ، بولیا ذائقہ نہ بدل جائے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ احتیاط کس میں ہے؟ پانی نکالنے میں یا نکالنے میں؟

ظاہر ہے کہ پانی نکال دینے ہی میں احتیاط ہے۔ تقویٰ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس میں کوئی جانور مر گیا ہو، اس کا پانی استعمال نہ کیا جائے۔ اور جو لوگ ایسے کنوں کی طہارت کے قائل ہیں وہ بھی پانی نکالنے کو منع نہیں کہتے۔

پس اگر کسی شخص نے ایسے کنوں سے وضو کیا جس میں چواہا، بلی یا کوئی اور جانور گر کر مر گیا اور اس سے پانی نکال کر اسے پاک نہ کیا گیا ہو، تو اس شخص کا وضو یا غسل الگ چیز ان لوگوں کے نزدیک جائز ہوگا، جو کنوں کی طہارت کے قائل ہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے کنوں کو پلید سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک نہ وضو جائز ہوا نہ غسل۔ پھر کیوں نہ کنوں کو پاک کیا جائے تاکہ اس سے وضو اور غسل سب کے نزدیک جائز ہو۔ یہی مذہب ہے حضرت امام عظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی میں تقویٰ بھی ہے اور احتیاط بھی۔

### نواقض وضوٰ

خون یعنی نکسیر کے چھوٹ نکلنے سے امام ععظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو و غسل لوث جاتا ہے مگر بعض کہتے ہیں کہ نہیں لوثتا۔ وہا بیہ کا یہی مذہب ہے لیکن خون نکسیر یا قیق کے بعد دوبارہ وضو کر لینا کسی کے نزدیک منع نہیں۔ پس اگر کوئی شخص قیق نکسیر یا خون نکلنے کے بعد دوبارہ وضو کر لے تو اس کا وضو سب کے نزدیک جائز ہے۔ اگر دوبارہ وضو نہ کرے تو حضرت امام ععظم اور ان کے موالقین کے نزدیک اس کی نماز نہ ہوگی۔ پھر کیوں نہ وضو کر ہی لیا جائے تاکہ سب کے نزدیک اس کی نماز جائز ہو جائے۔ احتیاط اور تقویٰ اسی میں ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے اور یہی مذہب حضرت امام ععظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

### سُنّت فِحْرَرٌ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص صنبح کی جماعت میں مل گیا اور اس کی سُنّت فِحْرَرٌ گئی ہوں وہ فخر کے فضول کے بعد اسی وقت سُنّت فِحْرَرٌ ہے۔

لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرضوں کے بعد پڑھے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ حکما قال الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ اختیاط کس امر میں ہے؟ اگر فرضوں کے بعد اسی وقت پڑھا تو نہ صرف حضرت امام اعظم کے نزدیک بلکہ جمیل فقہاء امت کے نزدیک وہ نماز جائز نہ ہوگی۔ اگر طلوعِ شمس کے بعد پڑھے تو سب کے نزدیک وہ نماز ہو جائے گی۔ کیوں کہ جو لوگ فرضوں کے بعد اوابے سنن جائز کہتے ہیں، وہ بعد طلوعِ شمس بھی جائز کہتے ہیں۔ پھر کیوں نہ طلوعِ شمس کے بعد پڑھی جائیں تاکہ سب کے نزدیک نماز جائز ہو جائے۔ اور یہی مذہب ہے حضرت امام اعظم کا۔ اسی میں تقویٰ اور اختیاط ہے۔

**وقت نماز عصر** | نماز عصر کا دو مثال کے بعد پڑھنا امام صاحب کا مذہب ہے۔ بعض لوگ ایک مثال کے بعد نماز عصر پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن دو مثال کے بعد بھی نماز کا پڑھ لینا جائز کہتے ہیں۔ اس میں بھی امام صاحب کا مذہب اختیاط پر معینی ہے۔ کیونکہ ایک مثال کے بعد عصر پڑھنا، اگرچہ بعض کے نزدیک جائز ہے مگر بعض کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن دو مثال کے بعد نماز پڑھنا کسی کے نزدیک منع نہیں۔ اس لیے امام صاحب نے اسی کو پسند فرمایا کہ اسی میں اختیاط ہے کہ دو مثال کے بعد نماز پڑھے تاکہ سب کے نزدیک نماز جائز ہو جائے۔

**وقت نماز عشاء** | امام اعظم فرماتے ہیں کہ شام کی سُرخی کے بعد جو سفیدی آتا ہے مگر بعض لوگ سُرخی زائل ہوتے ہی عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے اختیاط اور تقویٰ اسی میں دیکھا کہ سفیدی کے دور ہونے کے بعد عشاء پڑھ جائے۔ کیونکہ سفیدی کے عزوب ہونے کے بعد بالاتفاق عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔

لیکن سُرخی کے غروب ہونے کے بعد، کسی کے نزدیک وقتِ عشاء ہو جاتا ہے اور کسی کے نزدیک نہیں ہوتا۔ اس لیے امام صاحب کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے، سعیدی کے غروب کے بعد عشاء پڑھنا، احتیاط ہے۔ کیوں کہ اس طرح سب کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اختلاف مسائل میں امام صاحب نے احتیاط کو مدنظر رکھا ہے۔

### تین رکعت و تر

لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تین فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی امام اعظم نے احتیاط کو مدنظر رکھا ہے کیوں کہ جو لوگ ایک دتر کے قائل ہیں، وہ تین رکعت بھی جائز ہانتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص ایک رکعت و تر پڑھتا ہے تو نہ صرف حضرت امام اعظم بلکہ دوسرے فقہاء امت کے نزدیک بھی اس کی نماز نہ ہوگی۔ لیکن اگر تین رکعت پڑھ تو سب ائمہ کے نزدیک دو رجائز ہو جائیں گے۔ اور یہی احتیاط ہے۔

### نماز تراویح

امام اعظم کے نزدیک سبیں رکعت ہے۔ آج کل بعض لوگ آٹھ رکعت کہتے ہیں۔ لیکن سبیں رکعت کو وہ منع نہیں کرتے۔ (الامن شذ ولا عيابه) پس اگر کوئی شخص آٹھ رکعت پر اتفاقاً کرے تو اس نے صحابہ، تابعین اور ائمہ کے نزدیک نماز تراویح ادا نہیں کی لیکن جس نے سبیں رکعت پڑھ لیں۔ اُس نے آٹھ بھی توا اکر لیں اور سب کے نزدیک ادائی سنت سے فارغ ہوا۔ معلوم ہوا کہ احتیاط یہی ہے کہ سبیں رکعت پڑھی جائیں تاکہ سب کے نزدیک بری الذمة ہو جائے اور یہی مذہب ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔

### تین طلاقیں

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقیں دیں تو امام اعظم کے نزدیک گواس نے سنت کے خلاف کیا

مگر طلاقیں تینوں وار دہو جائیں گی۔ لیکن بعض لوگ اسے ایک طلاق سمجھتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ احتیاط کس امر میں ہے؟ اگر مطلقاً شلائش سے رجوع کر لیا جائے تو جبکہ علمائے محمدیں اور ائمہ ارجع کے نزدیک وہ رجوع جائز نہ ہوا۔ اور اگر رجوع نہ کیا گیا اور اس عورت نے عدت کے بعد کسی دوسرا مرد سے شادی کر لی تو یہ نکاح سب کے نزدیک جائز ہوا کیونکہ مجوزین رجوع بھی اسے ناجائز نہیں کہتے تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم کے مذہب میں احتیاط ہے۔ وہذا ہو المقصود فالحمد لله۔

### مفقود کی بیوی

جس عورت کا خاوندگم ہو جائے، امام صاحب کے نزدیک اس کا نکاح کسی سے جائز نہیں تاوقتیکہ پہلے خاوندگم کی موت یا طلاق کی تینی خبر نہ آئے۔ لیکن ابھل کے بعض لوگ اس کا دوسرا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ عورت صبر کرے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرے یہاں تک کہ پہلے خاوندگم کی موت یا طلاق کی خبر آجائے۔ اگر وہ دوسرا نکاح کرے گی تو جبکہ وہ اسلام کے نزدیک وہ نکاح ناجائز ہو گا۔ اور اگر وہ بیٹھی رہے اور صبر کرے تو کسی کے نزدیک منع نہیں۔

یہ بھی تو ممکن ہے اور ایسا بارہا ہوا کہ اس نے دوسرا نکاح کیا تو پہلا خاوند بھی اُدھم کا۔ اس صورت میں کس قدر فاد ہے؟ معلوم ہوا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ عورت صبر کرے اور یہی مذہب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کا ہے۔

### عورتوں کا جمعر جماعت میں شرکیک ہونا

بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مفرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس سلسلہ میں بھی امام صاحب نے تقویٰ اور احتیاط کو مد نظر

رکھا ہے۔ کیوں کہ عورت اگر مسجد میں نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو بالاتفاق اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں اور نہ ہی وہ گناہ کار ہوئی۔ اور اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھ تو امام صاحب اور دیگر فضیلہ کے نزدیک کراہت ہوگی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ گھر میں نماز پڑھے۔ یہی افضل ہے اور یہی امام صاحب کا مذہب ہے۔

### زلیور کی زکوٰۃ

بعض ائمہ کہتے ہیں کہ زلیور میں زکوٰۃ نہیں۔ مگر امام اعظم کے  
نزدیک زلیور میں زکوٰۃ لازم ہے اور اسی میں احتیاط ہے۔ کیونکہ اگر زلیور کی زکوٰۃ نہ  
دے تو اگرچہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی ڈر نہیں جو زلیور میں زکوٰۃ واجب نہیں جانتے  
لیکن جو لوگ واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ شخص تارکِ زکوٰۃ رہا۔ اس لیے احتیاط  
یہی ہے کہ زلیور کی زکوٰۃ ادا کرے اور یہی مذہب ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔

### صاع کا وزن

بعض ائمہ کے نزدیک صاع شرعی کا وزن پانچ رطل  
اور سلسلت ہے لیکن امام اعظم کے نزدیک صاع کا وزن آٹھ رطل ہے اس میں بھی امام  
صاحب نے احتیاط کو مد نظر رکھا ہے مثلاً صدقہ فطر کی ادائیگی میں اگر صاع کا وزن  
پانچ رطل اور سلسلت لیا جائے تو صدقہ کم نکلے گا۔ اگر آٹھ رطل کا صاع لیا جائے تو صدقہ  
زیادہ نکلے گا اور ظاہر ہے کہ صدقہ زیادہ ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم  
نے آٹھ رطل کا صاع مقرر کیا تاکہ تقویٰ اور احتیاط ہاتھ سے نہ جائے۔ واللہ اعلم

# البعین حلقویہ

چهل احادیث مبارکہ دربارہ نماز  
دلائل و اسنخسے حنفی مذہب کی تائید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## تعارف

فَقِيرُ الْبَوْيُوسُفُ مُحَمَّدُ شَرِيفُ كُوْلُوْيِي بِرَادُرَاِنُ اسْلَامُ كِي خَدْمَتُ مِيں عَرْضُ كِرتَنَا ہے  
 کَرَاس زَمَانَ مِيں حَبِيبُ كَدُلُوگ دِين مِيں نِهَايَت سُسْتَت ہو گئَتے ہیں نَ اسْلَامُ كِي جَزْبَرَنَهْ مَذَابُ  
 كَا كَجْجَهْ پَتَّهْ - خَالِفِينَ اسْلَامَ دُلْ بَدَنْ تَرْقَى پَرْ ہیں - اور اسْلَامَ مِيں طَرَحُ طَرَحَ كَهْ فَادَ بِرَپَا ہیں  
 شَيْعَهْ جَوْ كَهْ اپَنَے مَذَهَبُ كَوْ جَهْلَانَا ثَوابُ سَجَّهَتَهْ تَقَهْ آجَ اعلَانِيَهْ اپَنَے مَذَهَبُ كَي اشَاعَتْ  
 مِيں سَرْگُرمَ مِيں اخْبَارُولَ مِيں رسَالَوُلَ مِيں اهْلَسَنَتَ كَي تَرْوِيدَ كَرَرْهَتَهْ ہے ہیں - اسِي طَرَحُ مَرْزاَنِيَ  
 كَهْ انَ كَا بَچَجَجَهْ مَنَاطِرَهْ ہے - كَعْنَيْ اخْبَارِينَ مُرْكِيَثَ مَذَهَبُ كَي اشَاعَتْ مِيں نِكَالَ رَهَتَهْ ہے ہیں  
 اور وَهَايُولَ كَي تَبْلِيغَ تَوْسِيَهَانَ تَكَ اثْرَكَرَ حَلْقَهْ ہے كَهْ دُلُوگُونَ كَوَانَ كَهْ خَرْفَاجَ كَا احْسَاسَ ہِيْ نَهِيْنَ  
 رَهَا - كَادُولَ كَادُولَ مِيں انَ كَي اجْنِيَهِنَ ہِيْنَ وَهِ سَبُ اَكِيْكَ كَافَرَنَسَ كَهْ مَاحَظَتْ كَامَ كَرَهِيْ ہِيْنَ  
 انَ كَتَهْ تَخْواَهِيْ مَبْلَغَ شَهْرَهْ شَهْرَهْ بَدِيهِهْ بَدِيهِهْ مَهْبُرَتَهْ ہِيْنَ اور اپَنَے مَذَهَبُ كَي تَبْلِيغَ مِيں سَرْتُوْرَ  
 كَوْشَشَ كَرَرْهَتَهْ ہِيْنَ لَسانِهِمَ احْلِيْ مِنَ السَّكَرَ كَامَصَدَاقَ بَنَ كَرَمَلِيْهِيْ مَلِيْهِيْ باَلَوْلَ سَهْ  
 مَهْبُولَهْ بَهْجَلَهْ اَحْنَافَ كَوْ دَامَ تَزَوِّرَ مِيں بَهْجَانَدَلِيْتَهْ ہِيْنَ - اِمامَ اَعْظَمَ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَي بَظَاهِرَ  
 تَعْرِيفَتَهْ كَرَتَهْ ہِيْنَ مَكْرَحَقِيقَتَهْ مِنْ عَوَامَ كَوْ مَغَالِطَهْ مِنْ ڈَالَتَتَهْ ہِيْنَ - مَكْرَحَنَیَ ہِيْنَ كَهْ انَ كَي  
 ظَاهِرِيَ حَالَتَهْ دِيْكَهْ كَرَانَ پَرْ فَرَغَتَهْ ہو جَاتَهْ ہِيْنَ - كَوْئَيْ تَوْرَشَتَهْ دَارِيَ كَهْ لَحَاظَتَهْ سَهْ كَوْئَيْ  
 مَالَ دَارِيَ كَهْ پَاسَ سَهْ كَوْئَيْ رُوزَگَارَ كَي ضَرُورَتَهْ كَي يَلِيْهِ كَوْئَيْ تَخْواَهَ كَي تَرْقَى كَي يَلِيْهِ كَوْئَيْ  
 مَعْضُ چَهَالَتَهْ سَهْ دَاهِبِتَهْ اَخْتِيَارَ كَرَلِيْتَهْ ہے - اسِي طَرَحُ نِجَارِيَ خَيَالَاتَ بَهْجَيَ بَهْجَهْ ہِيْنَ  
 حَدِيثَ كَهْ مَنْكَرَ بَهْجَيَ زَوَارَوْلَ پَرْ ہِيْنَ - رسَالَلَنَكَالَتَهْ ہِيْنَ - مَنَاظِرَوْلَ كَا چَلَيْخَ دَيْتَهْ ہِيْنَ الْغَرَضُ

سب مذہب اپنی اپنی اصلاح و ترقی میں کوششان ہیں۔ اگر سُست میں تو حضرات  
احناف چنان خفختہ اندک کوئی مردہ نہ۔

گروہ حنفیہ کثیرہم اللہ کے ہر طبقے میں مذہب کی طرف سے لا پرواہی ہو گئی ہے۔  
حضرات علماء جن کا وجود ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بڑے بڑے اکابر بفضلہ تعالیٰ  
زندہ موجود ہیں۔ جن کے مقابلہ کی کسی غیر مذہب کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ مگر ان کے کام  
میں جوں نہیں رینگتی وہ دیکھتے ہیں کہ مذہب پر چاروں طرف سے جملے ہو رہے ہیں کوئی  
امام انظر علیہ الرحمۃ کو کافر زندق تک لکھ دیتا ہے۔ کوئی ہدایہ شریف پر سینکڑوں اعتراض  
کرتا ہے۔ کوئی درجتار کے پیچے پڑا ہوا ہے۔ کوئی تقالید کو حرام، شرک اور بدعت قرار دیتا ہے۔  
مگر وہ تو جرنہیں کرتے۔ نہ اخباروں میں مصنفوں دیتے ہیں۔ نہ کوئی ڈیکٹ شائع کرتے ہیں۔  
نہ کوئی رسالہ ان کے جواب میں لکھتے ہیں۔

ادھرام ادا کا یہ حال ہے کہ رات دن دنیا کے نشر میں مت نہماز سے کام نہ روزہ کا  
پتہ۔ نسج نہ کوہا۔ صبح و شام فواہی میں مصروف۔ خبری نہیں کہ اسلام کیا پھر سے میئے کی  
شادی رچائیں گے تو آتش بازی، نایح، باجاوغیرہ و امہیات اور فضول رسموں میں گھر بارٹا  
دیں گے مگر اشاعت اسلام و اشاعت مذہب میں ایک پیسہ تک خرچ کرنا ضرولی بھیں گے  
اگر کوئی اہل علم اشاعت مذہب کے لیے کوئی رسالہ لکھے تو یہ مسموں ایک نجی بھی خریدنے  
سے دور نہ کریں گے۔ بخلاف اس کے دوسرے مذاہب کے امراء اپنا الترجیح اپنے خرچ سے  
چھپو کر معنف تقسیم کرتے ہیں۔

ربہ حضرات صوفیائے کرام جن کے اشارہ سے سینکڑوں مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ مگر  
یہ حضرات بھی ذکر و مرافقہ میں ایسے مستقر ہیں کہ انہیں خبری نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔  
ایسے وقت میں جب کہ علماء کی سخت ضرورت ہے۔ ان کا جمود کیا نگ لائے گا۔ اگر یہ حضرات

اس طرف توجہ فرماتے تو ہر سال علماء کی ایک جماعت تیار کر سکتے تھے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔

کتب حدیث کا ترجیح آج تک کسی حنفی نے نہیں کیا صحاح سنہ کا ترجیح اردو میں دہبیوں نے کیا ہے جس میں جا بجا انہوں نے حنفی مذہب کی تزویہ کی ہے۔ موطا امام محمد و آثار امام محمد کا ترجیح بھی دہبیوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی اہل علم شاذ نادر اس طرف توجہ بھی کر سے تو پھر مصارف طبع کہاں سے لائے غربا کے پاس پیسہ نہیں۔ امراء کو مذہب کی ضرورت نہیں اگر کوئی صاحب اپنی ضرورت نے پچا کر کوئی کتاب یا رسالہ طبع کرائے۔ تو کوئی اس کا خریدار نہیں بنتا۔ پھر یا تو سب کتابیں جمع پڑیں یا مفت تقیم کرے۔ اگر مفت تقیم کر سے تو دوسرا کتاب کی طبع کے لیے مصارف کہاں سے لائے۔ غرض پڑی مشکل ہے۔

بہر حال میں نے ایک حدیث میں ویکھا کہ سرو ر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اہست میں سے چالیس حدیثیں جو کہ دین کے بارہ میں ہوں۔ یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کو فقہا و عمل کے زمرہ میں اٹھاتے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو فقیہ عالم مبیث کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کے لیے شافع و شہید ہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو حکم ہو گا کہ جنت کے جس دروازہ کے لامستہ تو چاہے داخل ہو۔ الرجعن نویں تو میں نے بھی اسی امید پر چالیس حدیثیں لکھی ہیں۔ امید ہے کہ حضرات احباب ان احادیث کو حذف کر کے ثواب حاصل کریں گے۔ اور اپنے مذہب کو بھی غیر کی دستبر دسے بچائیں گے۔

وَهَا نَا اشْرِعْ فِي الْمَقْصُودِ بِتَوْفِيقِ أَهْلِهِ الْوَدْدِ

فقیر

ابُو يُوسُفْ مُحَمَّدٌ شَرِيفٌ عَفَانَ اللَّهُ عَنْهُ

## حدیث ۱

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَغْمَالُتِ الْبَيْتَ وَإِذَا أَمْرَأَ مَانُوِيَّ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أُمْرَأٌ قَوْتِيَّةٌ يَتَرَوَّجُهَا فِي هِجْرَتِهِ إِلَى مَا هَا جَرَالِيهِ (متفق عليه)

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سے روایت ہے کہا انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے نہیں اعمال رکا اعتبار اور خدا کی درگاہ میں قبولیت (نیتوں کے ساتھ ہے یعنی کوئی عمل بدوس نیت معتبر اور مقبول نہیں اور کسی ادمی کو اس کے کام میں حصہ یا ثواب نہیں۔ مگر وہی جو اس نے نیت کی پس جس شخص کی ہجرت محض خدا اور اس کے رسول کے لیے ہو یعنی اس کی نیت میں طلب رضا و انتشار ع ہو، تو اس کی ہجرت خدا اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ (یعنی مقبول ہے اور اس پر ثواب عظیم مرتب ہوتا ہے۔ اور جس کی ہجرت محض حصول دنیا ہو یا کسی عورت کے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا۔ رخدا اور رسول کی رضا مندی کے لیے نہ ہو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی حصول دنیا یا نکاح۔ اس کو سخاری و مسلم نے روایت کی۔ اس حدیث میں بڑا علم ہے۔ امام شافعی و احمد رحمہما اللہ نے اس حدیث کو ثابت اسلام یا ثابت علم فرمایا ہے۔ یہیقی نے اس کی توجیہ یہ فرمائی ہے کہ علم یادوں سے ہوتا ہے یا زبان سے یا نقيبه اخناد سے اور نیت عمل دل کا ہے۔ اس لیے یہ حدیث علم کا یقین احتسہ سہولی۔ (مرفقة)

اکثر مصنفین اصلاح نیت کے لیے اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی بہایت فرمائی ہے اور ہر عمل کے ثواب کو نیت پر موقوف فرماتے ہے اگر اعمال میں نیت نیک ہے تو ثواب ہے ورنہ نہیں۔

ہجرت ایک عمل ہے اگر اس میں حق سجناء و تعالیٰ کی رضا اور امثال امر مقصود ہے تو موجب برکات ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی طرح انسان جو مکمل کرتا ہے اگر اس میں رضلئے حق مقصود ہے تو باعث اجر ہے۔ ورنہ نہیں۔ اب اس حدیث سے جو فائد مرتبط ہو سکتے ہیں وہ سنئے اور خوب یاد رکھئے۔

۱۔ ایک شخص اپنے قریبی کو کچھ خیرات دیتا ہے۔ اگر صرف اس کی غربی کا خیال کر کے دیتا ہے صدر حکم کی نیت نہیں تو صدقہ کا ثواب تو پائے گا۔ لیکن صدر حکم نہ ہو گا۔ اگر شخص صدر حکم کے لیے دیتا ہے تو صدر حکم کا ثواب ہو گا صدقہ کا ثواب نہ ہو گا۔ اگر دونوں نیت کرے تو دونوں ثواب پائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک کام میں متعدد نیتیں کرنے سے ہر ایک نیت پر ثواب ملتا ہے۔

۲۔ مسجد میں بھینا ایک عمل ہے۔ اگر اس میں بہیت اعتکاف بیٹھے۔ تو اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ اگر نیت اعتکاف کے ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ جماعت کا انتظار ہے۔ تو بھکر حدیث (جماعت کا منتظر نماز میں ہے) اس کو نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ اگر یہ نیت کرے کہ آنحضر کان اور تمام اعضا کی جملہ منہیات سے خناکت ہو گی۔ تو یہ ثواب بھی حاصل ہو گا۔ پھر اس پر یہ نیت بھی کرے کہ صلوٰۃ وسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھ کر بڑھوں گا۔ تو اس کا ثواب بھی پائے گا۔ اگر یہ نیت بھی کرے کہ حج و عمرہ کا ثواب ملے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کر کے مسجد میں جائے اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے) تو اس کو یہ ثواب بھی ملے گا۔ پھر اس پر یہ نیت بھی کرے

کو مسجد میں علم کا افادہ یا استفادہ ہوگا۔ یا امر معروف اور ہبھی منکر حاصل ہوگا۔ تو اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کر لے گا۔ پھر اگر یہ نیت بھی کرے کہ کوئی دینی بحافی مسجد میں ملے گا۔ اس کی زیارت سے مستفیض ہوں گا تو یہ اور اجر ہوگا۔ اسی طرح اگر نیت تفکر و مراقبہ کی کرے کہ مسجد میں تنہا ہو کر دل کی جمعیت کے ساتھ مراقبہ کروں گا۔ تو یہ اجر بھی پائے گا۔ الغرض جتنی نیتیں کرے گا۔ سب کا ثواب پائے گا۔ کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ انسان امری مانو ہی کا یہی مطلب ہے۔ کہ جو نیت کرے گا وہ پائے گا۔

۳ - اسی طرح اگر کسی میت کے ساتھ کوئی شخص تقدیم یا گلط قبر پر لے جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قبر پر ماسکین جمع مل سکتے ہیں۔ نیز عام ماسکین جمازے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی عرج نہیں ہے۔ میت کے لیے جو کچھ دیا جائیگا۔ حق سب جائز و تعالیٰ اس کا ثواب اس میت کو ضرور پہنچائے گا ہاں اگر اس کی نیت درست نہیں۔ بلکہ مخفی و کھادا ہے۔ تو خواہ گھر کی کوٹھری میں بیٹھکر خیرات کر لیکا اس کا ثواب کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کرنیت صحیح نہیں۔ معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت خدا کے لیے اور ایصال ثواب کی ہے۔ تو قبر پر لے جانے سے کوئی عرج واقع نہیں ہوتا۔ اور اگر نیت میں ریا ہے تو گھر میں بھی کچھ نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسے امور میں نیت صحیح ہوئے یہ کہ ایسے کام ہی چھوڑ دیں۔

۴ - اسی طرح میت کے بعد تیرے یا ساقوں یا دسویں یا چالیسویں دن کھانا پکا کر ماسکین کو کھلانا یا جائے۔ اس میں بھی اگر دارثوں کی نیت یہ ہے۔ کہ ان دنوں میں ماسکین جمع ہو جلتے ہیں یا دوسرے خوش واقارب آجاتے ہیں یا معین کرنے کے سبب کچھ نہ تو معین کرنے میں کوئی عرج نہیں کچھ ادا ہو جائے ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ ان اوقات مخصوصہ میں کھانا کھلانا تو پہنچتا ہے۔ آگے پیچے کا نہیں پہنچتا تو یہ نیت غلط ہے۔ اس کی صلاح کردینی چاہئے کہ میت کو جس روز کچھ ثواب پہنچانا

چاہے پہنچتا ہے۔ کھانا ہو یا نقدی یا قرأت قرآن تخصیص ایام کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی مصلحت ہو تو حرج بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیت پر اعمال کا مدار ہے۔ نیت الصال ثواب ہے تو جس روز دے گا ثواب پہنچے گا۔ قیسرادن ہو یا ساتوں یا دسوال۔ اگر ریا ہے تو سب کچھ بے کار ہے۔

۵۔ اسی طرح اگر میت کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں اور کلمہ رپڑھتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے لہ خالی چپ، چاپ بیٹھنے سے بجز حقہ کشی اور وابہیات فضول بالوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر کلمہ طیب حسکی نسبت حدیث شریف میں افضل الذکر آیا ہے، پڑھتے رہیں تو یقیناً موحیب برکت ہے۔ پھر اگر بعض روایات کے مطابق ستر ہزار بار ہو جائے اور میت کو بخشا جائے تو امید مغفرت ہے تو کیا وجہ ہے کہ موجب حدیث "انما الامری مانوی" کلمہ رپڑھنے والوں کو ان کی نیت کے مطابق ثواب نہ ملے؟ جب حسنور علیہ السلام نے فرمادیا ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اور ہر شخص کو وہی ملیکا جو اس نے نیت کی تو ضرور اجر ملے گا۔ پھر وہ میت کو بخشیں گے تو ضرور میت کو بھی پہنچے گا۔

۶۔ اسی طرح مجلس میلاد کا کرنا اور جلوس نکالنا ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو اور اسلام کی عزت و عظمت و ہمیت مخالفین اسلام کے دلوں میں جاگریں ہو تو اسی حدیث کی رو سے جائز ہے کہ اس کی نیت نیک ہے۔

۷۔ اسی طرح ہر دو کام حسیں کی ممانعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ز فرمائی ہو۔ نیک نیت کے ساتھ جائز اور کار ثواب ہے۔

۸۔ قرآن شریف جنابت کی حالت میں پڑھنا منع ہے۔ لیکن اگر بہ نیت دعا پڑھے تو درست ہے۔ مثلاً وہ آیات جن میں دعا ہے جنی کو بہ نیت قرأت قرآن پڑھنا حرام ہے اور بہ نیت دعا درست ہے۔

**الحاصل** ہر کام میں نیک نیت ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا روم نے مذنوی شریعت میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا اور مسجد کی طرف ایک دریچہ رکھا اس کے پرنسے پوچھا کریہ دریچہ کس لیے رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہوا کے لیے۔ اپنے فرمایا اگر تو یہ نیت کرتا کہ دریچہ محض اس لیے رکھا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آجائے۔ یا جماعت کے کھرے ہرنے کا علم ہو جایا کرے تو ہو اخذ بخود آجیا کرتی اور تجھے اس کا ثواب ہوتا۔

۱۰۔ اشعتہ المیات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ احادیث میں ایک حبیب ٹانکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اَنَّكُمْ تَلَكَ الصِّحِيفَةَ اَنَّكُمْ تَلَكَ الصِّحِيفَةَ۔ اس صحیفہ کو ڈال دے۔ اس صحیفہ کو ڈال دے۔ وہ فرشتہ عرض کردا ہے کہ خدا یا تیرے اس بندے نے نیک باتیں کیں۔ نیک عمل کئے۔ ہم نے سنادیکھا اس کے نیکیوں کے دفتر میں لکھا اب اسے کس طرح ڈال دیں۔ حکم ہو گا کہ لم یُرِدْ بِهِ وَجْهِی کہ اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا یعنی اس کی نیت اس عمل میں میری رضانہ تھی۔ اس لیے میرے حضور میں مقبول ہیں۔ اسی طرح ایک درس سے فرشتہ کو حکم ہو گا اُنکُلْ لِفَلَانِ كَذَا كَذَا فَلَالَ بَنَدَهُ كَعَمَالَ نَاهِ میں فلاں فلاں نیک عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرے گا۔ کہ خدا یا اس نے تو یہ کام کیا نہیں تو کیسے کہوں۔ حکم ہو گا کہ اس نے نیت کی تھی۔ اس کا ارادہ کرنے کا تھا۔ مگر اس سے نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ دیکھنے نیت نیک کرنے سے بغیر کیے اعمال کا ثواب مل گیا۔ اور بُری نیت سے کئے ہوئے اعمال ضائع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اخلاص کی توفیق دے!

### حدیث ۳

عَنْ مَعَاذِبِنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ

إِلَى الْيُمْنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءً وَ قَالَ أَقْضِنِي  
بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْسَنَةٌ رَسُولٌ  
إِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ لَمْ تَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدْ مِهْرَافِي وَلَا إِلَوْقَالْ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَقَ رَسُولُ رَسُولِ  
اللَّهِ لِمَا يَرْضِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - (رواہ الترمذی والبوداود والدارمی)

”معافین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کی طرف قاضی بن اکر بھیجا تو فرمایا کہ جب کوئی تجویز معااملہ پیش آیا تو کیسے فیصلہ کرے گا۔ معاذ نے عرض کی کہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر اللہ کی کتاب میں تو اس حکم کو نہ پائے تو پھر کیا کرے گا۔ انہوں نے عرض کی کہ رسول علیہ السلام کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو رسول علیہ السلام کی سنت میں بھی اس حکم کو نہ پائے۔ تو پھر کیا کرے گا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی عقل، اور رائے کے ساتھ احتیاد کروں گا اور طلب اذواب میں کمی نہ کروں گا، معاذ کہتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سیدنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس حیز کی توفیق دی جس کے ساتھ اللہ کا رسول راضی ہے۔“

۱- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استخراج احکام میں قرآن مقدم ہے پھر حدیث ۲- اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو یعنی تان کو حدیث کی تابع نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ حدیث کو قرآن کی تابع کرنا چاہیئے۔ چنانچہ مسئلہ فاتحہ خلفت الامام میں جو کہ مقلدین اور غیر مقلدین کا متنازع ہے مسئلہ ہے اس میں پہلے قرآن دیکھنا چاہیئے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاشْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُو الْعَدْلَ حُكْمُ تُرْحَمُونَ

وَسَمِّيَ يَقُولُ أَسْفِرُ وَإِلَى الْعَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ رواه الترمذی

وقال حدیث حسن صحیح دا بودا و دالدارمی.

"رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے کہنا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ نماز فجر کو اسفار کرو۔ یعنی روشنی میں او کرو کیونکہ اس کا روشنی میں او کرنا اجر میں بہت بڑا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کو اچھی روشنی میں پڑھنا بہت ثواب ہے اور یہی مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اشرفۃ المساجد ص ۳۲۷ میں فرماتے ہیں کہ کہ اسفار کی حد ہمارے مذہب کے مشائخ سے اس طرح منقول ہے کہ چالیس آیت یا سانچھ یا اس سے زیادہ سو آیت تک بطریق ترتیل قرأت پڑھ کر نماز ادا کرے۔ پھر بعد از فراغ نماز اگر بالغ فرض کوئی سہواں کی طہارت میں ظاہر ہو یا کسی وجہ سے نماز کو دہرا ناپڑے تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اسی طرح قرأت مسوونہ کے ساتھ اس کا اعادہ ممکن ہو۔

بخاری شریعت میں حضرت عبد الدین مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ وہ یہ ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَوةً بِعَيْرٍ مِّنْ قَاتِلَهَا الْأَصْلَوْمَيْنِ جَمِيعَ بَيْنِ الْمَفْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَجَمِيعَ وَصَلَّى الْعَجْرَ قَبْلَ مِنْ قَاتِلَهَا رِوَاهُ الْبَخَارِيِّ وَ مُسْلِمٌ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ۔

حضرت عبد الدین مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہ آپ نے نماز کے بغیر وقت میں نماز پڑھی ہو۔ یعنی ہمیشہ حضور علیہ السلام نمازو

اس کے وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے سوائے دو نمازوں کے آپ نے مغرب اور عشاء کو مزادفہ میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا۔ صحیح مسلم میں قبل وقتہ کے آگے بغلس کا لفظ بھی آیا ہے یعنی نماز فجر کو اس کے وقت سے پہلے غلس میں پڑھا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے تو اجماع نماز جائز نہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقت مقاد سے پہلے پڑھی۔ یعنی مزادفہ میں فجر اندر ہریے میں پڑھی۔ اگرچہ بعد طلوع فجر پڑھی۔ لیکن اندر ہریے میں فجر پڑھنا پھر جائز کہ آپ کی عادت نہ تھی اس لیے اس روز آپ نے نماز فجر و زمرہ کے وقت مقاد سے پہلے پڑھی۔

بخاری میں مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روز مرہ آپ کی عادت مبارکہ فجر کی نماز میں اسفار کرنا تھا لیکن نے اسفار کا معنی ظہور فجر کیا ہے اور یہ باطل ہے اس لیے کہ قبل ظہور فجر تو نماز فجر جائز ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اسفار سے مراد نہیں ہے۔ یعنی خوب روشنی کرنا اور وہ غلس کے بعد ہے۔ یعنی زوال ظلمت کے بعد اور حضور کا فاتحہ اعظم للہ اجر فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ نماز غلس میں بھی ہو جاتی ہے اور اس کا اجر ہے۔ مگر اسفار میں زیادہ اجر ہے۔ تو اگر اسفار سے مراد صنوح فجر ہو تو اس سے پہلے تو نماز ہی جائز نہیں پھر و صنوح فجر میں زیادہ اجر کیسے ہوا۔

اس مصنفوں کی بہت حدیثیں آئی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اچھی روشنی میں پڑھنا ستحب ہے اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔

سنن نسائی میں محمود بن لمیڈا اپنی قوم کے چند انصار بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا أَسْفَرْتُنُّمْ بِالصُّبُّحِ فَإِنَّهُ أَعَظَّ مُوَلَّدَاجْرٍ  
کہ صبح کا جستہ اسفار کرو گے۔ وہ اجر میں بڑا ہو گا

اس حدیث کو حافظہ ملیعی نے صحیح کہا۔ تو اس حدیث سے اسفار کے معنی بھی معلوم ہو گئے کہ خوب روشنی کرتا ہے اور غالباً غین کی تاویلات کی بھی تردید ہو گئی۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلاں کو فرمایا:  
 يَا بَلَالُ وَقِيلَ صَلَوةُ الصَّيْغِ حَتَّىٰ يَنْصِرَ الْفَوْمُ مَوَاقِعَ سَبَلَهُمْ مِنَ الْأَسْفَارِ  
 کر لے بلاں! صحیح کی نماز میں اتنی روشنی کیا کرو کہ لوگ اسفار کی وجہ سے اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھ لیا کریں۔

اس حدیث کو ابو داؤد و طیالی اور ابن الجیش و اسحاق بن راہب و طبرانی نے سچم میں روایت کیا اسی صحیح بہاری جلد ۲ ص ۲۵۶

آثار السنن میں اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ فخر میں اسفار ستحب ہے۔ تیروں کے گرنے کی جگہ اسی وقت نظر آ سکتی ہے کہ اچھی روشنی ہو۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

سَنْ نُورَ الْفَجْرِ نُورُ اللَّهِ فِي قَبْرِهِ وَ قَلْبِهِ وَ قُلْ صَلَوتُهُ۔ رواه الدبلی  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص فخر کو روشنی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور اس کے دل کو روشن کرتا ہے اور اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے (صحیح بہاری)

### ایک شیخ

بعض احادیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کی نماز غلس یعنی اندر چیر کی میں پڑھتے تھے۔ بعورتیں نماز فخر میں حاضر ہوتی تھیں جب فارغ ہو کر گھروں میں جاتی تھیں تو بسبب اندر چیر سے کچھ چاہانی نہیں جاتی تھیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اندر چیر اس مسجد کے اندر وہی حصہ میں ہوتا تھا نہ یہ کہ حسن میں بھی اندر چیر ہوتا تھا۔ اسفار کے وقت بھی سچد کے اندر وہی حصہ میں اندر چیر ہوا کرتا ہے۔

جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ اسفار نہ کرتے تھے کہ آفتاب کا طلوع قریب ہو جائے۔ پھر ان حدیث میں آپ کا اسفار میں نماز فجر پڑھنا ثابت ہے۔

اعلام السنن حصہ دوم ص ۱۹ میں بیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات بیان فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ ظہر کی نمازوں وال آفتاب کے بعد اور عصر کی نماز تمہارے ظہر و عصر کے درمیان پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی نمازوں ب آفتاب کے وقت اور عشاء کی نمازوں ب شفق کے وقت۔

وَيَسْأَلُ النَّعَادَةَ عِنْ طَلُوعِ الْفَجْرِ حِينَ يَفْتَحُ الْبَصَرُ۔

اور فجر کی نمازوں طلوع صبح کے بعد پڑھتے تھے جیکہ نگاہ کھلنے لگئے یعنی دور دور کی چیزیں نظر کرنے لگیں۔

اس حدیث کو ابو علی نے روایت کیا۔ اس کی سند حسن ہے۔ (مجموع الزائد)

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بیان ہی سے روایت ہے کہ اس نے سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّبِيْحَ حِينَ يَفْتَحُ الْبَصَرُ رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نمازوں صبح پڑھتے تھے کہ نگاہ دور تک پہنچ سکے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں صبح اسفار میں پڑھتے تھے۔

اعلام السنن حصہ دوم ص ۲۲ میں بحوالہ طبرانی مجاہد سے روایت ہے۔ وہ قیس بن شعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصلی الفجر حتی ینشغی النور السماء۔  
قیس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر پڑھتے تھے جوکہ احسان میں  
روشنی پھیل جاتی۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز حضور علیہ السلام اسفار میں پڑھتے تھے اپس  
یا تو احادیث فعلیہ میں تطبیق کی جاتی گی کہ انہیں سے مراد اندر ولی حصہ مسجد کا اندر ہے  
یا یہ کہ اسفار اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ آفتاب کا نکلن اقرب ہو جاتے۔ کامرا غلس میں نماز  
پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا۔ یا احادیث فعلیہ میں بسبب متعدد ہونے کے کسی فرقے کے  
لیے جدت نہیں اور احادیث قولیہ بلا معارض باقی رہیں تو الاماکن احادیث قولیہ پر عمل ہو گا علاوہ  
اس کے قول فعل میں جب تعارض ہو تو قول مقدم ہتا ہے۔ کذا قال الشیخ عبد الحق  
فی اشعة اللمعات نواس مشکلہ میں بھی احادیث قولیہ اسفر و ابالفجرا و رتویرا  
بلال حدیث غلس پر بوجکہ فعلی ہے مقدم ہوگی۔

### صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

علاوه اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السَّلَامُ احتججین سے بھی اس فراز ثابت ہے۔  
چنانچہ امام طحاوی نے بسند صحیح ابراہیم سخنی سے روایت کیا ہے اس نے کہا  
مَا اجْتَسَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا  
اجْتَسَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ۔  
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات پر اس قدر متفق نہیں ہوئے جو قدر  
اسفار فجر پر متفق ہوئے۔

### حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

صحیح بہاری ص ۲۵۶ میں حضرت النبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ صَلَّى بِنًا أَبُو بَكْرٍ صَلَوةَ الصَّبْعِ فَقَرَأَ إِلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ  
الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَالَ لَمْ تَطْلَعْتُ لَمْ تَحْدُدْنَا غَافِلِينَ وَاهَا الْبَيْهِقِي  
فِي السُّنْنِ الْكَبُورِيِّ.

انہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں صحیح کی نماز پڑھاتی تو سورہ  
آل عمران پڑھی۔ لوگوں نے بعد فراغ نماز کہا کہ آفتاب نکلنے کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر  
آفتاب نکل آتا تو ہمیں غافل نہ پاتا۔ یعنی ہمیں نمازوں دیکھنا۔

اس حدیث کو بیہقی نے سسن کبری میں روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر  
نمازوں سفر میں پڑھا کرتے تھے۔

## حضرت عمر رضی اللہ عنہ

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهَدِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ خَلَفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتَّى ظَنَّ الرِّجَالُ ذُو الْعُقُولِ إِنَّ الشَّمْسَ طَلَعَتْ  
فَلَمْ يُسْلِمْ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَقَالَ  
فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ أَيْ شَيْءٍ قَالَ فَقَالُوا لَوْ  
طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَحْدُدْنَا غَافِلِينَ۔ رواہ البیہقی فی السنن کبری

ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازوں سفر میں پڑھا کر آپ نے سلام  
نہ پڑھا رہیا تک کہ عقلمند لوگوں نے طن کیا۔ کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ اور آپ نے سلام نہ پڑھا۔  
لوگوں نے بعد از فراغ نماز اعرض کی کہ اے امیر المؤمنین آفتاب نکلنے کے قریب ہے ابو عثمان  
کہتے ہیں کہ حضرت نے کچھ کلام کی جو میں نہیں سمجھا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا  
ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اگر آفتاب نکل آتا تو ہمیں غافل نہ پاتا۔ اس کو بیہقی نے سنن کبری  
میں روایت کی۔ صحیح بہاری معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فرماں نمازوں پڑھا کرتے تھے۔

## حضرت علی رضی اللہ عنہ

عن یزید الاوادی قال کان علی بن ابی طالب یُصْلِی بِنَ الْفَجْرِ  
وَنَخْنُ نَدَرِی الشَّمْسَ مَحَافَةً أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَعَتْ  
رواہ الطحاوی۔

یزید اوادی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سہیں فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔  
اوہم آفتاب کو دیکھتے تھے۔ اس ڈر سے کہ ہیں نکل نہ آیا ہو معلوم ہوا کہ حضرت  
علی سہی اپھی روشنی میں فجر پڑھا کرتے تھے۔

عبد الرحمٰن بن ابی شیبہ طحاوی نے بسنی صحیح روایت کیا ہے کہ حضرت  
علی رضی اللہ عنہ اپنے موذن کو فرماتے تھے۔

أَسْفَرَ أَسْفَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ  
کہ اسفار کرو اسغار کرو صبح کی نماز میں۔ (اعلا النّن)

## حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

امام طحاوی عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں  
قالَ كُنَّا نَصِيْلِي مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُسْهِرُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ  
عبد الرحمن کہتے ہیں کہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز  
صبح میں اسفار کیا کرتے تھے۔

طبرانی نے کبیر میں اسی طرح روایت کیا ہے۔

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ  
جمع الزوائد میں اس کے سب راوی ثقہ لکھے ہیں۔ (اعلا النّن ۱۲۳)

الحاصل مذہب امام اعظم کا کہ فخر کی نماز میں اسفار سخت ہے۔ نہایت قوی ہے۔  
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت المعمات میں فرماتے ہیں کہ فخر کی تائیر اخیر  
 وقت تک اجما عاً بلا کراہت مباح ہے اور تقلیل جماعت بھی مکروہ اور لوگوں کو مشقت  
 میں ڈالنا بھی مکروہ یعنی غلس میں فخر پڑھنا ایک تو تقلیل جماعت کا باعث ہے جو مکروہ  
 ہے۔ اور دوسرا لوگوں کو مشقت میں ڈالنا ہے اور وہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے حضرت  
 معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطویل فرأت سے منع فرمایا اور اسفار  
 میں نماز پڑھنا باعث کثرت جماعت اور آسانی ہے۔ علاوہ اس کے فخر کی نماز کے بعد  
 اسی جگہ آفتاب نکلنے تک بیٹھنے رہنا سخت ہے جو اسفار میں آسان ہے لیکن  
 غلس میں آسان نہیں۔ واللہ اعلم!

### حدیث ۳

عَنْ إِبْرَهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ الْمَوْذِنُ أَنْ يُؤْذِنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرُدُ ثُمَّ أَرَادَ مَنْ يُؤْذِنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرُدُ شُعَارَادَ أَنْ يُؤْذِنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرُدُ حَتَّىٰ سَاوَى النَّطِيلَ الشَّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِشَدَّدَ الْحَرِّ مِنْ فِي نَعْجَنَجَهَمَ - رواه البخاري  
 في باب الاذن ص ۸۴

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہما انہوں نے کہ تم رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ موذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے  
 فرمایا۔ ٹھنڈا کرو۔ یعنی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد اذان دینے  
 کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا۔ ٹھنڈا کرو یعنی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے پھر تھوڑی

دیر کے بعد اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا مخدھنا ہونے دو۔ اس نے پھر مخورہ می دیر کے بعد اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اور مخدھنا ہونے دو۔ یہاں تک کہ سایہ شیلوں کے برابر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے اس کو سخارہ می نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے۔ کیونکہ یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہے کہ شیلوں کا سایہ بہت دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ میلے اشیا منبسط میں سے ہیں لیعنی مٹی یا ریت کے اوپر کے ڈھیر کو میلے کہتے ہیں۔ اس کا سایہ حب ایک مثل ہو جیسا کہ حدیث مذکور میں آیا ہے تو اشیا متصبیہ لکھری وغیرہ جو کھڑی کی جاتے۔ اس کا سایہ مثل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حدیث مذکور میں صاف تصریح ہے کہ ظہر کی اذان اس وقت ہوئی جبکہ شیلوں کا سایہ ان کے برابر ہو گیا۔ تو یہ اذان کھڑی چیزوں کے سایہ کے ایک مثل کے بعد میں ہوئی۔ تو ثابت ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد تک باقی رہتا ہے۔ علاوہ اس کے اذان تو ایک مثل کے بعد ہوئی اور اذان اور نماز میں ایک محدود فصل ہوتا ہے۔ تو نماز کا ایک مثل کے بعد ہونا اور بھی ظاہر ہو گا۔ یہی مذہب ہے حضرت امام ابوحنیف رحمہ اللہ کا کہ نماز ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہتا ہے۔

اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جو کہ امام سخاری رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرماتے تھے کہ تمہاری عمر ان لوگوں کی عمر کے مقابلہ میں جو تم سے پہلے تھے ایسی ہے جیسے کہ عصر کی نماز سے غروب شمس تک اہل توریت کو توریت ملی۔ انہوں نے کام کیا حب آدھا دن ہو گیا تو وہ عاجز ہو گئے۔ یعنی تھک گئے۔ تو ان کو ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجلیل ملی تو انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا پھر عاجز ہو گئے۔ تو ان کو بھی ایک ایک قیراط ملنا۔ پھر ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا تو سہیں دو دو قیراط اعطا

ہوئے۔ اس پر ان دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے خدا تو نے ان کو دود و قیراط دیتے۔ اور ہمیں ایک ایک قیراط حلال نکہ ہم کام میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہمیں نے لمبھاری مزدوری میں سے کچھ نقصان کیا۔ انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے۔ جس کو چاہوں دیدوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد دو مثل تک باقی رہتا ہے۔ کیونکہ اس میں نصریح ہے کہ یہ دو نصاریٰ دونوں کہتے ہیں۔ لخن اکثر عملہ ایک دوسری روایت میں ہے واقعہ عطا کہ ہمیں کام بہت اور اجرت تھوڑی۔ تو اگر ظہر کا وقت ایک ہی مثل تک ختم ہو جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو عصر کا وقت ظہر کے وقت کے برابر ہو جاوے گا۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ چاہتے ہیں کہ عصر کا وقت بینبنت ظہر کے وقت کے کم ہو اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل تک باقی رہے۔ اور دو مثل کے بعد عصر شروع ہو تک غروب آفتاب تک اُس کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہو۔

اس کی تائید میں ہے۔ وہ حدیث جو امام مالک نے موطا میں عبد اللہ بن رافع سے روایت کی ہے کہ اس نے ابو ہریرہ سے نماز کے اوقات سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا **صَلِّ الظَّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلِنِكَ.** یعنی ظہر کو اس وقت ادا کرو جبکہ تیرسا یہ تیرسا یہ مثل ہو جائے اور عصر اس وقت پڑھو جبکہ تیرسا یہ دو مثل ہو جائے۔ (المحدث)

تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ نماز کے وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو معلوم ہوا کہ مثل کے بعد وقت باقی رہتا ہے یہی ہی نماز عصر کو دو مثل کے بعد

پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ کا ہے و اللہ الحمد۔

جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث میں تصریح ہے کہ جبریل نے پہلے دن عصراً سوچت پڑھی جبکہ سایر برشے کا اس کی مثل تھا پھر دوسرے دن ظہر اس وقت پڑھی جبوقت پہلے دن عصراً پڑھی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

صَلَّى الْمَرْءُ الثَّالِثُ إِلَيْهِ الظَّهِيرَ حِينَ كَانَ ظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوُقْتِ  
الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ.

اس کو ترمذی والبوداؤ نے روایت کیا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایک مثل بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔

رسی یہ بات کہ اس حدیث سے نماز عصر کا ایک مثل کے وقت پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث جبریل دربارہ وقت عصر منسخ ہے کیونکہ حدیث ابوذر جبل کوہم اور پلکھ آئے ہیں۔ متأخر ہے اور حدیث جبریل یقیناً مقدم ہے ان دونوں میں تطبیق ممکن ہنیں تو لا حال حدیث متقدم منسخ بھی جاتے گی۔

كَمَا قَالَ أَبْنُ الْهَمَامَ فِي فَنْحَ الْقَدِيرِ۔

نیز حدیث بریدہ صنی اللہ عنہ جس میں ایک سائل نے حضور علیہ السلام سے اوقات نماز کا سوال کیا۔ اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں آیا ہے۔

فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَمْرَأٌ فَابْرَأَهُ بِالظَّهِيرَ فَأَبْرَأَهُ بِهَا  
فَأَنْعَمَ أَنْ يَبْرَأَهَا رَمْسُلٌ

جب دوسرا دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کو سرو کر۔ تو اس نے سرو کیا اور سرو کرنے میں مبالغہ کیا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بعد مثل کے ادا ہو اور یہ کہنا کہ بعد مثل ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہے اجماع کے خلاف ہے بعض علمائے امام مالک سے نقل کیا ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ان کا قول بھی یہی ہے کہ ظہر کا اخیر وقت

ایک مثل تک ہے۔ کذا فی رحمة الامنة للشرعاني۔

اس تحقیق سے کما حقہ ثابت ہو گیا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب کاظمہ کا وقت دو مثل تک ہے۔ نہایت صحیح اور احادیث صحیح کے موافق ہے۔ فقہاء علیہم الرحمہ نے متون میں اسی کو اختیار کیا۔ بدائل میں اسی کو صحیح لکھا ہے۔ محیط اور نیایہ بیان میں وہ وصال صحیح لکھا ہے۔ (اعلام اسنن جلد ۲ ص ۳)

## حدیث ۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَتَّدَ الْحَرْفَ أَبْرُدُوا بِالصَّوَّةِ فَإِنَّ رَ  
شِدَّةَ الْحَرْفِ مِنْ فَيْحَةٍ جَهَنَّمَ۔ (متفق عليه)

فرما یا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو تحفظ کرو۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کو سخاری مسلم نے روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث میں تصریح ہے کہ ظہر کو تحفظ کرو جس کو امام سخاری نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفو عار وايت کیا ہے۔

مسلمون ہوا کہ نماز ظہر کو گرمیوں میں تحفظ کر کے پڑھنا ستحب ہے۔

یہی مذہب امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ و جمیور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ رہی یہ بات کہ ابراد کی حد گیا ہے۔ احادیث میں اس کی حد بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مثل کے بعد پڑھے چنانچہ حدیث چہار میں مفضل گزرا تو گرمیوں میں ظہر کو مثل سے پہلے پڑھنا اس حدیث کے خلاف ہے۔ نماز جمعہ کا بھی یہی حکم ہے کہ گرمیوں میں دیر سے اور سردیوں میں سویرے پڑھنا ستحب ہے۔

## حدیث ۶

عَنْ عَلَىٰ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُوَحِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بِيَضْنَاءِ نَقْيَةٍ رواه ابو داؤد و سكت عنه۔

علی بن شیبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم مدینہ شریعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ عصر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے جب تک سورج صاف اور روشن رہتا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور اس پر سکوت فرمایا۔ ابو داؤد جس حدیث پر سکوت فرماتے ہیں۔ وہ ان کے نزدیک حسن ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز عصر کو تاخیر کر کے پڑھنا سخت ہے اور تاخیر کی حد محji معلوم ہو گئی کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھ جیکہ آفتاب صاف اور روشن ہو۔ اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ وقت مکروہ ہو جائے۔

اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جو امام احمد اور ترمذی نے ابتدی صحیح امام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کو تم سے جلدی پڑھتے تھے۔ اور تم نماز عصر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پڑھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ نماز عصر میں تاخیر کرنا سخت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور یہی امام عظیم رحمۃ اللہ کا مذہب ہے۔

عبد الرزاق اپنے مصنف میں ثوری سے وہ ابو سحن سے وہ عبد الرحمن بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عصر کی نماز میں تاخیر کیا کرتے تھے (اعلام السنن ص ۳۴)

اسی طرح عبد الواحد بن نافع کہتے ہیں کہ میں مسجد مدینہ میں داخل ہوا تو مذہن

نے نماز عصر کے لیے اذان دی ایک بزرگ بلیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس موذن کو ملامت کی اور فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے خردی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم س نماز عصر کی تاخیر کا حکم دیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بد الشبن رافع بن خدیج ہیں۔ اس حدیث کو دارقطنی اور سبیقی نے روایت کیا۔  
 صحیح بہاری جلد ص ۲ صفحہ ۲۵۹

معلوم ہوا کہ نماز عصر میں تاخیر مرتقب ہے اور جن حدیثوں میں عصر کا سوریہ نہ آیا ہے۔ وہ ان حدیثوں کے منافی ہیں۔ کیونکہ سورج کے تغیر سے پہلے عصر پڑھ لینے سے غروب تک نحر طیخ اکل سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اہل بادیہ یہ سب کام جلدی کر تھے ہیں۔

## حدیث ۷

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ إِلَهٍ قَالَ سَالَ رَجُلٌ عَوْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَلَّكَتِ الشَّمْسُ أَذْنَنَ يَلَوْ الظَّهِيرَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى شَمَّاً أَذْنَنَ لِلْعَصْرِ حِينَ خَنَّاَنَ ظِلَّ الرَّجُلِ أَطْوَلُ مِنْهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَامَ وَصَلَّى شَمَّاً أَذْنَنَ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى شَمَّاً أَذْنَنَ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ شَمَّاً أَمَرَهُ فَاقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى شَمَّاً أَذْنَنَ لِلْفَجْرِ فَأَمَرَهُ فَاقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى شَمَّاً أَذْنَنَ بِكُلِّ الْفَدَلِ لِلظَّهِيرِ حِينَ دَلَّكَتِ الشَّمْسُ

فَأَخْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ ظِلُّ كُلِّ  
 شَيْءٍ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ فَاقْأَمْ وَصَلِّ شُورَ أذْنَ لِلْعَصْرِ  
 فَأَخْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ ظِلُّ كُلِّ  
 شَيْءٍ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَاقْأَمْ وَصَلِّ شُورَ أذْنَ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ  
 فَأَخْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَادَ يَغْيِبُ بِيَاضِ  
 النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ فِيمَا يُرْبِي شُورَ أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْأَمَ الصَّلَاةَ وَضَطَّ اشْرَأَذْنَ لِلْعِشاَ وَحِينَ  
 غَابَ الشَّفَقُ فَنَمَّا ثَمَّ قُمَّنَامِرَ شُورَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَنْتَظِرُ  
 هَذِهِ الصَّلَاةَ عَيْرُكُمْ فَإِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا اسْتَطَرْتُ شُورَهَا  
 وَلَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أَهْمَنِي لَأَمْرَتُ بِتَاخِرِهِ هَذِهِ  
 الصَّلَاةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ أَقْرَبَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ  
 شُورَ أذْنَ لِلْفَجْرِ فَأَخْرَهَا حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ  
 فَأَمَرَهُ فَاقْأَمَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى شُورَهُ فَقَالَ الْوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ  
 هَذَيْنِ رواه الطبراني في الأوسط وأسناده حسن -  
 (رَجُمُونِ الزوَايِّةِ، أعلاه البسن ص ٢٤)

جابر بن عبد الله صني الشد عن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا تو حب آفتاب دھل گیا تو بلال صنی الشد عن  
 نے ظہر کی اذن دی۔ اس کے بعد اپنے حکم دیا۔ تو اس نے تنبیہ کری تو اپنے نماز پڑھی۔  
 پھر اس کے بعد ادا کیا۔ اس وقت کبھی حب کہ ہم نے سمجھا کہ آدمی کا سایہ اس سے بڑھ گیا ہے

اس کے بعد آپ نے حکم دیا۔ تو انہوں نے تکبیر کی۔ تو آپ نے نماز پڑھی پھر نماز مغرب کی اذان اس وقت دی۔ جب کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو اس نے تکبیر کی تو آپ نے نماز مغرب پڑھی۔ پھر عشاء کی اذان اس وقت دی جبکہ دن کی سفیدی یعنی شفق جاتی رہی تو آپ نے حکم دیا اس نے تکبیر کی تو آپ نے عشاء پڑھی۔ پھر فجر کی اذان دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو انہوں نے تکبیر کی تو آپ نے نماز پڑھی پھر اگلے دن بلال نے ظہر کی اذان اسوقت دی جبکہ آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے یہاں تک تاخیر کی کہ ہر شے کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اس لئے بعد آپ نے حکم دیا تو اس نے تکبیر کی تو آپ نے نماز پڑھی پھر اس نے عصر کی اذان دی تو آپ نے یہاں تک تاخیر کی کہ ہر شے کا سایہ اس کے دو مشتمل یعنی دو گناہو گیا۔ تو آپ نے امر کیا تو اس نے تکبیر کی تو آپ نے نماز پڑھی۔ پھر اس نے مغرب کی اذان اس وقت دی جبکہ سورج غروب ہو گیا تو آپ نے یہاں تک تاخیر فرمائی کہ دن کی سفیدی یعنی غائب ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ شفق ہے۔ پھر آپ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے تکبیر کی تو آپ نے نماز پڑھی پھر عشاء کی اذان اسوقت دی جب شفق یعنی دن کی سفیدی یعنی غائب ہو گئی۔ پھر تم سو گئے پھر جا گئے کئی بار ایسا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے سو اکوئی آدمی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ لپس تم نماز میں ہی ہو جب تک نماز کے انتظار میں رہو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں تاخیر کا حکم کر کے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو اس نماز کو۔ نصف شب یا قریب نصف شب تک تاخیر کا حکم دینا پھر انہوں نے فجر کی اذان دی تو آپ نے یہاں تک تاخیر کی کہ آفتاب قریب طلوع تھا تو آپ نے امر فرمایا تو انہوں نے تکبیر کی تو آپ نے نماز فجر پڑھی پھر فرمایا کہ وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو کہ سُرخی کے بعد ہوتی ہے اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ غروب شفق تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور بعد غروب شفق عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق سے مراد سفیدی ہے جیسا کہ اس حدیث میں تصریح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سفیدی تک مغرب کا وقت رہتا ہے سفیدی دور ہو جائے تو عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی مذہب ہے امام ابو حیینہ علیہ الرحمۃ کا۔ رہی یہ بات کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت مشکین سے پہلے ہو جاتا ہے اس کا جواب حدیث چہارم میں گزارا، فلاعینہ۔

اسی کی تائید میں ہے وہ حدیث جو کہ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ابو ہریرہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے لیے اول اور آخر ہے نماز ظہر کا اول زوال شمس کے وقت ہے اور اس کا آخر جیکہ عصر کا وقت آجاتے اور وقت عصر کا اول جیکہ اس کا وقت ہو جاتے۔ اور اس کا آخری وقت جیکہ سورج زرد ہو جاتے۔ (یعنی وقت سخت سورج کی نردوی تک ہے) اور مغرب کا اول غروب شمس کے وقت ہے اور اس کا آخری وقت شفق کے غائب ہونے تک ہے۔ اور عشا کا اول وقت افق یعنی کنارہ کے غائب ہونے کے وقت ہے اور اس کا آخری سخت، وقت جیکہ آدمی رات ہو جاتے۔ اور فجر کا اول وقت طلوع فجر اور اس کا آخری وقت طلوع شمس تک ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشا کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ سفیدی غائب ہو جاتے۔ کیونکہ افق اسی وقت غائب ہوتی ہے جب سپیدی غائب ہو اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان فصل نہیں تو ثابت ہوا کہ سپیدی تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔

---

لئے معلوم ہوا کہ ظہر و عصر کے درمیان فصل نہیں ۷۰۳

اسی طرح ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ افق رکنارہ آسمان) سیاہ ہو جاتا ہے تو افق کا سیاہ ہونا سفیدی کے زائل ہونے کے بعد ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ شفق سے مراد سپیدی ہے۔ یہی مذہب ہے حضرت ابو بکر صدیق و معاذ بن جبل و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا در عمر بن عبد العزیز و اوزاعی و مزنی و ابن المنذر و خطابی نے ایسا بھی فرمایا ہے بہر اور شعبد نے اسی کو پسند کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

## حدیث ۸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَمَّةَ فَلَمْ يَجْرُحْ حَتَّى مَضَى مَحْرُمٌ  
شَطَرُ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخَذُنَا مَقَاعِدَنَا  
فَقَالَ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَصَانِيجَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ  
تَرَالْوَافِي صَلَاةً مَا تَنْتَظِرُ تُرْتَمِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطَرِ اللَّيْلِ

(رواہ ابو داؤد و النسائي و ابی داہم)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں پڑھی عشاء کی لیئے کئی کئی راتوں میں اور امکی رات، آپ نے نکلے یہاں تک کہ قریب آدمی رات کے گزر گئی یا کہ ہم نے عشاء پڑھنے کا ارادہ کیا یا یہ کہ ہم نے عشاء پڑھی جس کی تفصیل ہے کہ آپ نے نکلے یہاں تک کہ قریباً آدمی رات گزر گئی پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہے تو آپ نے فرمایا کہ اور لوگ نمازوں پڑھو چکے اور اپنی خواب، گاہوں میں لیٹ پیکے اور تم جب سے نمازوں کے انتظار میں ہی ہو۔ اگر مجھے صرف صنیع اور مرض ملین کا خیال نہ ہوتا تو میں اس

نماز کو نصف شب تک مoxر کرتیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ  
نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں تاخیر سخت ہے۔ امام عظیم رحمۃ اللہ  
کا یہی مذہب ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ آدمی رات ہو جانے کے بعد نماز پڑھی  
جائی تھی۔ کیونکہ آدمی رات کے بعد نمازوں کروہ ہے۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ایسے وقت  
میں پڑھی جائے کہ آدمی رات تک ختم ہو جائے۔

اسی کی تائید میں ہے وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمایا رسول  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ پر خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دنگا  
تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو رات کی ہٹائی یا نصف شب تک تاخیر کریں اس کو  
ترمذی نے روایت کیا۔

صحیح مسلم میں جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
نماز عشاء میں تاخیر فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک نماز  
عشاء میں غالب اوقات میں تاخیر تھی۔ وہ مذہ اقال امامُنَا الْأَعْظَمُ فَالْجَمِيعُوْر۔

## حدیث ۹

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَغْرِيظٌ إِنَّمَا التَّغْرِيظُ عَلَى مَنْ لَمْ  
يُصِلِّ حَتَّى يُخْيَى وَقُتُّ صَلَوةِ الْأُخْرَى۔ رواه مسلم۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں تغیریظ ہیں۔ تغیریظ  
(معنی جرم) اس پر ہے جو نہ نماز پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ اس  
کو مسلم نے روایت کیا۔

یہ حدیث، قولی اس امر پر شخص قاطع ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے وہ مفرط ہے یعنی قصور کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص ایک وقت میں دونمازیں جمع کرے وہ مفرط ہے کیونکہ اس نے نمازنہ پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آگیا پھر اس نے دونوں کو جمع کیا تو مجبوب اس حدیث کے وہ مجرم ٹھہرا۔

اسی مضمون کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی نماز اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کا وقت نہ آجائے۔

اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں کوتاہی کرنا یہ ہے کہ تم اس میں اتنی دیر کرو کہ دوسری نماز کا وقت آجائے یہ دونوں حدیثیں امام طحاوی نے روایت کی ہیں آثار السنن میں دونوں کو صحیح لکھا ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

کہ نمازوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا

ن وقت کے پہلے صحیح ن وقت کے بعد تاخیر روا۔ بلکہ ہر نماز فرض ہے کہ اپنے

وقت پر ادا ہو۔ نیز آیت

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى سے ثابت ہوتا ہے

کہ ہر نماز کی محافظت کا حکم ہے خصوصاً نماز وسطیٰ کا کہ کوئی نماز وقت سے ادھر ادھر نہ ہو۔

بیضناوی اور مدارک میں ایسا ہی لکھا ہے اور آیت

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاةِهِمْ يَهَا فَيَظْهُونَ میں انہی لوگوں کو جنت کے پتھے

وارث فرماتا ہے جو نماز کو وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ كَيْ تَفَسِِّيرٍ مِّنْ فَرَمَاتَهُ إِنْ  
أَخْرُّ وَهَا عَنْ مَوَاقِيْتِهَا وَصَلَوَاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا يَهُوَ الْجَنُّ كَيْ نَمَّتْ  
اس آیت میں ہے وہ میں جو نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹاتے میں اور غیر وقت  
پر پڑھتے میں۔ (عمدة القارئ و معالم وبغوي)

ہم تیسرا حدیث کے ضمن میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث لکھ آئے میں جس میں عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے غیر وقت میں نماز پڑھی ہو۔ سو اس دو نمازوں کے کہ آپ نے مغرب اورعشاد کو غیر وقت میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا۔ نسائی میں اس طرح آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ مگر مزدلفہ اور عرفات میں۔ اعلاء السنن ص ۲۶، جلد ۲ میں اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔

معلوم ہوا کہ جن حدیثوں میں جمع بین القstral میں آیا ہے ان سے مراد جمع صوری ہے کہ صورتًا جمع ہیں اور حقیقتاً اپنے وقت میں ادا کی گئیں احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فی موطا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام آفاق میں فرمان نافذ فرمایا کہ کوئی شخص دو نمازوں جمع کرنے نہ پائے اور فرمایا کہ ایک وقت میں دو نمازوں جمع کرنا بکیر گناہ ہے۔

الی اصل جمع دو قسم ہے جمع تقدیم، مثلاً ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے اس کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں دوسری جمع تاخیر یعنی نماز ظہر یا مغرب

کو قصد آیہاں تک تاخیر کرنا کہ وقت تکل جانے لگے پھر عصر یا عشاء کے وقت دونوں نمازوں کا پڑھنا اس بارہ میں جو احادیث آئی ہیں یا تو ان میں صراحتاً جمع صورتی مذکور ہے یا محل ہے محمل جو اسی صریح مفصل پر مجمل ہے البته عرف میں جمع تقدیم اور مزدلفہ میں جمع تاخیر لوحہ نک باتفاق امت جائز ہے اور کسی موقع پر چاہرہ نہیں والبسط فی کتابنا تائید الامام فلینظر شہ.

## حدیث ۱۰

عَنْ أَبِي وَأَبِيلٍ شَفِيقٍ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ تَوْصِيَّا ثُلَاثَةِ شَلَادَةَ وَ أَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْإِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَ هَذَا رَأِيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُّهُ.

رواہ ابو علی بن السکن فی صحاحه (آثار ابن)

ابو ایل شفیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کھمیں حاضر ہوا۔ ان دونوں نے تین تین بار وضو کے اختصار کو دھوایا اور کلی کوناک میں ملنے سے علیحدہ کیا پھر فرمایا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ اس حدیث کو ابن اسکن نے اپنی صحاح میں روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کلی الگ تین بار اور ناک میں الگ تین بار پانی ڈالنا چاہیئے۔ یعنی دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیئے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔

اسی طرح ابو ایل کی حدیث میں آیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ ان کو وضو کا سوال ہوا تو آپ نے

پانی منگوایا تو اپ کے پاس پانی کا برتن لایا گیا۔ تو اپ نے اپنے واہنے ہاتھ پر اس کو جھکایا یعنی اس برتن سے واہنہ ہاتھ دھوایا پھر اپنے واہنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا پھر تین بار صندھ دھوایا پھر تین بار دیاں ہاتھ دھووا اور بایاں ہاتھ تین بار دھوایا پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نیا اور سر کا مسح کیا اور کانوں کے ظاہر و باطن کا ایک بار مسح کیا۔ پھر دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ دھنو کے سائل کہاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دھنو کرنے دیکھا ہے۔ آثار السنن میں اس حدیث کی سند کو صحیح لکھا ہے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مضمون استشاق الگ الگ کرنا چاہیے البتہ جن روایتوں میں جمع بین المضمضہ والاستشاق آیا ہے۔ وہ جواز پر محظوظ ہیں لیکن افضل افضل ہے۔

## حدیث ॥

عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رِبَيْدَيْهُ عَلَىْ عَنْقِهِ وَقِنَ الْغَلَّ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رواه ابو الحسن بن فارس باسناده وقال  
هذا انشاء الله حدیث صحيح (تلخیص الحیر)

ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھنو کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن طوق سے محفوظ رکھا چاہئے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گردن کا مسح کرنا مستحب امر ہے چونکہ اس میں موازنیت ثابت نہیں اس لیے سُنت نہیں اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جسکو

دہمی نے مسند فردوس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىْ عُنْقِهِ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو شخص وضو کرے اور گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن طوق سے

محفوظ رکھا جائے گا۔ (احیاء السنن)

اسی کی تائید میں وہ حدیث ہے جسکو امام احمد نے روایت کیا کہ طلحہ اپنے باپ

سے وہ اسکے بعد سے روایت کرتا ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سر کا مسح کرتے یہاں تک کہ قذال اللہ تک پہنچ جاتے جو کہ متصل ہے گردن کی الگی جانب کو۔

ابن تیمیہ نے منطقہ ص ۱۸ میں اس حدیث سے مسح گردن کے ثبوت پر تسلیل

کیا ہے۔

نیز ابو عبید کتاب الطہور میں موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں:

أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَسَحَ قَفَّاهُ مَعَ رَأْسِهِ وَقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں جو شخص پشت گردن کا مسح سر کے ساتھ کرے وہ قیامت

کے دن طوق نار سے محفوظ رہے گا۔ (تلخینص ص ۳۲)

علامہ زمیعی نے تحریج ہدایہ کے ص ۸ میں مسند بزار کی روایت سے رسول کریم صلی

الله علیہ وسلم کے وضو کی حکایت نقل کی ہے جس میں یہ لفظ ہیں:

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا وَظَاهِرًا أَذْنِيهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرًا قَبْلَتِهِ۔

اس حدیث میں ظاہر گردن کا مسح ثابت ہوتا ہے بہر حال مسح گردن مستحب

ہے۔ بدعت نہیں۔

شیخ ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

الإِسْقِيَّابُ يَبْتَدُّ بِالصَّعِيفَتِ غَيْرُ مُوْصَوٍ

کہ حدیث ضعیف سے استحباب ثابت ہوتا ہے۔

امام نووی کتاب الکاراز ص ۱۶ میں فرماتے ہیں:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَجُوزُ وَ

يَسْتَحِبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالترْغِيبِ وَالترْهِيبِ

بِالْحَدِيثِ الصَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا۔

کہ محدثین و فقهاء وغیرہم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال اور ترغیب ترهیب میں عمل کرنا سخت ہے ہاں موضوع پر عمل جائز نہیں تو حدیث صحیح گردن اگرچہ ضعیف ہے اس پر عمل کرنا محدثین و فقهاء کے نزدیک سخت ہے۔ اس لیے کہ یہ فضائل اعمال میں سے ہے اس زمانہ کے دعیان عمل بالحدیث پر افسوس ہے کہ انہوں نے صحیح گردن بالکل ترک کر دیا ہے بلکہ بدعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھروسے۔

## حدیث ۱۲

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصَابَهُ فَلَا أَوْعَافُ أَوْ قَلَسُهُ أَوْ مَذَبُونَ

فَلَيُنْصَرِفْ فَلَيُتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنُ عَلَى صَلَوَتِهِ وَهُوَ فِ

ذَلِكَ لَا يَشْكُلُ۔ زواہ ابن ہاجۃ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو قے یا نکیر یا قلس (منزہ بھر قے) آجاوے یا مذبی نکلے تو وہ نماز سے سہٹ جائے پھر وضو کرے پھر اپنی نماز پر بناؤ کرے اور اس کے درمیان کلام نہ

کرے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔

یہ حدیث مرسیل صحیح ہے۔ اسی کی تائید میں ہے کہ حدیث جس کو عبد الرزاق  
نے اپنے مصنف میں ابن عمر صنی اللہ عینہ سے روایت کیا۔ کہا انہوں نے جب کسی  
شخص کو نکسیر آجاوے نماز میں یا قے کا غلبہ ہو جاوے یا مذہی پائے سو وہ شخص ہٹ  
جائے پھر وضو کرے پھر انہی جگہ آجائے اور باقی نماز کو گذشتہ نماز پر منی کر کے تمام  
کرے۔ حیث تک کلام نہ کیا ہوا س کی سند صحیح ہے۔

معلوم ہوا کہ منہ بھرتے اور نکسیر اور مذہی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی مذهب  
ہے امام اعظم رحمہ اللہ کا۔

## حدیث ۳۴

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ مَسْنَ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهُلْ هُوَ الْأَ  
يُضْعَعَةُ مِنْهُ - رواه ابو داؤد والترمذی والنمسانی۔

طلق بن علی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص وضو کر کے  
اپنے ذکر کو مس کرے تو کیا حکم ہے) تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ مگر ایک لمحہ اس سے  
یعنی ذکر مبھی اس کے بعد کا ایک لمحہ ہے تو جس طرح بقیہ اعضاء کو مس کرنے سے  
وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اس کے مس سے بھی وضو فاسد نہیں ہوتا۔

ترمذی نے اس حدیث کو احسن روایتی حاذ الباب فرمایا۔

ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا۔

ابن المدینی نے فرمایا کہ یہ حدیث بسرہ کی حدیث سے احسن ہے۔ (بلوغ المرام)

یہی کہنا ہوں حدیث بسرہ میں جو امر ہے وہ امر و جوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب

کے یہے ہے۔ پس اگر کوئی شخص وضو کر کے اپنے ذکر کو ہاتھ لگاؤے تو اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اختلاف نے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پھر وضو کر دے۔

## حدیث ۱۴

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيْمُ  
صَرْبَةٌ لِلْمَوْجَةِ وَصَرْبَةٌ لِلَّذِي دَاعَيْنَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ  
رَوَاهُ الْمَاكُو وَصَحَّحَهُ وَقَالَ الدَّارِقطْنِي رَجَالُهُمْ ثَقَاتٌ۔

جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیم و صربیں میں۔ ایک حزب منہ کے لیے ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے، دونوں کہنیوں تک اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح فرمایا۔ دارقطنی نے اس کے راویوں کو شفہ کہا۔ یہ حقیقی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔

دارقطنی نے ابن عمر سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیم دو صربیں ہیں ایک پھرہ کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے کہنیوں تک جس حدیث میں تیم کے لیے ایک ضرب آئی ہے۔

امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس کا جواب دیا ہے۔ کہ اس حدیث میں مراد تعلیم کے لیے حزب کی صورت ہے زیر کہ اس کی ایک ہی حزب سے تیم ہو جاتا ہے۔

## حدیث ۱۵

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَةِ قَالَ شَأْصَحَّابَ مُحَمَّدَ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ذِيْدَ الْإِنْصَارِيَّ حَاجَ إِلَى الْتَّيْمِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمُنَانِ

کائن رجلاً قامَ وَ عَلَيْهِ بَرَدٌ أَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ  
فَأَذَنَ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى - رواه ابن أبي شيبة في  
المصنف والبيهقي في سننه -

عبد الرحمن بن أبي ليدا کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہ عبد اللہ بن زید الفزاری رضی اللہ عنہ حسنور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے حواب میں دیکھا ہے۔ گویا ایک شخص کھڑا ہے۔ اس پر دو سبز کپڑے ہیں۔ وہ دلوار پر کھڑا ہوا اس نے دو مرتبہ اذان دی اور دو مرتبہ اقامت کی۔ اسکو ابن أبي شيبة نے مصنف میں اور سیفی نے سنن میں روایت کیا جوہر النقی میں ہے کہ ابن عزرم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند ہمایت صحیح ہے۔ یہ حدیث اذان میں اصل ہے اس میں ترجیع نہیں معلوم ہوا کہ ترجیع سنت نہیں قال ابن الجوزی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ ان سے ایک بار بھی ترجیع ثابت نہیں اور بلال رضی اللہ عنہ حسنور کے سامنے اذان دیا کرتے تھے اگر ترجیع مسلنوں ہوتی تو حسنور علیہ السلام بلال کو امر فرماتے اور بلال کم سے کم ایک بار تو ترجیع کے ساتھ اذان دیتے۔

ابو محمد وہ رضی اللہ عنہ جس کی اذان میں ترجیع آئی ہے وہ دربارہ تعلیم ہے کہ ابو محمد وہ نے آواز کو اتنا لمبا نہ کیا جتنا کہ حسنور علیہ السلام کا ارادہ تھا اس لیے فرمایا ارجع و امداد من صوتک پھر کہہ اور آواز لمبا کر۔ علاوہ اس کے خود ابو محمد وہ رضی اللہ عنہ سے اذان بلا ترجیع آئی ہے۔

امام طحاوی نے عبد العزیز بن رفیع سے روایت کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ابو محمد وہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ دو دو بار اذان اور دو دو بار اقامت کہتے تھے جوہر النقی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ تخفض بھا صوت نک شم تر فض صوت نک وہ ضعیف ہے اس میں حارث بن عبید الوب قادم راوی ہے جس کو امام احمد مصطفیٰ الحدیث اور ابن معین ضعیف کہتا ہے۔ لسانی نے بھی کہا ہے کہ وہ قویٰ نہیں۔

## حدیث ۱۶

عَنْ أَنَسَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَتَحَتَ الْمَسْكُونَ كَبَرَ شَعْرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحْاَذِي إِبْرَاهِيمَيْهِ أَذْنِيْهِ شَمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى حَدْكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رواه الدارقطني و  
قال استناده كلهم ثقات كذا في الزيلعي۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حب نماز کو شروع کرتے تو تکبیر کہتے پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیاں تک کہ آپ کے انگوٹھے دونوں کاں کے برابر ہو جاتے پھر سچانک اللہم آخر تک پڑھتے۔ اس کو دل قطنه نے روایت کیا اس کے رواہ سب ثقہ ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریری کے لیے ہاتھ کاں کے برابر اٹھانے پڑھیں۔ ایسا ہی ابو داؤد میں وائل کی حدیث میں آیا ہے وہ فرماتے میں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع کیا نماز کو تو دونوں ہاتھ کاں کے برابر تک اٹھائے کہا وائل نے میں پھر ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو سینوں تک اٹھاتے ہیں اور ان پر بار بار ایاں اور لوئیاں تھیں یعنی سردی کے سبب ہاتھوں کو باہر نہیں نکالتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن روایتوں میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا آیا ہے وہ

عذر سردی سے تھا یا یہ کہ موذھوں کے برابر ہاتھ ہوں اور دونوں انگوٹھے کافوں کے برابر ہوں۔ چنانچہ ابو داؤد میں وائل کی حدیث میں آیا ہے کہ اس نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ موذھوں کے مقابل ہو گئے۔ اور برابر کیا دونوں اہماؤں کو اپنے کافوں کے

(شرح سند امام صدر ۲۳۶)

## حدیث ۷

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ هَتَّ السُّرَّةِ أَخْرَجَهُ

ابن ابی شیبہ -

وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھا اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ شیخ قاسم بن قطلوبغا حنفی نے فرمایا کہ اس کی سند جید ہے۔ شرح ترمذی  
لابی الطیب (محمد مدینی) نے اس کی سند کو قوی فرمایا۔

اس حدیث پر دو اعتراض کئے جلتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث مصنف بن ابی شیبہ میں نہیں علام رحیمات سندھی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ میں نے مصنف کا سخن دیکھا۔ اس میں یہ حدیث ہے لیکن تخت السرہ کا لفظ نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں علقم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کو اپنے باپ سے سماں نہیں۔

پہلے اعتراض کا جواب:

معترض نے صرف علام رحیمات سندھی کی شہادت وہ بھی عدم وجہ کہیں

کی۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے۔ علام حیات کو یہ لفظ نہ ملا ہو یا جس نسخہ میں انہوں نے دیکھا وہاں سہواؤ کاتب سے رہ گیا ہو۔ ہم اس لفظ کے موجود ہونے پر دو شہادتیں میں  
کرتے ہیں وہ بھی اثبات پر کہ اثبات نافی پر مقدم ہوتا ہے۔

حافظ قاسم بن قطیلوبغا تخریج احادیث الاختیار شرح المختار میں اس حدیث  
کو بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ لکھ کر فرماتے ہیں

هذا سند جيد وقال العلامه محمد الوالطيب المدنى في  
شرح الترمذى هذا حديث قوى من حيث السند وقال الشيخ  
عبدالسنده فى الطوالع الانوار رجاله ثقات رأى أثر السنن ص ۲۷  
يرى سند جيد ہے علام مردمی شرح ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من حيث  
السنن قوى ہے شیخ عبد السنده طوالع الانوار میں فرماتے ہیں کہ اس کے راوی  
ثقتہ ہیں۔

دیکھئے حافظ قاسم بن قطیلوبغا جو کہ علام ابن الجام کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔  
جو فون حدیث و فقر میں متخری تھے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے لکھ کر  
اس کی سند کو جید فرماتے ہیں۔ عبد السنده کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں پھر بھی  
معترضین کو انکار ہے۔

اور سنئے علام قاسم سنده اپنے رسالہ فواز الکرام میں فرماتے ہیں:  
ان القول بكون هذه الزيادة غلطًا مع جزم الشیخ قاسم بجزوها الى  
المصنف و مشاهدتها ایاها فی نسخة وجودها فی نسخة فی خزانة  
الشيخ عبد القادر المفتی فی الحديث والاثر لا يليق بالانصاف قال  
ورأيته بعيني فی نسخة صحيحة علیها الامارات المصححة وقال فهذه  
الزيادة فی أكثر نسخ صحيحة۔ (رأى أثر السنن ص ۲۷)

کہ یہ کہنا کہ زیادت تخت السرہ غلط ہے انصاف نہیں باوجود اس کے کہ شیخ قاسم نے یقینی طور پر اس کو مصنف کی طرف نسبت کیا اور میں نے بھی اس زیادت کو ایک نسخہ میں دیکھا اور شیخ عبد القادر مفتی حدیث کے خزانہ میں جو مصنف کا نام ہے اس میں بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک صحیح نسخہ میں جس میں علامات صحیح تھیں اس زیادت کو دیکھا۔ یہ زیادت یعنی لفظ تخت السرہ اس حدیث میں مصنف کے اکثر نسخوں میں صحیح ہے۔

علامہ ظہیر حسن نیمی اپنے رسالہ درۃ الغرہ میں لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قبہ محمودیہ میں ہو کتب خانہ ہے اس میں مصنف کا نام ہے اس میں بھی تخت السرہ اس حدیث میں موجود ہے۔

اب النصار فرمائیشے کہ علامہ قاسم بن قطلو بخاری مصنف میں حدیث کو بلطف تخت السرہ دیکھا پھر علامہ قاسم سندھی نے اپنے دیکھنے کی شہادت دی اور مصنف کا پستہ بھی بتایا۔ پھر علامہ ظہیر حسن نیمی نے بھی دیکھا اور قبہ محمودیہ میں پستہ بھی دیا۔ ان کی پستہ بھی تباہی۔ اگر علامہ ظہیر حسن نیمی نے بھی دیکھا اور قبہ محمودیہ میں پستہ بھی دیا۔ ان کی پستہ دید شہادت کے بعد بھی اگر کوئی یہی کہتا جائے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث میں یہ لفظ نہیں تو اس بہت دھرمی کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ علامہ حیات کا یہ کہنا کہ شاید کاتب کی نظر چوک گئی ہو اور اس نے نخفی کے اثر کا یہ لفظ حدیث مروع میں لکھ دیا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اگر صرف ایک ہی نسخہ میں یہ لفظ ہو۔ جب اس لفظ کا اس حدیث میں مصنف کے اکثر نسخوں میں پایا جانا نامناسب ہے تو یہ احتمال صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب کتابوں کا اسی حدیث میں اگر چوک جانا نامنہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نسخہ کو علامہ حیات نے دیکھا ہوا اس میں کاتب کے سہو سے یہ لفظ رہ گیا ہو۔

دوسرے اعتراض کا جواب:

علقمر نے اپنے باپ سے سنائے اور یہی صحیح ہے۔ علقمر کے بھائی عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنادہ اپنے باپ کی موت کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ترمذی ابواب الحدود ص ۵، ایں لکھتے ہیں:

سمعت محمد ایقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابیه ولا ادرا کہ یقال انه ولد بعد موت ابیه با شهر۔

کہیں نے امام بخاری سے سنادہ فرماتے تھے کہ عبد الجبار بن وائل نے اپنے باپ سے نہیں سنایا اور نہ اس کو پایا کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کی موت کے بعد پیدا ہوا پھر چند سطر آگے صاف تصریح کرتے ہیں کہ

علقمر بن وائل بن حجر سمع عن ابیه وهو اکبر من عبد الجبار بن وائل و عبد الجبار بن وائل لم يسمع عن ابیه۔

یعنی علقمر نے اپنے باپ سے سنائے وہ عبد الجبار سے بڑا ہے۔ عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سنایا۔

نسانی ص ۵۔ اباب رفع الیدين عبد الرفع من الرکوع میں اکیب حدیث ہے۔ جس میں علقمر کہتے ہیں۔ حدیثی ابی۔

اسی طرح بخاری کے جزر رفع میں علقمر حدیثی ابی کہتا ہے۔

معلوم ہوا کہ علقمر کو اپنے باپ سے سماع حاصل ہے۔ کیونکہ تحدیث اکثر اہل حدیث کے نزد دیکھ سماع پر وال ہے۔

اسی طرح صحیح مسلم ص ۳۴۱، ج ۱ اور ص ۶۷ ج ۲ میں علقمر اپنے باپ سے تحدیث کرتا ہے۔ اگرچہ علت کا اپنے باپ سے مرسل ہوتی تو مسلم اس کو صحیح میں روایت رکرتا۔

شیخ عبد الجبار الحنفی القوی الجازم ص ۸۱ میں بحوالہ انساب سمعانی لکھتے ہیں  
ابو محمد عبد الجبار بن واٹل بن حجر الکندی یروی عن امہ  
عن ابیه و هو اخو علقمة و من زعم انه سمع اباہ فقد وهم لان واٹل  
بن حجرمات و امہ حامل به و وضعته بعدہ بستة اشهر۔ انتہی۔

عبد الجبار بن واٹل اپنی ماں سے روایت کرتا ہے وہ اس کے باپ سے اور  
وہ علقمة کا جانی ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ عبد الجبار نے اپنے باپ سے سُنا ہے  
اس نے وہم کیا کیونکہ واٹل بن حجرفت ہوا تو عبد الجبار ماں کے پریث میں تھا، چھ میین  
والد کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔  
اور بحوالہ اسد الغایہ لکھا ہے۔

قیل ان عبد الجبار لم یسمع من ابیه۔

کہ عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سُنا۔ کہا ابن عبد البر نے استیعاب میں  
واٹل کے ترجیح میں۔

روی عنہ کلیب بن شہاب وابناء عبد الجبار علقمة ولو یسمع  
عبد الجبار من ابیه فیما یقولون بینهما علقمة بن واٹل۔ انتہی۔  
یعنی واٹل سے کلیب بن شہاب نے اور واٹل کے دو ولی فرزندوں نے روایت کیا ہے  
عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سُنا۔ ان دونوں کے درمیان علقمة بن واٹل (واطر)  
ہے معلوم ہوا کہ جس نے اپنے باپ سے نہیں سُنا وہ عبد الجبار ہے علقمة نے اپنے  
باپ سے سُنا ہے۔ ابن حجر نے بے شک تحریر میں لکھا ہے کہ علقمة نے اپنے باپ  
سے نہیں سُنا۔ لیکن ہم ابن حجر سے ہی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے تغییص الجیر کے مراوی  
میں اور ص ۸۱ میں لکھا ہے۔

ان عبد الجبار لم یسمع من ابیه کہ عبد الجبار نے اپنے باپ سے نہیں سُنا۔

بلوغ المرام کے صفتہ الصلاۃ کے باب میں حدیث وائل ہے جس میں حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں سلام چیرنے کا ذکر ہے۔ اخیر میں لکھتے ہیں رواہ ابو داؤد باسناد صحیح۔ اس سند میں علقہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے۔ اگر ابن حجر کے نزدیک علقہ نے اپنے باپ سے نہ سننا ہوتا تو اس حدیث کو ابن حجر صحیح نہ کہتا۔ معلوم ہوا کہ ابن حجر کے نزدیک صحیح اور مختار یہی ہے کہ علقہ نے اپنے باپ سے سننا ہے۔

اب ہم نہیں سمجھتے کہ غیر مقلدین کے پاس اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ وہی ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تو نہ کریں مگر حضرات احباب رحمہم اللہ کو اس پر عمل نہ کرنے کی ترغیب نہیں۔

ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللستَةُ

وَصَنْعُ الْكِفْتِ مَحْتَ السَّرَّةِ  
کہ ہیصلی کا ہیصلی پر زناف کے نیچے رکھنا سُنت ہے۔

اس حدیث کو ابو داؤد ابن ابی شیبہ احمد و اقطنی یہقی نے روایت کیا ہے۔ اصول حدیث میں یہ مسئلہ سلم ہے کہ صحابی جب کسی امر کو سُنت کہے تو اس سے سُنت نبوی مراد ہوتی ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت کیا اور جس حدیث پر ابو داؤد سکوت کریں وہ ان کے نزدیک قابلِ محبت ہوتی ہے۔

امام نووی اذکار مہ میں لکھتے ہیں،

هارواه ابو داؤد فی سننہ ولم یذکر ضعفہ فهو عنده صحیح او حسن

وکلا هما صحیح به فی الاحکام

یعنی ابو داؤد جس حدیث کو اپنے سنن میں روایت کریں اور اس کا ضعف بیان نہ کریں وہ ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ اور احکام میں یہ دونوں قابلِ محبت ہیں۔

اس حدیث کے راوی عبد الرحمن بن اسحاق پر عتبی جروح ہیں۔ سب مہم اور غیر مفسر ہیں۔ اصول حدیث میں یہ امر مسلم ہے کہ جرح مہم مقبول نہیں۔ دیکھو نووی شرح مسلم ص ۸ والرفع والتمکیل ص ۸

حدیث وائل بن حجر جس میں سینہ پر ہاتھوں کا باندھنا آیا ہے۔ ابن خزیمہ کے حوالہ سے بعض محدثین نے اس حدیث کو تعلیم کیا ہے کسی معتبر کتاب میں مجھے اس کی سند نہیں ملی۔

حافظ ابن قیم اعلام الموقعن کے ج ۲ میں اس حدیث کا ذکر کر کے فرماتے ہیں  
لئے یقل علی صدرہ غیر مومن بن اسماعیل۔

کہ مومن بن اسماعیل کے سوا اس حدیث میں علی صدر کسی نے نہیں کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن خزیمہ کی سند میں بھی مومن بن اسماعیل ضرور ہے اور وہ ضعیف ہے۔  
ابو حاتم نے اس کو کثیر الخطأ کہا۔

امام بخاری نے منکر الحدیث۔

ابوزرعہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں خطاب بہت ہے (رمیزان)  
علام مزہی نے تہذیب الکمال میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے  
قال عزیزه دفن کتبہ و کان یحذیث من حفظه فکثرا خطاؤه  
اس کی کتابیں دفن کی گئیں۔ وہ اپنے حفظ سے حدیث بیان کرتے تھے۔ اس  
لیے ان سے بہت خطاؤاقع ہوئی۔

تہذیب التہذیب میں سلیمان بن حرب کا قول تعلیم کیا ہے  
وقد يحب على أهل العلم أن يقفوا عن حدیث، فانه يروي المذاكير  
عن ثقات شيوخه وهذا الشدف لو كانت هذه المذاكير عن الضعفاء  
لكننا نجعل له عذر۔

لیعنی اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے بچتے رہیں کیونکہ یہ شخص ثقات سے منکرات روایت کرتا ہے اور یہ بہت براہت اگر ضعف سے منکر روایت کرتا تو اس کو معدود سمجھتے۔ اور ضعف اپر منکرات محوں کرتے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری جز ۲۱ ص ۹۶ میں فرماتے ہیں

وَكَذَاكَ مُوْمِلُ بْنُ اسْمَاعِيلَ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ الثُّوْرَى ضَعْفٌ  
كَمُوْمِلِ بْنِ اسْمَاعِيلِ جُوْثُرَى سَهِيْرِيْ رَوَاهِيْتُ كَمْ رَوَاهِيْتُ كَمْ مُوْمِلِ  
حَدِيْثَ اسَنَ لَيْهِ ثُوْرَى سَهِيْرِيْ رَوَاهِيْتُ كَمْ ہے۔ چنانچہ سہیْرِيْ نے سنن کبریٰ میں اس  
حدیث کو برداشت مول بن اسماعیل عن الثوری اخراج کیا ہے۔  
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حدیث والیل بن حجر جو کہ ابن حزم نے روایت کی ہے  
صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح حدیث قبیصہ بن بلبیج بن کوام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے  
صحیح نہیں ہے۔ اس میں سماک بن حرب ہے جس کو شعبہ دا بن مبارک وغیرہ میں ضعیف  
کہار کمال)۔

ابن مبارک نے سفیان سے نقل کیا کہ ضعیف ہے۔  
امام احمد اس کو مistrust (الحادیث کہتے ہیں)۔  
صالح جزرہ ضعیف کہتا ہے۔

نسافی کہتا ہے کہ حب وہ منفرد ہو جبت نہیں (میزان) تو ثابت ہوا کہ سیدنا پر  
ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ وہذا هو المعقـ.

## حدیث ۱۸

عَنْ حَمِيدِ الطَّوَيْلِ عَنْ النَّسْ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلوة قال سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسُبْحَانَكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رواه الطبراني في كتابه المفرد في الدعاء واستناده جيد - (آثار السنن)

حضرت النبی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حب نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہم الى آخرہ پڑھتے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا۔

ترمذی میں حضرت عائشہ سے بھی ایسا ہی آیا ہے۔ ترمذی لکھتا ہے کہ اکثر اہل علم تابعین وغیرہم کا اسی پر عمل ہے جو حضرت عمر و عبد اللہ بن مسعود سے اسی طرح تلقی کیا گیا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد ابن ماجہ طحاوی میں ابو سعید حذری سے بھی اسی طرح آیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغرض تعلیم سبحانک اللہم بالبہر پڑھتے جن روایتوں میں بجز سبحانک اللہم کے دوسری دعائیں آئی ہیں۔ وہ ہمارے نزدیک مجموع بر تہجد ہیں۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ ونسائی میں اس کی تصریح بھی آئی ہے یا محوال بر ابتداء امر عجیبا کہ شرح منیہ میں ابن امیر حاج نے فرمایا ہے۔

## حدیث ۱۹

عَنْ أَنَسِ بْنِ ظَهِيرَةَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ الَّهُ أَعْلَمُ بِأَنَّمَا أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنْتَ وَأَنْتَ كَانُوا يَفْتَحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رواه الشیخان۔

حضرت النبی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز الحمد لشیخ العالمین کے ساتھ شروع کرتے تھے اس کو سجاہی مسلم نے روایت کیا۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبم اللہ منہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جمیلہ  
بالجہر نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تشرع ہے کہا  
اُنس نے :

فَلَمَّا سَمِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لِيْعَنِي مِنِيْ نَكِيْرٍ كَوْنِيْنِيْ سَنَا كَوْهْبِمِ اللَّهِ پَرِّقَا ہُوْجَهْرٌ وَسَرِيْ حَدِیْثِ مِنْ اَسْ  
كَی صاف تصریح ہے۔ جس کو نسانی نے روایت کیا۔  
فَلَمَّا سَمِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَرِيْنِ  
نے ان میں سے کسی کو نہیں سننا کہ بسم اللہ جھر پڑھتے ہوں۔  
معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھنے کی نفع نہیں بلکہ اونچی پڑھنے کی نفع ہے۔

### حدیث ۳۰

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ عَلِمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ إِذَا قُتِمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُؤْمِنُكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا فَتَرَأَ  
إِلَيْهِمْ فَانْصِبُوْا رواه احمد و مسلم

ابو موسی اشریفؑ حنفی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھ تو چاہیے کہ تم میں سے ایک تھا امام بنے اور جب امام پڑھتے تو تم چپ رہو اس کو امام احمد و مسلم نے روایت کیا۔  
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرأت امام کا حق ہے اور مقتدی کو خاموش رہنے  
کا حکم ہے۔ یہ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:  
اذا قرئ القرآن فاصنعواه و انصتوا علىكم ترحمون -  
جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور چپ رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔

اس آیت سے یہ معلوم نہیں تھا کہ پڑھنے والا کون ہو۔ حدیث مذکور نے یہ بیان کر دیا کہ وہ پڑھنے والا امام ہے۔ جب امام قرآن پڑھتے تو تم خاموش رہو۔ معلوم ہوا کہ مقصدِ می فاتحہ خلفت الامام نہ پڑھتے یہی صحیح ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو ردِ ایت کیا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انما جعل الامام ليوم به فاذا اکبر فكبیر و اذا قرأ فاصتصوا اس کو البوادُ وَ ابْنَ ماجِه نَسَقَ وَ غَيْرُ حَمْنَ لَهُ رِوَايَتٌ كَيْا يَهُ حدیث بھی صحیح ہے اس کو مسلم نے بھی صحیح کہا ہے۔

**ترجمہ:** امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کا اقتداء کیا جائے۔ جب وہ تکبیر کئے تو تم تکبیر کر جب وہ پڑھتے تو تم چپ رہو!

## حدیث ۲۱

عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً رَوَاهُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ مَيْنَعَ فِي مَسْنَدِهِ وَمُحَمَّدٌ فِي الْمَوْطَأِ وَ الطَّحاوِيِّ وَ الدَّارِقَطْنَىِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شخص کیلئے امام ہو تو امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے۔ یعنی امام کی قرأتِ مقتدی کی ہی قرأت ہے۔ مقتدی کو خود قرآن میں سے کچھ نہ پڑھنا چاہیتے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے سب روایی ثقہ میں۔

حدیث لاصلوۃ جس کو سخاری مسلم نے روایت کیا وہ امام اور منفرد کے لیے ہے اس حدیث کی ایک روایت میں فصاعدًا بھی آیا ہے۔ یعنی الحمد اور کچھ زیادہ کے

سو ا manus نہیں تو اگر یہ حدیث مقتدی کو بھی عام ہو تو لازم آتا ہے کہ علاوہ فاتحہ کے مقتدی پر سورۃ بھی واحب ہو اور اس کا کوئی قائل نہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام اور منفرد کے لیے ہے۔ ابو داؤد میں سفیان جو اس حدیث کے روایتی میں فرماتے ہیں لمن يصلی وحدہ کر یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ یعنی مقتدی کے لیے نہیں۔

حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ جس میں نماز فجر کا قصہ ہے وہ صنیف ہے کسی روایت میں بکھول ہے جو مدرس ہے اور معنون روایت ہے۔ مدرس کی معنون قابل جبت نہیں۔ اگر کسی روایت میں اپنے شیخ سے تحدیث بھی کرتا ہے تو شیخ الشیوخ سے بلطفاعن روایت کرتا ہے اور اصول حدیث میں لکھا ہے کہ مدرس بھی شیخ الشیوخ کو ساقط کرتا ہے۔ اس لیے جبت نہیں اور کسی روایت میں نافع بن محمود ہے جو مستور الحال ہے کسی روایت میں بکھول عن عبادہ ہے۔ جو رسول ہے الفرض کوئی روایت صحیح نہیں۔

## حدیث ۲۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَذَا  
قَالَ الْإِمَامُ عَنِيرٌ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمُونَ فَقُولُوا  
آمِينَ فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلِيشَكَةِ غَفِرَ لِمَا تَقَدَّمَ  
مِنْ ذَنْبِنِهِ رواہ البخاری۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حبیب امام غیرہ المغضوب علیہم ولا الظالمین کے تو قم آئیں کہو کیونکہ جس کی آئین ملائکہ کی آئین کے ساتھ موافق ہو گئی۔ اس کے پچھے لگاہ معاف ہو گئے اس کو بخاری نے روایت کیا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آئین اخفاکے ساتھ کہنی چاہیئے کیونکہ اگر وہ جھر ہوتی تو آپ یوں نہ فرماتے۔ حسب امام ولا الصالیلین کہ تم آئین کہو بلکہ یوں فرماتے کہ حسب امام آئین ہے تو تم آئین کہو۔ اور اذا من میں، جمہور محدثین نے اذا من کے معنی اذا اراد التامین کہنے ہیں لیعنی حسب امام آئین کہنے کا ارادہ کرے تو تم آئین کہو اور وہ ارادہ ولا الصالیلین ختم کرتا ہے۔ جمہور نے یہ معنی بین الحدیثین کے لیے کیے میں تو حسب اس حدیث کے معنی اذا اراد التامین ہوئے تو اس سے جھر آئین ثابت نہیں ہوتا۔

علاوہ اس کے ایک دوسری حدیث میں سبکو امام احمد نسائی دارمی نے روایت کیا ہے آیا ہے فان الامام يقول آئین کہ امام بھی آئین کہتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ آئین بالجھر نہ تھی۔ اگر جھر ہوتی تو امام کے فعل کے اظہار کی صورت نہ پڑتی۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مقیدی فاتحہ نہ پڑھے۔ کیونکہ اگر مقیدی پڑھے فاتحہ لازم ہوتا تو آپ فرماتے حسب تم غیر المضروب علیهم ولا الصالیلین پڑھو تو آئین کہو بلکہ یوں فرمایا کہ حسب امام ولا الصالیلین کہے تو تم آئین کہو معلوم ہوا کہ فاتحہ کا پڑھنا امام پر ہی لازم تھا۔ دوسری حدیث میں اور بھی تصریح فرمادی کہ اذا من القاری فامنو ہوتا تو آپ صرف امام کو قاری نہ فرماتے۔

### حدیث ۳

عَنْ وَاثِيلَ بْنِ حُجْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ عَيْنَ الرَّغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِلِينَ

قال امین اخفی بھا صوتہ۔ رواۃ الحاکم والطبراف  
والدارقطنی والبیعلی واحمد۔

وائل بن حجر سے روایت ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حضور علیہ السلام حب غیر المخوب علیہم ولا الصالیین کو پہنچے تو اپنے پرشیدہ آواز سے آمین کہی۔ اس حدیث کو حاکم اور طبرانی دارقطنی البیعلی امام احمد نے روایت کیا یہ حدیث آمین کے اختایں لفظ ہے۔ اس کی سند صحیح ہے

حدیث سمرہ بن جذب رضی اللہ عنہ اس کی تائید کرتی ہے کہ حب و نماز پڑھاتے تو دوبار خاموش ہوتے ایک بار حب نماز شروع کرتے دوسری بار حب ولا الصالیین کہتے۔ لوگوں نے اس پر انکار کیا تو انہوں نے ابی بن کعب کو لکھا۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب میں لکھا کہ سمرہ جیسے کرتا ہے۔ صحیک کرتا ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی و احمد نے بسند صحیح روایت کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں سمرہ بن جذب نے ان دونوں سکونتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ پہلا سکونتہ شناکے کے لیے تھا اور دوسرا جو ولا الصالیین کے بعد سوتا ہے وہ آمین کہنے کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ آمین پوشیدہ تھی۔ اس حدیث کی سند آثار السنن میں صلح لکھی ہے۔

امام طحا وی ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ شریعت اور آنحضرت اور آمین کو جہر منہیں کرتے تھے۔

طبرانی کبیر میں ابو وائل سے روایت کرنے ہیں کہ حضرت علی و عبد اللہ (بن مسعود) بسم اللہ اور آنحضرت اور آمین بلند آواز سے منہیں کہتے تھے۔

جو ہر الفقی میں بحوالہ ابن حجر طبری ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما بسم اللہ اور آمین اوپنی منہیں کہتے تھے۔

حدیث وائل بن حجر پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں شعبہ نے تین خطائیں کیں۔

اول یہ کہ اس نے حجرابی الغبس کہا ہے۔ حالانکہ وہ حجر بن عنیس ہے جس کی کنیت ابوالسکن ہے۔ دوسرایہ کہ شعبہ نے اس حدیث میں علقمہ بن واللہ کو زیادہ کیا ہے۔ حالانکہ حجر بن عنیس عن واللہ بن حجر صحیح ہے تیسرا یہ کہ اس نے خفض بھا صوتہ کہا ہے حالانکہ مد بھا صوتہ ہے اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ علقمہ نے اپنے باپ سے ہمیں سنا بلکہ وہ اپنے باپ کی موت کے پھر ہمیں بعد پیدا ہوا۔

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حجر بن عنیس کی کنیت ابوالعنیس بھی ہے اور ابوالسکن بھی ایک شخص کی دو کنیتیں ہوں یا بعید نہیں ہے۔

ابن حبان کتاب الثقات میں فرماتے ہیں:

حجر بن عنیس ابوالسکن الکوفی وهو الذی یقال له حجر ابوالعنیس یروی عن علی وائل بن حجر روى عنه سلمة بن کھمیل (آثار ابن) حجر بن عنیس ابوالسکن کوفی وہ ہمیں حبہنیں ابوالعنیس بھی کہا جاتا ہے۔

ابوداؤد نے آئین کے باب میں ثوری سے بھی حجر بن عنیس کی کنیت ابوالعنیس نقل کی ہے۔ یہ قریٰ نے سنن میں بھی ایسا ہمیں لکھا ہے۔

دارقطنی نے تو کیس اور محاربی سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے ثوری سے اس کی کنیت ابوالعنیس روایت کی۔

کشف الاستار عن رجال معانی الآثار میں بھی ایسا لکھا ہے۔

معلوم ہوا کہ حجر بن عنیس کی کنیت ابوالعنیس بھی ہے اس میں شعبہ کی خط نہیں ہے نہ اس میں متفرد ہے بلکہ محمد بن کثیر اور کیس اور محاربی بھی یہی کنیت نقل کرتے ہیں۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں تصریح یہ ہے کہ حجر بن عنیس نے علقمہ سے بھی سنا ہے اور خود واللہ سے بھی اس حدیث کو سنا ہے۔

چنانچہ امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔

عن حجر ابوالعنبس قال سمعت علقمہ بن واٹل یحدث عن واٹل و سمعت من واٹل قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
الحدیث - ابوادود طیالسی نے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے ابو مسلم مجتبی نے بھی  
اپنے سشن میں ایسا ہی روایت کیا ہے (أشادر السنن) تو معلوم ہوا کہ شعبہ نے اس  
میں بھی خطا نہیں کی کیونکہ حجر نے یہ حدیث علقمہ سے بھی سنی اس لیے اس نے علقمہ  
کا ذکر کیا اور واٹل سے بھی سنی اس لئے کسی وقت علقمہ کا ذکر نہیں کیا اور حدیث ڈا  
میں ہم مفصل ذکر آئے ہیں کہ علقمہ نے اپنے باپ سے سنا ہے۔ فلا نعیدہ  
رہی یہ بات کہ سفیان مدتها صوتہ کہتا ہے اور شعبہ خفض بھاکس کی  
روایت کو ترجیح ہوگی میں کہتا ہوں کہ شعبہ کی روایت کو ترجیح ہے اس لیے کوشہ  
تلیس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ میں آسمان سے گر کر تکڑے تکڑے ہو  
جاوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں تدلیس کروں (تنذکہ الخطا) اور سفیان کی روایت  
میں تدلیس کا شبہ ہے۔

دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ آئین دعا ہے اور اصل دعائیں اخفا ہے اللہ  
تعالیٰ فرماتا ہے :

ادعو ربکم تصرعا و خفیة  
اور اکثر صحابہ و تابعین آئین خنیہ کہتے تھے جیسا کہ جوہر النقی ص ۱۳۲ میں ہے  
اس لیے شعبہ کی روایت راجح ہوگی۔

نیز حدیث مذکورا صوتہ کے یعنی سبی ہو سکتے ہیں کہ آپ آئین کو بفت  
مذہب ہتھ تھے نہ فخر۔ علاوہ اس کے آئین کی اکیب حدیث میں آئی ہے وہ  
حتیٰ سمع من یلیه من الصف الاول ہے کہ

صفت اول کے وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے متعلق تھے انہوں نے آپ کی آئین کی آواز سُن لی اور یہ بھی تعلیم کے لیے تھا۔  
چنانچہ ابن قیم نے زاد المعاویہ میں تصریح کی ہے۔  
اور ابوالبشر دلائی نے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ جس میں خود والل فرماتے ہیں ما ارادہ الایعلمنا کہ میرے گمان میں حضور نے تعلیم کے لیے آواز دراز فرمائی یہ بھی یاد کھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے مقتدیوں کا آئین بالجہر ہرگز ثابت نہیں تو آجھکل کے مدعاویان عمل بالحدیث کا امام کے پیچے زور سے آئین کھنا محض بلے دلیل ہے۔

## حدیث ۲۳

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِيْ أَرَأَكُمْ رَافِعٌ أَيْدِيْكُمْ كَانَهَا أَذْنَابُ حَيَّلٍ شَمْسٍ أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ (رواہ مسلم)

جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہا اس نے نکلے ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تجھے رفیعیدین کرتا ہوادیکھتا ہوں گویا کہ سکرشن گھوڑوں کے دُم ہیں نماز میں آرام کیا کرو۔ اسکو مسلم نے روایت کیا۔

اس حدیث میں ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نماز میں رفع یہ دین کرتے ہوئے دیکھا اور منع فرمایا۔ جس سے ثابت ہوا کہ رفع یہ دین سُنت نہیں بلکہ منسوخ ہے۔ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بوقت سلام رفیعیدین کرنے کی ممانعت ہے صحیح نہیں وہ حدیث جس میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے دوسری ہے ان دونوں دینیوں میں فرق ہے اس حدیث میں رفیعیدین کا ذکر ہے۔ دوسری میں رفیعیدین کا ذکر نہیں بلکہ ایسا بائیبیں کا ذکر ہے۔ کسی روایت میں تومزن ہے کسی میں

تشیرون نیز اس حدیث میں اسکنوا فی الصلوٰۃ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفیعین نمازوں میں تھا جس کی ممانعت ہوئی اور سکون کا حکم فرمایا۔ دوسری حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں کیونکہ سلام نماز کا مظروف نہیں تو اشارہ بالیدین بوقت سلام مجھی مظروف نماز نہیں اور اس حدیث میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں یہ حدیث رفیعین کی ممانعت میں ہے دوسری بوقت سلام اشارہ بالیدین کی ممانعت میں۔ ان دونوں حدیشوں کو ایک سمجھنا باوجود اس اختلاف کے جو ہم نے ذکر کیا ہے خوش منہی ہے۔

**اعتراض :-**

عیدین اور وتروں میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو اس حدیث کی رو سے وہ بھی منع ہونے چاہیں؟

**جواب :-**

عیدین اور وتروں کے لیے کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ دوسری نمازوں میں نہیں۔ مثلًا عیدین کے لیے شہر کا شرط ہونا اور شہر سے باہر نکل کر عید پڑھا خطبہ نماز عید کے بعد پڑھنا و تر کا طاق ہونا دعا و قنوت پڑھنا تو اسی طرح رفیعین جو عیدین میں یا وتروں میں کیا جاتے ہے۔ وہ بھی ان دونوں نمازوں کی خصوصیات سے ہے۔ علاوہ اس کے جس نماز کو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر صحابہ کو رفیعین سے منع فرمایا وہ نماز عید نہ تھی اگر عید ہوتی تو حضور علیہ السلام خود امام ہوتے اور نماز و ترجیح نہ تھی کیونکہ وتروں میں جماحت اور ان کا مسجد میں ادا کرنا آپ کی اور صحابہ کرام کی عادت مستردہ سے نہ تھا۔ بلکہ گھروں میں کیلئے ایکیلے پڑھنے کی عادت تھی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی رفیعین عن الدکوع وال نجع عن تھا جو حضور علیہ السلام کے اس حدیث کے فریضے سے متفق ہو۔

حدیث ۲۵

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
إِلَّا أَصَلَّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَصَلَّى وَلَمْ يُرِفْ يَدَيْهِ إِلَّامَرَةً - (ابوداؤد)

علامہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر نماز پڑھی اور اکیل بار (تخریمیہ) کے سوا ہاتھ نہ اٹھائے اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نسافی نے روایت کیا۔

ترمذی نے اسکو حسن کہا اور فرمایا کہ اس حدیث پر بہت صحابہ و تبعین کا

عمل تے۔

اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا مبین قول ہے اس حدیث کے سب راوی شفیع ہیں۔

ابن حزم نے اسکو صحیح کہا

بعض محدثین نے عاصم بن کلیب پر کچھ کلام کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ثقہ

ہے۔ نسائی اور یحییٰ بن معین نے اسکو ثقہ کہا۔ مسلم نے صحیح میں اس کی روایت کی۔

ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ابو حاتم نے اسے صالح کہا

والبسط في ترويج العينيين للعلامة الفيصل بوري.

امام طحا و می حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بسندی صحیح روایت کرتے ہیں کہ بجز تکمیل

تخریبی کے وہ رفیدین نہیں کرتے تھے اسی طرح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رفیدین نہیں کرتے تھے۔

**(الحاصل خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم) :-** بھی رفعیدین بن سند صحیح ثابت ہے۔

اگر یہ فعل سُنّت ہوتا تو خلفاء راجعہ کا اس پر ضرور عمل ہوتا۔ معلوم ہوا کہ سُنّت نہیں۔

ویکھو بخاری کی حدیث میں آتا ہے

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و هو حاصل امامۃ  
کہ حضور علیہ السلام امام کو (جو کہ آپ کی نواسی تھی، اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔  
یہاں بھی کان یصلی ہے اور رفعیدین کی حدیث میں کان یصلی ہے اگر رفعیدین  
ہر نماز میں سُنّت ہے تو نواسی کو اٹھانا بھی ہر نماز میں سُنّت ہونا چاہیئے تو ان عدایں  
عمل بالحدیث کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز میں اپنی نواسی یا کم سے کم لڑکی کو اٹھا کر نماز  
پڑھیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے ملکر رفعیدین کے بارے میں تو زکر نے  
کی بھی حدیث آئی ہے لیکن لڑکی کے اٹھانے کی نہ ممانعت آئی ہے نہ کسی حدیث میں آیا  
ہے کہ فلاں نماز میں آپ نے کسی لڑکی کو نہیں اٹھایا فما ہو جواب کو فہوجوابنا۔

### حدیث ۴۶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ  
فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَاكَ الْحَمْدُ لِفَانِهِ مَنْ وَأَفَقَ فَوَلَهُ  
قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق علیہ)

ابو ہریرہ صنی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب  
امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ یہ شک جس شخص کا قول  
فرشتلوں کے قول کے موافق ہواں کے لگلے سب گناہ بختنے جاتے ہیں اس کو بخاری و سلم  
نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدہ می صرف ربنا لک الحمد کہے اسے سمع اللہ لمن حمد  
کہنے کی ضرورت نہیں۔ سمع اللہ کہنا امام کا وظیفہ ہے۔

عامر شعبی جس نے پانچ سو صحابہ کی زیارت کی وہ فرماتے ہیں  
 لا یقولَ الْقَوْمُ خَلْفَ الْاِمَامِ سَمِعَ اللَّهَ لِمَنْ حَمَدَهُ وَلَكُنْ يَقُولُونَ رَبُّنَا  
 لَكَ الْحَمْدُ - احمدی، ابو داؤد۔

کہ امام کے پچھے مقدمہ سمع اللہ نہ کہیں وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں اسکو ابو داؤد  
 نے روایت کیا اور احادیث میں دعا تے ربنا لک الحمد سے زیادہ آئی ہے وہ یا اس  
 حدیث سے پہلے پھر مholmول ہے یا حالت الفراد پر ایسا طوع پر مholmول ہے۔

## حدیث ۲۷

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدِيهِ وَإِذَا نَهَضَ  
 رَأَيْتُ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ رُواهُ الْأَرْبَعَةِ وَابْنَ خَزِيمَةَ وَابْنَ حِيَانَ۔

وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے  
 اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں کے پہلے رکھتے اور حب اٹھتے تو ہاتھوں کو پہلے اٹھاتے اس  
 کو ترمذی لسانی، ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہم نے روایت کیا ترمذی نے اس کو حسن کہا علامہ  
 عبد الحنفی نے حاشیہ شرح وقاریہ میں اس کی سند کو قوی فرمایا ابن حبان نے اس کو صحیح کہا  
 جیہو را میں اسلام کا اسی حدیث پہنچل ہے۔

## حدیث ۲۸

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَرَابِ وَجْهَهُهُ  
 وَكَفَّاهُ وَرَكْبَتَاهُ وَقَدْمَاهُ رُواهُ التَّرْمِذِيُّ۔

عباس بن عبد المطلب رضي اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شنا فرماتے تھے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضا، سجدہ کرتے ہیں ایک منہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع آیا ہے۔

**الْجَمِيعُ وَالْأَنْفُسُ وَالْيَدِينُ وَالرَّكْبَتَيْنُ وَالْقَدْمَيْنُ وَهُنَّا عَصْمَاءٌ**  
پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں زانوں دونوں قدم آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ پیشانی اور ناک ایک عضو ہے اگر صرف پیشانی رکھے تو بھی اور صرف ناک رکھے تو بھی سجدہ جائز ہو جائیگا۔ لیکن ایسا کرننا ناجائز ہے پیشانی اور ناک دونوں لگانا چاہیئے۔

## حدیث ۲۹

ابوداؤد مرا سیل میں بھقی سنن میں لائے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں پر گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں تو اپنے فرمایا  
 اِذَا سَجَدَتِنَا فَضَّمَّا بَيْضَنَ اللَّهُمَّ اَلْرَضُ  
 کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے بعض اعضا، کو زین کے ساتھ چسپاں کرو۔ یعنی پیٹ  
 والوں کے ساتھ اور ہاتھوں زین کے ساتھ چھپت جائیں۔

ایک دوسری حدیث میں بھقی نے مرفوعاً راویت کیا ہے کہ حنفی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی والوں کے ساتھ لگائے جیسے زیادہ پرده سوکرے۔ میں کہتا ہوں اگرچہ پیٹی حدیث مرسل ہے اور یہ دوسری صنیعت میگر کوئی صحیح حدیث الیسی نہیں جس میں عورتوں کے مردوں کی طرح رائیں اٹھا کر سجدہ کرنے کا حنفی علیہ السلام نے حکم دیا ہوا درسل اکثر ائمہ کے نزدیک جلت ہے اور دو مرفاع متصل

حدیثیں اس کی تائید میں ہیں نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی فلتضم فخذیها اور ابراہیم سخنی کا قول جو یہیقے نے نقل کیا ہے۔

کانت المرأة تو مرأة اسجدت ان تلزق بطنهما بفخذيهما كيلا ترتفع عجزتها ولا تجافي كما يجاهي الرجل بمحى اسی کامویید ہے۔

### حدیث ۳۴

عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
ینهض فی الصلوٰۃ علی صد و قدمیه رواة الترمذی۔

ابو هریرۃ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے کنارہ پر کھڑے ہوتے تھے اس کو ترمذی نے روایت کیا۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ابوالمالک اشعری نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا کہ سب مرد و عورتیں جمع ہو جاؤ میں ہم تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھنا تھوں لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے نماز شروع کی الحمد اور سورت پڑھ کر کوع کیا پھر قدر کیا پھر تکبیر کی اور انھوں کھڑے ہوئے یعنی جلسہ نہ کیا اسکو امام احمد نے روایت کیا۔

### حدیث ۳۵

عَنْ وَائِلِ ابْنِ حَبْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدْمَيْهِ الْيُسْرَى  
عَلَى الْأَرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا رواه الطحاوی۔

وائل کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہچے نماز پڑھی جب آپ بیٹھے اور تشمید پڑھا تو آپ نے بایاں قدم زمین پر بچھایا اور اس پر بیٹھے اس کو طحاوی

نے روایت کیا۔

اسی طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے۔ اور اس کی انگلیوں کا قبلہ رُخ کرنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا رُنماز کی سنت میں سے ہے۔ (اس کو نسانی نے روایت کیا۔ جس حدیث میں قعدہ آخرہ میں تو رُک آیا وہ ہمارے علماء کے نزدیک حالت پیری پر محول ہے یا کسی عذر پر یا بیان جواز کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ سلام کے بعد آپ اسی طرح بیٹھے ہوں۔ قالہ علی القاری فی المرقاۃ۔

### حدیث ۳۴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا أَصْلَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادَةِ السَّلَامِ عَلَى حِبْرَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوْجِهِهِ قَالَ تَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا حَلَّسْ أَدْكُمْ فِي الصَّلْوَةِ فَلَيَقُلُّ الْمُحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلْوَةُ وَالطَّيَّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ أَذْ قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ متفق عليه۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے سلام ہو اللہ پر سلام ہو حبرائیل پر سلام ہو میکائیل پر

سلام ہو، فلاں پر توجیب حضور علیہ السلام نماز سے پھرے تو ہماری طرف منز کر کے فرمایا رہے تھا کرو۔ کہ اللہ پر سلام کیونکہ اللہ ہی سلام ہے۔ جب تمہارا کوئی نماز میں بلیٹھے تو یہ پڑھے التحیات اللہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایسا الفنی و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس حدیث کو ہماری مسلم نے روایت کیا۔

اس حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بلفظ خطاب سکھایا اور حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ لوگ نماز ہمیشہ میرے پاس ہی نہیں پڑھیں گے۔ کوئی گھر میں کوئی سفر میں کوئی جنگل میں کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ پڑھے گا۔ اور ہر جگہ میں لفظ بصیرۃ خطاب پڑھا جائیگا۔ اگر حضور علیہ السلام کو سلام بصیرۃ خطاب منع ہوتا تو آپ تشدید میں ہرگز اجازت نہ دیتے۔

اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہاں خطاب بطریق حکایت نہیں بلکہ بطریق انشاء ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا السلام علی عباد اللہ الصالحین کہنے سے سب صالحین کو یہ سلام پہنچ کا اگر حکایت ہوتی تو حکایتی سلام نمازی کی طرف سے کیے ہو سکتا ہے معلم ہوا کہ حکایتی نہیں بلکہ انشاء ہے۔

### حدیث ستم

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
إِذَا أَشَكَ أَهْدُكُمْ فِي صَلَوَتِهِ فَلْيَتَحَوَّلُ الصَّوَابَ فَلَيَتَمَّ عَلَيْهِ شَوَّ  
سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ۔ (متفق علیہ)

جب کسی کو نماز میں شک ہو تو صواب کا قصد کرے اور اس پر پوکرے پھر سلام کہے اور دو سجدے (سہو) کے کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا چاہیے۔  
ابوداؤد میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک سہو کے  
دو سجدے میں بعد سلام کے امام اعظم محمد اللہ کا بھی مذہب ہے۔

### حدیث ۳۲

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتَىَ الدُّعَاءَ .  
أَسْمَعَ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْأَخِرِ وَدُبْرَ الصَّلَوةِ الْمَكْتُوبَاتِ  
الْبَوَايَمَرَ كَہْتَهُ مِنْ كَہَا گِيَا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَكُونِي دُخَانِيَادِ سَنِي جَاتِي  
ہے فَرِمَا يَحْبِلِي رَاتَ کَے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد اس کو ترمذی نے روایت کیا۔  
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا درست ہے۔

### حدیث ۳۵

حافظ ابو بکر بن انسی عمل ایوم والمسیله میں روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم نے :

مَاهِنْ عَبْدِ بَسَطَ كَفَيْهِ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُولُ  
اللَّهُمَّ إِنِّي وَإِلَهٌ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِلَهٌ جِبْرِيلَ  
وَمِنِّي كَارِيْلَ وَإِسْرَافِيلَ أَسْلَكَ أَنْ شَكِيرَ بَدْعَوْتَنِي فَإِنِّي  
مُضْطَرٌ وَتَعْصِمُنِي فِي دُبِيْنِي فَرَأَيْتَ مُبْتَلِي وَتَسَالَتِي بِرَحْمَتِكَ  
فَإِنِّي مُذَبِّ وَسَقِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسِّكٌ

إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَأَمِنَّهُ يَدِيْهِ خَائِبَيْنَ -

یعنی جو شخص ہر نماز کے یتیجے ہاتھ پس کریے دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ

اس کے باقاعدگی نہ پھرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیئے جو لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے وہ محروم رہتے میں نماز جنازہ بھی من وجر نماز ہے۔ حدیث مذکور کا الفاظ کل صلوٰۃ اس کو بھی شامل ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیئے۔

### حدیث ۶

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَعَلْتُمْ لِكُمْ خَيْرًا كُمْ فَإِنَّهُمْ وَفُدُوكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَنِي وَبِنَكُمْ رَوَاهُ الدَّارِقطَنِي۔

فرمایا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے امام برگزیدہ لوگوں کو بناؤ کہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے بیچی ہیں اس کو دارقطنی نے روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام برگزیدہ ہونا چاہیئے اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ صحیح ہیں وہاں ہو یا مرا زائی، شیعہ ہو یا اہل ترقیت ہرگز برگزیدہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان میں سے کسی کے پیچے نماز نہیں پڑھنا چاہیئے۔

### حدیث ۷

عَنِ السَّابِقِ بْنِ حَلَادَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ جِينَ فَرَأَعَ لَا يُصَلِّ لَكُمْ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدْ أَذْنَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(مشکوٰۃ مد ۴۲)

سائب بن خلا و کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور قبلہ کی طرف منزہ کر کے تھوکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے اس کی قوم کو فرمایا جب وہ فارغ ہوا کہ یہ تمہیں نماز پڑھائے۔ پھر جب وہ نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے اسے منع کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اسے خبر دی تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔ ہاں رمیں نے منع کیا ہے، (راوی کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی۔

دیکھو قبلہ شریف کی طرف منزہ کر کے تھوکنے کے سبب حضور علیہ السلام نے نماز کی امامت سے روک دیا تو جو لوگ سر سے پاؤں تک بلے ادب ہیں ان کے تیچھے نماز کیسے جائز ہے۔

## حدیث ۸۳

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ الْمَقَاضَاءَ  
صَلَوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُكَبِّرٍ  
(متفق علیہ)

ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا تکبیر رکے آواز سے پچان لیا کرتا تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کیا کرتے تھے یا بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے جس کے آواز سننے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ یہاں سے ذکر ہبھر کی اجازت نکلتی ہے۔

## حدیث ۳۹

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعْدَ يُذَكِّرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ  
 ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاجْرٌ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّتِ تَامَّتِ رواہ الترمذی)

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فخر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا بیٹھا رہے ہے بہاں تک کہ سورج نکل آؤے پھر درکعت نماز پڑھتے اسے حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے جس حضور نے تین بار فرمایا کہ پورے حج و عمرہ کا۔ اسکو ترمذی نے روایت کیا۔ معلوم ہوا کہ نماز فخر کے بعد طلوع شمس تک ذکر میں مشغول رہنا بہت اجر کھلتا ہے۔ یہی حضرات صوفیہ کثرہم اللہ کا محبول ہے۔

## حدیث ۴۰

عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ يُرِدُ اللَّهَ بِهِ حَيَاةً  
 يُفْقِهُ فِي الدِّينِ وَأَنْسَا أَنَا قَاسِمُ وَأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي - متفق علیہ  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری کارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے ویتا ہے یعنی اسے عالم فقیرہ بنا دیتا ہے سو اسکے نہیں میں تقیم کرنیو الاموں در خدا تعالیٰ دیتا ہے یعنی وہ ہر چیز کر خدا دیتا ہے اسکو میں تقیم کرنیو الاموں۔

معلوم ہوا کہ جبکو جو کچھ ملتا ہے حضور علیہ السلام یہ کے ہاتھوں ملتا ہے اور وہ ہر ایک کو حسب مرتب عطا فرماتے میں انہیں علم ہے کہ فلاں اس قابل ہے اور فلاں اس قابل۔

یعنی معلوم ہوا کہ جن سے اللہ بہتری کارادہ فرماتا ہے ان کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے اور جو فقہ سے محروم ہیں وہ اللہ کی بہتری سے محروم ہیں۔

## دوسرا باب

# اعترافات کے جوابات

- ہدایہ پر اعترافات کے جوابات
- درِ نختار پر اعترافات کے جوابات
- امام ابو حنیفہ پر ابن ابی شیبہ کے اعترافات کے

جوابات

---

# ہدایہ

## پر اعترافات

## کے جوابات

## پیغمبر ایا آغاز

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

خَصَّلْتَنِ لَا يَحْبِبُّعَانِ فِي مُنَافِقٍ حَسْنُ شَهْمٌ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ (مشکوہ ۲۶)

وَخَصَّلْتَنِ مُنَافِقٍ مِّنْ جَمِيعِ النَّاسِ هُوَيْسٌ جُنُونُ أَخْلَاقٍ أَوْ دِينٍ كَمَا فَعَاهَتْ

اخبار محمدی دہلی کا پرچہ ۱۵ جولائی ۱۷۵۷ء میرے سامنے ہے جس میں ایڈیٹر نے ہدایہ شریعت پر ترقید کرتے ہوئے اپنی خباثت باطنی کا اظہار کیا ہے بدایہ کے چند مسائل کو اپنے گمان میں کتاب و سنت کے خلاف قرار دیتے ہوئے گندے مسائل سے تعمیر کیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد کے مطابق فعاہت فی الدین اور جُنُونُ أَخْلَاقٍ دلوں منافق میں جمیع نہیں ہو سکتیں۔ ایڈیٹر کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ احناف کے حق میں اچھا خاصا زہر افکار ہے اور جی بھر کر ربا محلا کہدیا ہے۔ رہی بات فقاہت فی الدین کی تو خیر سے حدایہ کے مسائل کو تصحیح پاٹے۔ نہ ہی ہدایہ کے دلائل کو توڑ سکے۔ چاہیئے تو رسم تھا کہ قرآن اور حدیث صحیح پیش کی جاتیں۔ بعض مسائل قولیے کمک دیئے جن چرفی مذہب کا فتویٰ نہیں بلکہ حنفی کتابوں میں ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور بعض مسائل ایسے لکھے جن کے دلائل خود بدایہ شریعت میں موجود ہیں۔

ایڈیٹر "محمدی" کو اگر محمدیت سے سہوتا تو بدایہ شریعت کے دلائل کو توڑ کر اپنے دلائل بیان کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اس کا مقصد و صرف عوام کو مناظر میں ڈالنا ہے۔

اب میں اس کے اعتراضات لکھ کر جوابات لکھتا ہوں۔

فَقِيرُ الْوَلِيْسُفُ مُحَمَّدُ شَرِيفُ غَفَرَةُ

## اعتراض

رکوع و سجود والی نماز میں کھکھلا کر سہنس پڑا تو وضو لوث جائے گا جنازہ کی نماز میں یا سجدہ تلاوت میں کھکھلا کر سہنس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

## جواب

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جس قدر تعریف کی جائے بجا ہے۔ اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم سبے زیادہ حدیث نبوی کے پیر و تھے۔ یہاں آپ نے ایک حدیث کی بنابر قیاس کو ترک کیا۔ قیاس چاہتا تھا کہ جس طرح نماز سے باہر قہقہہ وضو کا مفسد نہیں اسی طرح نماز میں بھی وضو کا مفسد نہ ہو۔ لیکن چوں کہ ایک حدیث میں آگئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہہ پر وضو کے اعادہ کا حکم فرمایا تھا۔ اس لیے امام اعظم نے قیاس پر حدیث کو ترجیح دی۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم حدیث پر قیاس کو ترجیح دینے تھے، وہ ذرا اس مسئلہ پر غور کریں اور اپنے اس افتراؤ کو واپس لیں۔ دیکھئے ابوالقاسم بن اسی لکھتا ہے:

”احادیث نبوی کو قیاس سے رد کرنے کا طریقہ کو فرمیں میں بنا：“

رابع حدیث ۶۹ (نومبر ۲۵ھ) الخوذ بالشد من هذه الافتراض۔

رہی سیبات کہ ہذا یہ شریف میں رکوع و سجود والی نماز میں قہقہہ مفسد نماز کھاہے جنازہ اور سجدہ تلاوت میں فساد وضو کا حکم نہیں دیا۔ تو اس کی وجہ خود ہذا یہ شریف میں ہی لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”والاثر ورد في صلوٰة مطلقةٍ قيُّقتَصْرُ عَلَيْهَا (هذا)“

یہ حدیث صلوٰۃ مطلقة یعنی کاملہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے (اور وہ نماز رکوع و سجود والی ہے) لہذا اسی پر اس کا اقصار ہے گا۔

یعنی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت چونکہ نماز کامل نہیں اس لیے یہ حکم ان پر نہیں ہوگا جنازہ کی

نماز من و جه نماز ہے اور من و جه دعا ہے۔ نہ تو پوری نماز ہے کہ اس میں رکوع، سجود، تشهد اور فرأت نہیں اور نہ ہی صرف دعا ہے کہ اس میں وضو اور استقبال مبتدا صفرتی ہے۔ دعا میں ضروری نہیں۔ اس لیے جنازہ اور دعا کو یہ حکم شامل نہ ہوگا۔

اب فرمائیے کہ یہ مسئلہ کس آیت یا حدیث صحیح کے خلاف ہے؟ حقیقت میں اعتراض تو وہ بیرون پڑھتے کہ وہ حدیث قبقراء کو نہیں مانتے۔ اور قیاس کو اس پر ترجیح دیتے ہیں اور باوجود اس کے اپنے آپ کو "اہل حدیث" کہتے ہیں۔ اثاب پور کو تعالیٰ کو دانستے؛ علامہ عبدالحی الحنفی نے بڑا یہ شریعت کے حد اکے عادیتی میں لکھا ہے کہ علامہ زینی کی تحریر سے سمجھا جاتا ہے کہ احادیث قبقراء میں تو مسلم ہیں اور بعض مسنده۔

وَقِصَّةُهُ أَنَّ الصَّحَّابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فَجَاءَهُمْ أَعْرَابٌ فَقِيلَ عَيْنُهُمْ سُوءٌ فَوَقَعَ فِي حُضْرَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ هُنَاكَ فَضَيَّخُوكُمْ بَعْضُ الصَّحَّابَةِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَّنِ صَلَّكُمْ مِنْكُمْ قِيمَةُهُ فَلَيَعُدُ الْوَضْوَءُ وَصَلَوةُ جَمِيعِهَا

اور اس کا مصنفوں یہ ہے کہ صحابہ ربی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کے پچھے نماز پڑھ رہتے تھے کہ ایک اعرابی آیا جس کی نظر میں کچھ کمی تھی۔ وہ فریب ہی ایک گڑھے میں گرد پڑا تو بعض صحابی میں پڑے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کھا ملا کہ مہلک ہے، وہ نماز اور وضو دونوں کا اعادہ کرے اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگرچہ ضعیف ہے پھر بھی قیاس پر مقدم ہے اور حبیک نے صحیح حدیث اس کے مقابلہ نہیں پھر اس کو کہا ہی ترک کیا جائے؟ اہل حدیث ۲۱ نومبر ۱۹۷۸ء میں ایڈیٹر اہل حدیث لکھتا ہے:

جو امر کسی غیر صحیح روایت میں آئے، اس کی سنت شابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن

اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی شان میں گردن ہے جو صحیح روایت  
سے ثابت نہ ہو سکنے کی وجہ سے سنت نہیں لیکن بدعت بھی نہیں۔“  
میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا کہ اس  
کا ازارِ حنفی سے یقینے تھا تو اس کو فرمایا،

**إذْهَبْ فَتَوْضَاءُ ॥ جَا اور وضو کر ॥** (مشکوٰۃ ۴۵)

تو جو شخص نماز میں قہقہہ لکھا کر رہے وہ کیوں نہ وضو کرے؟ نماز میں حکم بلا کر رہنا ایک  
گستاخی ہے۔ جس کے واسطے وضو کفارہ ہو سکتا ہے کہ حق بسحانہ تعالیٰ طہارت ظاہر  
سے اس کے باطن کو بھی ظاہر کر دے۔

**اعتراض** شرمنگاہ کے سوا اور جگہ ..... کرنے سے جب تک ازال نہ ہو  
غسل واجب نہیں۔

**جواب** فرمائیے! یہ مسئلہ کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے؟ اگر کسی حدیث  
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوپائی کے ساتھ یا شرمنگاہ کے علاوہ  
شہوت رانی کی جائے تو بلا ازال غسل واجب ہے۔ تو وہ حدیث بیان فرمائیں۔ اگر کوئی  
ایسی حدیث نہیں تو شرم کرو۔ پھر اس مسئلہ کو گند اور خلافِ حدیث کس عقل سے سمجھتے  
ہو۔ تمہارے یہاں صحیح بخاری میں تو عویت سے جماع کرنے سے بھی بلا ازال غسل لازم  
نہیں سمجھتے۔ امام بخاری ایسی حالت میں غسل لازم نہیں سمجھتے صرف احوط فرماتے  
ہیں تو چوپائی یا تلفخیہ یا تبلیغ میں بلا ازال غسل لازم کس دلیل سے سمجھا جائیگا؟  
جب وجوہ غسل پر کوئی دلیل ہی نہیں تو قہقاہ علیہم الرحمہ نے کیا اب کیا کہ فعدان دلیل  
کی وجہ سے وجوہ غسل کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو بیان کرے

ورثہ اپنا اعتراض واپس لے۔

البنت پر ایہ شریعت میں عدم وجوب عسل پر دلیل بھی لکھی ہے۔ کہ اس کی بستیت ناقص ہے۔ مگر یہ دلیل کوئی فقیرہ سمجھے۔ فقد کے دشمنوں کو اس کی کیا سمجھو؟

ایک شبہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ فقہاء کے نزدیک چوپائی سے شہوت رانی کرنا جائز ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں صرف عسل کے وجوب اور عدم وجوب کا بیان تھا۔ اس سے متعلق سزا کا بیان کتاب الحدود میں موجود ہے۔ اسی بدلہ شریعت میں کتاب الحدود کے تحت ایسے شخص کی سزا درج ہے۔

اعتراض انسان اور خریزیر کے سوا جس چمٹے کو دباعت دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔

جواب صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا

أَيْمَّا إِهَابُ دُبِيعَ فَقَدْ طَهَرَ يَا

إِذَا أَدْبَعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ

بدایہ شریعت میں اسی حدیث کے الفاظ میں یعنی

كُلُّ إِهَابٍ دُبِيعَ فَقَدْ طَهَرَ

تجуб ہے کہ اس مفترض کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں یہ اعتراض بدایہ پر کر رہا ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب بدایہ نے وہی کہبۃ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ پھر اگر یہ گندامسئلہ ہے تو شرم کرو کہ اس کی نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ تمہارا مولوی وحید الزمان بلا پتا غیر مقلد، تعلیم کو برا کہنے والا، صحیح ستہ

کا ترجیح کرنے والا، قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والا اور فقہ محدثی لکھنے والا، کہتے، درندے، بھیرٹیتے تو ایک طرف خنزیر کے چمڑے کو بھی دباعت سے پاک لکھتا ہے۔ فقہاء علیهم الرحمۃ نے تو خنزیر کو مستثنیٰ کیا ہے مگر یہ حضرت تو اس کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتے۔ چنانچہ نزل الابرار کے صد ۲۹ حج اول میں لکھتے ہیں۔

”ایما اهاب دین فقد طہر و مثلہ المثانۃ والکرش  
واستثنی بعض اصحابنا جلد الحنزیر والادمی و  
الصحيح عدم الاستثناء“

کہ جس چمڑے کو دباعت دی جائے پاک ہو جائے ہے مثانۃ اور وحری میں بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے بعض اصحاب (غیر مقلدین) نے خنزیر اور ادمی کو مستثنیٰ کیا ہے جو انہمکے صحیح یہ ہے کہ یہ بھی مستثنیٰ نہیں۔

جب آپ کے بڑے یہی مسئلہ لکھتے ہیں تو آپ عنفیہ کو کیوں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ اپنے وحید الزمان پر اعتراض کیجئے۔ آپ یہی کہیں گے کہ ہم وحید الزمان کے مقلد نہیں۔ ہم امام ذہب قرآن و حدیث ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ تم ان کے فتاویٰ پر بلا دلیل عمل کرتے ہو یا نہیں؟ اگر کہو کہو نہیں تو بالکل غلط ہے۔ مولوی شناز اللہ ایڈیٹر اہل حدیث کے کئی ایسے فتاویٰ ہیں جن پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں لکھی مگر لوچھنے والوں نے ان کو مان لیا۔

کیا مولوی وحید الزمان، صدیق حسن، قاضی شوکان اور ابن تیمیہ وغیرہ غلطی نہیں کر سکتے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ان کے مسائل پر تو بلا تحقیق عمل کیا جائے اور امã اخاف کے مسائل پر تضییہ ہی تنقید روا کھی جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ برائے نام ”غیر مقلد“ ہیں۔

اعتراض کہتے۔ بھیڑیسے اور گوہ وغیرہ کی نیگی ہوئی کھال پہن کر نماز ہو جاتی ہے اور ان کی کھالوں کے بننے ہوئے ڈول میں پانی بھر کر وضو کرنے جائز ہے۔

جواب جب یہ ثابت ہو گیا کہ کھالیں دماغت سے پاک ہو جاتی ہیں تو ان پر نماز پڑھنا یا ان کے ڈول کے پانی سے وضو کرنا کیوں منع ہو گا؟ ہاں ! تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث اس کے بخلاف ہو تو سپشیں کرو لیں پہلے اپنے مولوی و حیدر الزمان کی نزل الابرار دیکھ لینا۔

”وَيَتَخَذِ الْجَلْدَهُ مَصْلَىٰ وَدَلْوَاً“ ص۳

یعنی کہتے کہ چھڑے کا ڈول اور جانماز بنا لینا درست ہے۔

اعتراض کتاب نجس العین نہیں۔

جواب مندرجہ بالا عبارت سے یہ کہ ثابت ہوتا ہے کہ ”کتاب نجس نہیں“ معتبر ضم اتنا بلے خبر ہے کہ نجس اور نجس العین میں فرق نہیں جانتا۔ فقہاء علمیم الرحم نے کتاب کو نجس العین بھی لکھا ہے۔ اور نجس العین نہ ہونے کی بھی روایت ہے کہ کتاب نجس العین نہ ہی، نجس تو ہے۔ اس کا گوشت اور خون بالاتفاق پلید ہے۔ کسی فقة کی کتاب میں اس کے گوشت یا خون کو پاک لکھا ہوا دکھاؤ۔

لوہم تمہارے پیشواؤں سے دکھادیتے ہیں کہ وہ کتاب کو پلید ہی نہیں سمجھتے وحید الزمان لکھتا ہے :

دَمُ السَّمَكِ طَاهِرٌ وَكَذَ الْكَلْبُ وَرِيقَةٌ عَنْ الْمُحْقِيقِينَ

من اصحابنا (نزل الابرار)

"ہمارے محققین کے نزدیک محلی کاخون پاک ہے۔ اسی طرح کتنا اور اس کا العاب (بھی پاک ہے)۔

امام بخاری بھی ان محققین میں ہیں جو کتنے کو پاک سمجھتے ہیں۔

عرف المجادی کے صنایں تصریح ہے کہ کتنے کے ناپاک ہونے میں کوئی دلیل نہیں نواب صدیق حسن بھی کتنے کو پاک لکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی غیر مقلدین کے اپنے ہی گھر سے نکل آیا ہے۔ اسی الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔

اعترض کتنے، بھیریتے، گدھے وغیرہ درندوں کو ذبح کرنے سے ان کی کھلیں بلکہ گوشت بھی پاک ہو جاتے ہیں۔

جواب حسنور علیہ السلام کے ارشادِ إذا دُبَّعَ الْهَاجَبُ فَقَدْ طُهِّرَ کے مطابق کمالیں تو بے شک پاک ہو جاتی ہیں جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ رہی یہ بات کہ یہاں غبت کا ذکر نہیں بلکہ ذبح کا ہے۔ صاحبِ پدایہ اس کا جواب دیتے ہیں۔

لأنه يعمـل عمل الدباغ في إزالـة الرطـوبـات النـجـسـه رـهـاـيـه  
كمذبحـكـرـنـاـدـبـاعـنـتـكـاـكـامـكـرـجـاتـاـهـيـهـجـسـ طـرـحـ دـبـاغـتـ سـرـ طـوبـاتـنـجـسـ  
زـائـلـ ہـوـجـاتـیـ ہـیـسـ اـسـیـ طـرـحـ ذـبـحـ سـےـ بـھـیـ رـطـوبـاتـنـجـسـ زـائـلـ ہـوـجـاتـیـ ہـیـسـ۔

ذبح اگر خلاں جانور کو کیا جائے گا تو طہارت و حلت دونوں ہوں گی۔ اگر عرام کو ذبح کیا جائیگا تو طہارت ہو جائے گی میکن حلت نہ ہو گی اس کی حرمت برقرار رہتے ہیں گی۔ اگر خلاں جانور کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا جائے تو حرام و ناپاک ہو گا۔

حدیث شریعت میں زکوہ المیتۃ دیا ختما درواہ النافی اکیا ہے یعنی مردار

کافی بح کرنا اس کو دباغت دینا ہے۔ اسی طرح حدیث مرفوع میں ذکاۃ کل مسک دباغت  
آیا ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے لیکن ہر جیزے کافی بح کرنا تو پاک کرنا اس کو دباغت کرنا  
ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں دباغها رکونہا آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ طہارت میں  
اصل ذبح کرنا ہے۔ اور دباغت اس کے فاقم مقام ہے۔ پس ذبیحہ کا مطہر جلد ہوتا ہے میں  
ہو گیا۔ نیز ان روایات میں حضور علیہ السلام نے دباغت رکوہ جس کو ذبح بھی کہتے میں  
اور طہارت بھی، ایک فرمایا ہوا ہے۔ جو فائدہ ذبح کرنے سے ہوتا ہے وہی دباغت  
سے حاصل ہوتا ہے جب دباغت اور ذبح ازالہ رطوبات بخسر میں شرکیب میں تو  
طہارت میں بھی شرکیب ہوں گے۔ تفرقی بینہ ولیل تحکم پر مبنی ہے۔

هذا ما أنا ومن يستحق التعظيم  
حرام جانوروں کا گوشت اصح اور مفتی بہذہب میں پاک نہیں ہوتا  
مراقب الفلاح میں ہے:

دون لحمہ فلا يطهر على اصح ما يفتح به (ص ۹۶)  
اصح اور مفتی بہذہب میں ذبح کرنے سے حرام جانوروں گوشت پاک  
نہیں ہوتا۔

علامہ عبدالحق حاشیہ بدایہ کے ص ۲۵ میں اور شیخ ابن ہمام فتح القدير ص ۳۹ میں  
فرماتے ہیں:

قالَ كثيرونَ مِنَ الْمُشائخِ إِنَّهُ يطهِّرُ جَلَدَهُ لَا لَحْمَهُ وَهُوَ  
الْأَصْحُ وَالْخَيْرُ الشَّارِحُونَ كَمَاحْبُّ العَنَيَّةِ وَصَاحِبِ  
النَّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا۔

بہت سے مشائخ نے فرمایا ہے کہ ذبح کرنے سے چمڑا تو پاک ہو جائیگا  
گوشت پاک نہیں ہوگا اور یہی اصح ہے۔ اسی کو صاحب عنایت و صاحب

نہایت وغیرہ شارحین نے پسند فرمایا ہے۔  
کبیری ص ۲۴۳ میں ہے :

الصحيح ان اللحم لا يطهر بالذكاء  
صحیح یہ ہے کہ حرام جانوروں کا گوشت ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا۔  
درختار میں ہے کہ غیر ماکول مذبوح کا گوشت  
لا يطهر لحمه على قول الاكثر ان كان غير ماكول - هذا  
اصح ما یفتی به -

اکثر کے نزد مکیک پاک نہیں ہوتا اور یہ صحیح ترین فتویٰ ہے۔

ثابت ہوا کہ مذہب خنفی میں صحیح اور مفتی بھی ہے کہ غیر ماکول جانور کا گوشت  
ذبح سے پاک نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہابیوں کے نزد مکیک پاک ہو جاتا ہے چنانچہ  
مولوی وحید الزمان نzel الابرار ص ۳۷ میں لکھتا ہے :

ما يطهر بالدجاجة يطهر بالذكاء اللحم الخنزير فانه حبس  
جو دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، ذبح سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خنزیر  
کے گوشت کے سوا کہ وہ حبس ہے۔

اس عمارت میں صرف خنزیر کے گوشت کوستشنی کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دوسرے  
جانوروں کا گوشت بھی ان کے نزد مکیک پاک ہو جاتا ہے بلکہ وہابیوں کے ہاں ذبح کے لیے  
کتا اور خنزیر کے ناپاک نہیں۔

عرف المغاربی میں ہے :

"پس دعویٰ بخس عین بودن سگ و خنزیر و پلید بودن حمرہ ۰

دم مفسوح و حیوان مردار نا تمام است ۰"

کتے اور خزمیر کے بخس عین ہونے کا دعویٰ، شراب اور دم مفروض کے پلیے ہونے کا دعویٰ اور مرے ہوئے جانور کے ناپاک ہونے کا دعویٰ کرنا چیز سنبھیں ہے۔

نواب صاحب بدوار الالہ آباد کے مرلا میں فرماتے ہیں :

حدیث ولوغ کلب وال بر تجاست تمام رکلب از لحم و عظم ددم و شعر و عرق نیست بلکہ این حکم شخص ولوغ است الماقش ولوغ است الماقش لمقیاس بر ولوغ سخت بعید است.

دیکھئے! آپ کے نواب صاحب تو کتنے کے گشت، ہڈیوں، خون، بالوں اور پیسے تک کوپاک کہہ رہے ہیں۔ پس آپ ہی کو مبارک ہو۔

اعتراض کجھوڑ کے شراب سے وضو کرنا جائز ہے اور اس کا پینا بھی حلال ہے۔

جواب امام اعظم کی یہ روایت مفتی بہ نہیں۔ خود فتحہ علیہم الرحمۃ نے تصریح کی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح اور مفتی بہ روایت یہ ہے کہ اس کا پینا جائز ہے اور نہ ہی اس سے وضو درست ہے۔

خود صاحب بدایہ نے ص ۳۰ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

قال ابو یوسف تیسم ولا یوضاد به و هو روایة عن  
ابی حذیفة (رہدایہ)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بنیز تمر سے وضو ز کرے تیم کرے اور یہ روایت ابو حذیفہ سے ہے۔

بلکہ امام اعظم کا یہی آخری قول ہے۔

چنانچہ علامہ عینی شرح بہاری جلد اول ص ۲۰۶ میں فرماتے ہیں۔

روئی عنہ نوح ابن ابی مریم و اسد بن عمر والحسن  
انہ تیمٰم ولا یَتَوَضَّأُ بِهِ۔ قال قاضی خان وهو  
الصحيحُ وهو قولُ الاحبُرِ وقد رجعَ اليهِ۔

نوح بن ابی مریم، اسد بن عمر اور حسن نے امام اعظم سے روایت کیا  
ہے کہ بنیذ تمر سے وضو نہ کرے، تیمٰم کرے۔ قاضی خان نے لکھا ہے  
کہ یہ صحیح ہے اور امام صاحب کا یہ آخری قول ہے۔ امام اعظم  
نے اس کی طرف رجوع فرمایا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری، پارہ اول ص ۲۰۶، ۱۴۰۱ میں لکھتے ہیں:  
ذکر قاضی خان ان ابا حنیفۃ رجع المـ هذ القول  
قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب بنیذ تمر سے وضو ناجائز  
ہونے کی طرف رجوع کیا۔

لپس وہ مشکلہ جس سے امام صاحب نے رجوع فرمایا۔ فقہاء نے جس کو مفتی برقرار  
نہیں دیا اس کو ذکر کر کے احاف پر اعتراض کرنا محض عوام کا لانعام کو مغالطہ میں  
ڈالنا ہے۔

اعتراض پتھر، پچ، چونہ اور ہڑتاں سے بھی تیمٰم ہو سکتا ہے۔

خواب کیا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے جس میں یہ حکم ہو کہ ان اشیاء  
پر تیمٰم درست نہیں۔ اگر ہے تو بیان کرو۔ ورنہ اپنا اعتراض واپس لو۔  
سینے! ہزار یہ شریعت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ یعنی

ان الصعيد اسم لوجه الارض

صعيد مثی ہی کوئی نہیں کہتے بلکہ صعيد روئے زمین کا نام ہے۔

علامہ علینی شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں :

لأنَّ الصعيد ليس الترابُ إنما هُوَ وجهُ الارضِ

تُرَابًاً كَانَ أَوْ صَخْرًا لَا تُرَابٌ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ

کیونکہ صعيد مثی نہیں بلکہ روئے زمین ہے۔ مثی ہو یا پتھر جس پر مٹی  
نہ ہو یا اس کا غیر ہو۔

اور حدیث سخاری مسلم میں آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسِيْجَدًا وَ طَهُورًا

کہ میرے لیے جنس زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا

اکی حدیث میں آیا ہے التزاب طہور المسلم

علامہ علینی شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں :

هذا الذي ذكره في الحقيقة استدلال لابي حنيفة و

محمد على جواز التيمم بجميع اجزاء الأرض لأن اللام فيما

للجنس فلا يخرج شيئاً منها وكان الأرض كلها جعلت

مسجداً و ما جعل مسجداً هو الذي جعل طهوراً (رعنی م) (۳)

درحقیقت اس میں ابوحنیفہ و محمد کی دلیل ہے کہ زمین کے جیسے اجزاء

کے ساتھ تیم جائز ہے۔ کیونکہ اس میں لام جنس کے لیے ہے تو کوئی

چیز اس لیے خارج نہ ہو گی اور سب زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ تو جو

مسجد بنائی گئی وہی پاک کرنے والی بنائی گئی۔

تو اس سے تیم صحی درست ہوا۔ کیونکہ ریت، چونہ اپھرا اور پچ یہ سب حیزین مسجدیں

اور ان پر نماز جائز ہے جن پر نماز پڑھنا جائز ہوا، ان پر تیم کرنا بھی جائز ہے۔  
صدیق بھوپالی روضہ نذیر کے صدر میں میں لکھتا ہے:

قال في القاموس والصعيد التراب او وجه الارض انتهى  
والثانى هو الظاهر من لفظ الصعيد لأنَّه ماصعداً  
علاً وارتفع على وجه الارض وهذه الصفة لا تختص  
بالتراب ولوييد ذالك حديث جعلت لى الارض  
مسجداً وطهوراً -

قاموس میں ہے کہ صعيد تراب ہے یا روئے زمین۔ اور دوسرا معنی  
لفظ صعيد سے ظاہر ہے۔ صعيد وہ ہے جو بلند ہو اور زمین کے  
اوپر ہو۔ اور یہ صفت یعنی روئے زمین پر ہونا، مٹی کے ساتھ مختص  
نہیں کہ تیم اسی کے ساتھ مختص ہو) اور حدیث جعلت لى  
الارض مسجداً و طهوراً بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

عرف المغاری ہے :  
تحقیص صعيد بتراب ممنوع است  
صعيد کی تحقیص مٹی سے کرنا صحیح نہیں

معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے تیم کے لیے صعيد اطیبا فرمایا ہے۔ صعيد روئے  
زمین کو کہتے ہیں اور روئے زمین ہر جگہ مٹی نہیں ہوتا۔ ریگستان میں ریت ہے،  
پتھر ملی زمین میں تپھر ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو جنس زمین سے ہو گی اس پر تیم جائز ہے۔  
اس سلسلہ کو جس کا مأخذ قرآن و سنت ہے، خلاف عقل و نقل قرار دینا فرقہ  
وہابیہ میں کا خاصہ ہے۔

اعتراف کوئی شخص عیدگاہ پہنچا، نماز ہو رہی ہے۔ اسے خوف ہے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص تمیم کر کے نماز میں شامل ہو جاتے۔

جواب فرمائیے! یہ مسئلہ کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے؟ ایسے شخص کے لیے تم ہی بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ اب ہم سے سینٹے! ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تجھے خوف ہو کہ اگر میں وضو کروں گا تو جنازہ کی نمازوں کو ختم کر کے نماز میں شامل ہو جاؤ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ إِذَا خَفَتِ الْأَنْفُوتَكُ الْجَنَازَةُ وَانْتَ  
عَلَى عِيْدٍ وَضُوءٍ فَتَمِّمْ وَصَلِّ رَوَاهُ أَبْنَ ابْنِ شِيبَةَ  
رَمَضَنْ يَحْيَى زَبِيلِيِّ صَدِيقٍ جَلْدٌ أَوْلَ

ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جنازہ پر تشریف لائے۔ اپ بے وضو تھے۔ اپ نے تم کر کے نماز پڑھی۔ اس اثر میں گوفوت جنازہ کی قید نہیں مگر یہ قید پہلے اثر میں موجود ہے اس لیے یہاں بھی یہی سمجھی جاتے گی تاکہ آثار متعارض نہ ہوں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں

عَنْ أَبْنَ عَمْرَانَهُ أَقَى بِجَنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى عِيْدٍ وَضُوءٍ فَتَمِّمْ  
شَهْرَ صَلَّى عَلَيْهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ

(روجہر النفقی ج ۱، ص ۵۹)

لو جو جبیت جامدہ کے نماز عید کا نماز جنازہ پر قیاس ہے۔ جبیت جامدہ یہ ہے کہ جس طرح نماز جنازہ کا بدلتی نہیں عید کا بھی کوئی بدلتی نہیں۔ اس لیے جو حکم اس مسئلہ میں جنازہ کا ہے وہی عید کا ہے۔ کرفوت کا خوف ہو تو تمیم کر کے شامل ہو جاتے۔

اس کے علاوہ شیخ عبدالمحیٰ نے حاشیہ مدایہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز عید میں بھی تبیم کر کے مل جانا لکھا ہے بشرطیکہ نماز کے وقت کا خطرہ ہو چنانچہ فرمایا و نقل ابن عمر فی صلواۃ العید مثلاً یعنی نماز عید میں اسی طرح عبہ اللہ بن عمر سے منقول ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ جن احادیث میں لاصلوۃ الابطہ ہو رأیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں میں کیوں کہ تبیم بھی طہور ہی تو ہے۔

اعتراف غلظت نجاست مثلاً ناپاک حون، پیشاب، شراب، مرغ کی بیٹ اور گدھ کا پیشاب وغیرہ کپڑے یا جسم پر لقدر درہم لگا ہوا ہو، تو بھی نماز ہو جائے گی۔

جواب بے شک فقہاء علیہم الرحمہ نے ایسا لکھا ہے لیکن یہ معافی بہبتد صحیت نماز ہے نہ بہبتد گناہ کے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے والے کو گناہ بھی نہیں۔ خود فقہاء علیہم الرحمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ایسا کرنامکروہ تحریر یہ ہے درمختار میں ہے:

عفا الشارع عن قدر درہم و ان کرہ تحریما

فیجب غسلہ (رد مختار)

شارع نے قدر درہم معاف کیا ہے اگرچہ مکروہ تحریر یہ ہے لیں اس کا دھونا واجب ہے۔

معلوم ہوا کہ جب کپڑے کو لقدر درہم نجاست لگی ہو گی۔ اس میں نماز پڑھنا ہمارے

نزوکیک مکروہ تحریک ہے۔ اس کا دھنوا واجب اور نماز کا اعادہ واجب ہے۔  
کما قال اشیخ عبد الحنفی لکھنوی فی حمدة الرعایة ص ۱۵۱ ج ۱۔

اشارہ ای ان العضو عنہ بالنسبة الی صحة الصلوة به  
فلا ینافی الا شر.

کریہ معافی پر نسبت صحت نماز ہے نہیں کہ اس کو گناہ نہیں۔

اور یہ اجازت ہی اس صورت میں ہے کہ دھونے کے لیے پانی یا دوسرا پاک پیڑا نہ  
سلے۔ اگر پانی میسر ہے اور وقت کی لگنجائش بھی ہے تو اسے دھولینا چاہیے۔  
چنانچہ فتاویٰ غیاثیہ ص ۱۳ میں ہے :

دخل في الصلوة فرأى في ثوبه خجاست اقل من قدر  
الدرهم وكان في الوقت سعة فالافضل ان يقطع  
او يغسل الثوب ويستقبلها في جماعة أخرى وإن  
فاسته هذه ليكون مؤريا فرضه على الجواز بعيتين  
فإن كان عادماً للسماء أولى يكن في الوقت سعة او لا يرجوا  
جماعات أخرى مضى عليها وهو الصحيح.

یعنی نماز شروع کی تو دیکھا کہ کپڑے میں قدر درہم سے کم بخاست ہے  
اور وقت میں فراخی ہے تو افضل یہ ہے کہ نماز قطع کر کے کپڑا دھوڈلے  
اور دوسری جماعت میں نئے سرے سے شروع کرے اگرچہ جماعت  
اس کی فوت بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تاکہ اس کے فرض یقیناً ادا ہو جائیں  
اور اگر پانی نہیں یا وقت میں وسعت نہیں یا دوسری جماعت ملنے  
کی امید نہیں تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔  
لطاطاوی فرماتے ہیں :

المراد عفاف عن الفساد به والافکرا هتة التحریم باقیة  
اجماعاً ان بلغت الدرهم و منزیها ان لم تبلغ -

(رخطاوى على مراتق الفلاح ص: ۹)

یعنی عفو سے مراد ہے کہ نماز فاسد نہیں ورنہ کہ ابہت تحریمی اجمائعاً باقی رہتی ہے اگر درہم کو نجاست پہنچے اگر درہم سے کم ہو تو کہ ابہت تینیزی رہتی ہے۔

معلوم ہوا کہ اگر قدر درہم نجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو گی جس کا اعادہ واجب اور کپڑے کا دھونا واجب ہے۔

پس دیانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ معرض ان تمام بالوں کو بھی لکھتا پھر اعتراض کرتا کہ ناظرین کو اصل مذہب کا پتہ لگ جاتا۔ مگر یہاں کو عوام کو صرف مغالطہ میں وال کر مذہب حقیقی سے بیگانہ کرنا مقصود تھا۔ دیانت سے کیا کام؟ جب اصل مسئلہ معلوم کر پکے تو اس معافی کا مأخذ بھی معلوم کر لینا چاہیئے۔ یہ معافی فقہاء نے استنجاء بالاحجار سے اخذ کی ہے کیونکہ ظاہر ہے پھر دھیلے مزمل نجاست نہیں ہیں بلکہ مجوف اور منشف ہیں تو موضع خالط کا بخس ہونا شرعاً نتیجے نماز کے لیے معاف کیا ہے۔ اور وہ قدر درہم ہوتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے نماز کے لیے بقدر درہم معاف لکھا ہے۔

نووی شرح صحیح مسلم میں حدیث اذا استيقظ احد کو من منامہ کے بعض فوائد میں سے لکھتے ہیں :

منها ان موضع الاستنجاء لا يظهر بالاحجار بل يبقى

بعضاً معفواً عنه في حق الصلوة (نووی ص: ۱۳۶)

یعنی بعض فوائد میں سے یہ ہے کہ استنجاء کی جگہ پھر وہ سے پاک نہیں ہوتی بلکہ بخس رہتی ہے جو نماز کے حق میں معاف ہے۔

اسی طرح حافظ ابن حجر فتح الباری پی میں لکھتے ہیں ہدایہ شریف میں ہے:

قدرناہ بقدر الدرهم اخذ اعن موضع الاستنجاء (ص ۵۵)  
 کو وہ قلیل بخاست جو کہ عفو ہے ہم نے اس کا اندازہ بقدر درهم رکھا اور  
 اس کا مأخذ استنجاء کی بجگہ (کامساف ہونام ہے)  
 علامہ شامي فرماتے ہیں :

قال في شرح المنية ان القليل عفو اجمعًا اذا الاستنجاء  
 بالحجر كاف بالاجماع وهو لا يستاصل البخاست والتقدير  
 بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وهو مما لا يعرف  
 بالرأي فيعمل على السماع اه وفي الحلة القدير بالدرهم وقع  
 على سبيل الكتابة عن موضع خروج الحديث من الدربر كما افاده  
 ابراهيم النجاشي يقول انه استكرهوا ذكر المقاعد فـ  
 مجالسهم فكروا عنه بالدرهم وليغضده ما ذكره المشائخ  
 عن عمر انه سئل عن القليل من البخاست في التوب  
 فقال اذا كان مثل ظفرى هذا يمنع جواز الصلة فـ  
 قال وظفره كان قريبا من كفتنا اه (شامي ص ۲۳۷ ج اقبل)  
 شرح منية میں کہا ہے کہ بخاست قلیل اجماعاً معاف ہے کیوں کہ پھر وہ  
 سے استنجاء کرنا بالاجماع کافی ہے اور وہ بخاست کو بالخل ختم نہیں کرتا۔  
 اور درهم کا اندازہ حضرت عمر وعلی وابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے  
 چونکہ اس میں رائے کا دخل نہیں اس لیے سماع پر محظوظ ہوگا۔ اور حلبة  
 میں ہے کہ درهم کا اندازہ الطبور کنایہ ہے درسے جیسے کہ ابراہیم نجاشی فرماتے  
 میں کہ لوگوں نے اپنی مجالس میں مقاعد کا ذکر برا سمجھا تو کنایۃ درهم سے

تبییر کیا۔ اور اسی کی تائید کرتا ہے جو مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ سے جب قلیل نجاست کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا حب میرے ناخن کے مثل ہو تو نماز کے جواز کو منع نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ناخن ہماری ہتھیلی رکے مقرر) کے برابر تھا۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ قدر درہم صحابہ سے مردہ ہے۔ ولله الحمد۔

اعتراف نجاست خفیف ہوا اور اس سے کپڑا بخس ہو گیا ہو۔ اگرچہ تھے حصہ سے کم ہو تو اس کو ہم کرناز پڑھنا چاہئے۔ امام ابو حنیف کا سلک یہی ہے۔

جواب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاست مغلظہ وہ ہے جس کی نجاست میں لفظ وارد ہو اور اس کے معاون کوئی لفظ نہ ہو۔ نجاست مخفف وہ ہے جس کے معاونہ میں کوئی لفظ نہ ہو۔  
علامہ شافعی ص ۲۳۲ ج اقل میں فرماتے ہیں:

اعلم ان المغلظ من المغاسة عنه الامام ما ورد فيه  
لفظ لم يعارض بلفظ اخر فان عورض بلفظ اخر فمحفف  
كبول ما يوثكل لحمة

جانبیہ کہ جس میں لفظ بلا معاونہ وارد ہو وہ نجاست مغلظہ ہے۔ اور جس میں دوسری لفظ معارض ہو وہ مخفف ہے جیسے حلال جانوروں کا بول۔

علامہ طحطاوی حاشیہ مراقب الفلاح ص ۸۰ میں فرماتے ہیں:  
ان الامام رضى الله عنه قال ما توافت على نجاست الادلة

## فمغلظ سواه اختلاف فیہ العلما و کان فیہ بلوی ام لا لا فهو مخفف

امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی نجاست پر اول متفق ہوں وہ مغلظ ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہو یا نہ ہو اور عکوم بلوی ہو یا نہ ہو اور جس چیز کی نجاست پر دلائل متفق نہیں وہ مخفف ہے۔

معلوم ہوا کہ امام صاحب کے نزد مکیں نجاست خفیف وہ ہے جس کی نجاست اور طہارت میں دلائل کا تعارض ہو۔ لیعنی بعض دلائل سے اس شے کا جس ہونا ثابت ہوتا ہے اور بعض سے پاک ہونا۔

### چند مثالیں

حلال جانوروں کے بول کا بعض روایات سے پاک ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ حدیث عربین حن کو حسنور نے اونٹ کا بول پینی کی اجازت فرمائی اور حدیث حسن بصری جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمعن سے روکنے کا ارادہ کیا تو ابی ابن کعب نے فرمایا لیس ذالک لک کہ تمہیں روکنے کا حق نہیں۔ کیوں کہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمعن کیا۔

حضرت عمر نے جوہ کے حلقوں سے منع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے کہ وہ بول را کوں (اللحم) سے رنگے جاتے تھے تو ابی ابن کعب نے فرمایا،

لیس ذالک لک قد لسیمَنَ النبی ولبسناهن فی عهده  
کہ اس کے روکنے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ ان حلقوں کو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے پہنا اور آپ کے عہد مبارک میں ہم نے بھی پہنا۔

اس حدیث کو امام احمد نے مسند ابی ابن کعب میں روایت کیا۔ نیز حدیث جابر برادر محبی اللہ عنہا

کے مطابق جلال جانوروں کے بول میں کوئی مصلحت نہیں۔ لیکن بعض روایات سے ناپاک ثابت ہوتا ہے۔

چونکہ مجتہد (امام اعظم) کی نظر میں اختلاف اور تعارض کے باعث ایقان حاصل نہ ہوا۔ اس لیے آپ نے اس کو بحاست خفیفہ فرمایا اور بحاست خفیفہ کے ساتھ بھی نماز پڑھنا مکروہ فرمایا۔ اگرچہ رباع سے کم ہو۔

ابن بحام فتح القدر صراحت میں فرماتے ہیں :

والصلة مكرهة مع مالا يمنع

کہ (جس قدر بحاست معاف ہے) اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے بلکہ زیادہ لگ جانے سے تو امام اعظم اعادہ نماز کا حکم فرماتے ہیں۔

چنانچہ آثار امام محمد صہبہ میں ہے :

وكان ابوحنيفة يكرهه وكان يقول اذا وقع في وضوء  
افسد الوضوء وان اصاب الثوب منه شيء ثم صلي فيه  
اعاد الصلة .

امام ابوحنیفہ (ابوالبہائم) کو مکروہ گردانتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر وضو کے پانی میں (بہائم کے بول میں سے کچھ) کر جائے تو وضو کو فاسد کر دے گا۔ اگر اس میں سے زیادہ کچھ سے کچھ اور کوئی شخص اس میں نماز پڑھے تو چاہتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے۔

معلوم ہوا کہ جس خفیف حب کے زیادہ لگ جائے تو امام صاحب کے نزدیک نماز دہرانا، صروری ہے۔ اور بہت کا اندازہ رباع یا بدین کے اس حصہ کا ہے جس کو بحاست لگی ہے۔ اگر آستین کو لگی ہے تو آستین کا رباع، دامن پر ہے تو دامن کا رباع مراد ہے۔ اور اسی پر اکثر مشائخ علیہم الرحمہ کا فتویٰ ہے۔ علامہ شافعی نے تحفہ محیط مجتبی اور سراج سے

اسی کی لیچھی نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ ”دھنیقت اسی پر فتویٰ ہے۔“ معلوم ہوا کہ رب  
کل کپڑے کامرا دنہیں۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ رب اس جسے کامرا دے ہے جس پر بخاست  
خفیف لگی ہے۔ چونکہ چوتھائی کو بعض احکام میں کل کا حکم ہے۔ اس لیے کپڑے یا بدلت  
کے چوتھائی کو حضرت امام صاحب نے کل کا حکم دیا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایسی نجاست جس پر نصوص متفق نہیں، اگر کپڑے پر کپڑے کے اس حصہ کی چونکاٹی سے کم لگے تو نماز میں معلوم ہو جانے پر نماز کو اس صورت میں توڑا جائے گا۔ حب کہ فوت جماعت یا فوت وقت کا حذف ہو گا۔ اندر میں صورت کپڑے کو دھوکر دوبارہ نماز ادا کی جائے گی۔ اگر اسی کپڑے سے نماز ادا کی گئی تو مسکرہ ہو گی۔ مگر ادا ہو جائے گی۔ اور وہ بھی اس تقدیر پر کہ دوسرا جلد طاہر میسر نہ ہو۔

رسالة بحثية في علم الاجتماع

اب فرمائیے کہ اس مسئلہ پر کیا اعتراض ہے؟ اور کس آئیت یا حدیث کے برعکاف  
بے؟ وہابیوں کے نزدیک اگر سالا کپڑا بخاستِ خفیہ سے تھا تو بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ  
ان کے نزدیک تو نہ صرف حلال چانوروں کا ملکہ حرام چانوروں کا بول بھی پاک ہے۔ چنانچہ  
وجہ الزمان نزل الابرار حلبہ اول ص ۳۹ میں لکھتا ہے:

وكذا كل الخمر ويلول ما يوكل لحمه وما لا يوكل لحمه  
من الحيوانات -

اور اسی طرح شراب، حلال حیوانات اور حرام حیوانات کا بول بھی پاک ہے  
نہ کافی اور بہبیہ میں لکھا ہے:

فیما عدا ذالک خلاف والاصل الطهارة  
رالان کے پاخانہ اور بول، کٹتے کے لعاب، لید، خون، ہمیض اور خنزیر کے گوشت (کے ماسوا رکے غبیں ہونے میں) اختلاف ہے اور اصل طہارت ہے۔

محی الدین غیر مقلد لاہوری نے بلاغ المبین کے صدر ۳۲ میں لکھا ہے،  
کہا بخاری نے کہ اخضت نے آدمیوں کے پشاپ کے سوا کسی چیز کے دعوے  
کا حکم نہیں دیا۔

اسی طرح صدیق حسن نے بھی لکھا ہے:

پس جب معترض کے اکابر کے ہاں حلال اور حرام جائز و کابول پاک ہے  
اور پاک شے سے اگر سارا کپڑا بھیگا ہوا ہو تو بھی نماز کامانع نہیں۔ پھر وہ کس منز کے  
سامنے امام انظم کے سند پر اعتراض کر رہا ہے؟

ان کے نزدیک تو بجاست غلیظ سے بھی کپڑا اگر ترہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے چنانچہ صحیح بخاری  
میں تعلیقاً آیا ہے کہ غزوہ ذات الرفاع میں ایک شخص کو تیر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ اسی  
حالت میں وہ نماز پڑھتا رہا۔ خون کا جاری ہونا، ظاہر ہے کہ کپڑے اور بدن کو ترکر دیتا  
ہے۔ خون بجاست غلیظ ہے۔ اس کے باوجود ایک صحابی کا نماز پڑھتے رہنا ثابت  
ہوا اور وہ بھی صحیح بخاری سے۔ پھر امام صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ تو شرم چاہئے،  
افسوس کہ معترض کو پہنچ کا شہیر نظر نہ آیا لیکن دوسروں کے تنکے کو پہنچ سمجھ رہا ہے۔

اعتراض حرام پرندوں کی بیٹ کپڑے پر اگر متصلی کی چوڑائی سے بھی زیادہ لگی ہوئی  
ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔

جواب حرام جائز و کابول کی بیٹ امام صاحب کے نزدیک بجاست محفوظ ہے  
اس یے قدر درمیں سے زیادہ لگ جانے پر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر معترض کے پاس  
اس کے مغلظ ہونے اور اس کے لگ جانے سے نماز ناجائز ہونے کی دلیل ہے تو پیش  
کرے۔ اگر نہیں اور لقیناً نہیں تو آئندہ مجتہدین پر بے جا طعن سے توبہ لازم ہے۔

ئئے افہما علیہم الرحمنے اکیں اصول لکھا ہے جو قرآن و حدیث سے مستبط ہے۔ وہ یہ ہے المشقة تجلب التيسیر کہ مشقت آسانی کو کھینچتی ہے۔ یعنی تکلیف اور مشقت کے وقت شرعاً تخفیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یوید اللہ بکو الیسر ولا یوید العسر  
اللہ تکہ ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے تلگی کا نہیں  
اور فرمایا:

ما جعل عليکم في الدین مع حرج  
یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تلگی نہیں کی  
حدیث پاک میں ہے:

احب الدین الى الله الحنیفة المسعدہ (رواه بخاری تعلیقاً)  
اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین، سہولت پر مبنی دین حنیف ہے۔  
اور بخاری شریف میں مرغعاً آیا ہے جنور علیہ السلام نے فرمایا:  
الدین یُسْرٌ " دین آسان ہے"

حافظ ابن حجر فتح الباری پر میں لکھتے ہیں:  
وقد یسفاد من هذه الاشارة الى الاخذ بالرخصة الشرعية  
اس حدیث میں یہ اشارہ مستفاد ہے کہ رخصت شرعیہ پر عمل کرنا درست  
اس شاہ و النطائر کے ص ۹۴ میں لکھا ہے:  
کعبادات میں اسباب تخفیف سات میں سفر، مرض، خبر، نسیان  
جبل، عسر اور علوم بلوے،  
صلوم ہوا کہ علوم بلوی اور عسر بھی اسباب تخفیف میں سے ہیں۔ اس کی مثال میں صاحب  
اس شاہ و النطائر فرماتے ہیں:

کا الصلوٰۃ مع البجاست المغفو عنها کما دون ربع الثوب  
من مخففة و قدر الدرهم من المغلظة  
جیسے نماز اس بجاست کے ساتھ جو حجاج ہے۔ یعنی بجاست مخففة  
سے ربع ثوب سے کم اور بجاست مغلظے سے قدر درهم کے ساتھ۔

اعتراض ایک شخص عربی میں اچھی طرح پڑھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود  
قرآن شریف کے بعد فارسی میں معنی پڑھنا ہے۔ قرآن شریف نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر  
کے بدلتے بھی اس کا ترجیح فارسی میں پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کی نماز جائز ہے۔

جواب افسوس کہ معتبرین کو تھب نے انداز کر دیا کہ اس کو ہدایہ شریف کی  
یہ عبارت نظر نہ آئی جو اس کے آگے لکھی ہے:  
بیروی رجوعہ فی اصل المسئلۃ الی قولہما وعلیہ  
الاعتماد ( ہدایہ ص ۸۶ )

امام اعظم کا اس مسئلہ میں صاحبین کے قول کی جانب رجوع مروی ہے  
اور اسی پر اعتماد ( فتویٰ ) ہے۔

درخواست میں بھی اسی پر فتویٰ لکھا ہوا ہے۔

پس جب مسئلہ میں امام صاحب کا رجوع ثابت ہے اور فقہاء نے تصریح بھی  
کی اور فقہاء کا اس پر فتویٰ بھی نہ ہواں کو ذکر کر کے طعن کرنا، تھب نہیں تو اور کیا ہے؟  
جب خود صاحب ہدایہ نے اور ویگیر فقہاء علیہم الرحمہ نے تصریح فرمادی کہ قرآن کے  
معنی ہی نماز میں پڑھنے سے نماز جائز نہیں۔ امام صاحب نے اپنے پہلے قول جواز  
سے رجوع فرمایا ہے۔ تو اب قول مرجوع عنہ کو پیش کر کے طعن کرنا وہا بیہی کا خالص

ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خنداد تعصیب سے بچائے۔ آئین۔

اعتراض امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ  
نہ پڑھے۔ صرف پہلی رکعت میں پڑھے۔

جواب یہاں بھی مترضی نے دیانت سے کام نہیں لیا۔ اسی سطر میں صاحب  
ہدایہ فرماتے ہیں:

وعنه انه يأتي بها احتياطاً وهو قولهما (هدایہ ص۳)

امام اعظم سے روایت ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے احتیاطاً  
بسم اللہ پڑھے اور یہ قول امام ابویوسف و امام محمد کا ہے۔

وہ روایت جس کو نقل کر کے مترضی نے اعتراض کیا ہے۔ اگر اسے کتب فقہ پر نظر ہوئی  
تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس روایت کو فقہائی صحیح نہیں ہانا۔

چنانچہ بحر الرائق جلد اول ص ۲۳۳ میں ہے:

قول من قال لا ينسى الاقراعة الاولى قول غير صحيح

بل قال الزاهدی انه غلط على اصحابنا غلط فاحشًا.

یہ قول کہ صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھی جائے، غلط ہے زائد ہی  
فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (امم) کے ہاں یہ غلط فاحش ہے

اعتراض سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر دوسری سورہ نماز میں پڑھے تو اس سے  
پہلے بسم اللہ نہ پڑھے۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورۃ کے درمیان بسم اللہ پڑھنا

مسلمون نہیں۔ بحیر الرائق میں تصریح ہے،

فلا تسن التسمیة بین الفاتحة والسورۃ  
فاتحة اور سورۃ کے درمیان بسم اللہ پڑھنا مسنوں نہیں  
یہ نہیں کہ پڑھنا بھی جائز نہیں یا اس کا پڑھنا مکروہ ہے بلکہ بحیر الرائق ص ۳۱۲ میں ہے:  
اما عدم الكراحت فمتفق عليه ولهذا صرح في الذخیرۃ  
والمحبتي بان سعی بین الفاتحة والسورۃ كان حسناً  
عند ابی حنیفة۔

ذخیرہ اور محبتوں میں تصریح ہے کہ اگر فاتحة اور سورت کے درمیان بسم اللہ  
پڑھے تو امام صاحب کے نزدیک اچھا ہے۔  
محقق ابن ہمام نے اسی کو ترجیح دی اور علامہ شامی نے بھی یہی لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ  
امام اعظم کے نزدیک فاتحة اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے البتہ مسنوں نہیں  
ہماری کی عبارت سے یہی مراد ہے۔  
ہاں اگر مفترض اس کو مسنوں سمجھتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس  
موقع پر بسم اللہ علی الدوام پڑھنا ثابت کرے۔

اعتراض رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ہجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع  
و سجده میں آرام کرنا فرض نہیں۔

جواب بے شک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور روایت میں یہ تینوں امور  
فرض نہیں لیکن سُنت بلکہ واجب حضور میں، قومہ، جلسہ کے تارک اور رکوع و سجود میں  
آرام کے تارک کی نماز مکروہ تحریر یہ تو ہے جس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ہدایت شریف

میں صاف تصریح ہے کہ قومہ، جلسہ امام اعظم اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک سنت ہے  
اسی طرح رکوع سجدہ میں آرام کرنا تحریج جرجانی میں سنت اور تحریج کوئی میں واجب ہے  
چنانچہ فرمایا:

شـرـ الـقـوـمـةـ وـ الـجـلـسـةـ سـنـةـ عـنـدـهـمـاـ وـ كـذـاـ الطـاـنـيـةـ

فـيـ تـحـرـيـجـ الـجـرـجـانـيـ وـ فـيـ تـحـرـيـجـ الـكـرـنـيـ وـاحـبـةـ.

اگر مفترض صاحب الصاف ہوتا تو صاف لکھ دیتا کہ قومہ جلسہ وطنیت امام  
صاحب کے نزدیک فرض نہیں لیکن سنت بلکہ واجب ہے۔ پھر امام صاحب کے قول  
سنت یا واجب کے خلاف اگر دلیل رکھتا تو پیش کرتا۔ یہ تو نہ کر سکا البتہ یہ کہدیا کہ امام  
صاحب کہتے ہیں کہ، فرض نہیں، مفترض کو اگر کتب فقہ میں نظر ہوتی تو اسے معلوم ہو جاتا  
کہ قومہ، جلسہ وطنیت کے واجب کا قول ہی حقیقی مذهب میں صحیح ہے چنانچہ تعديل اکان  
کو صاحب کمزوج غیرہ نے واجبات میں شامل کیا ہے۔

بـحـرـ الـأـنـقـ حـلـدـ أـوـلـ صـ ۲۹۹ـ مـیـںـ ہـےـ :

هـوـ تـسـكـينـ الـجـوـارـحـ فـيـ الرـكـوعـ وـالـسـجـودـ حـتـىـ تـطـمـئـنـ.

مـفـاصـلـهـ وـادـنـاـهـ مـقـدـارـ تـسـبـيـحـ وـهـوـ وـاجـبـ عـلـىـ تـخـرـيـجـ

الـكـرـنـيـ وـهـوـ الصـحـيـحـ.

رکوع سجدہ میں اعضا کا آرام پکڑنا یہاں تک کہ اس کے جو آرام پکڑیں  
اور ادنی اس کا ایک تسبیح ہے یہ کوئی کی تحریج کے مطابق واجب  
ہے اور یہی صحیح ہے۔

پھر آگے فرمایا:

وـالـذـىـ نـقـلـهـ الـجـمـ الغـفـرـانـهـ وـاجـبـ عـنـدـ اـبـىـ حـنـیـفـةـ وـمـحـمـدـ

وـهـ جـوـ اـكـثـرـ لـوـگـوـںـ نـقـلـ کـیـاـ ہـےـ یـہـیـ ہـےـ کـہـ تعـدـیـلـ اـرـکـانـ اـمـامـ صـاحـبـ

اور امام محمد کے نزدیک واجب ہے۔  
پھر آگے فرماتے ہیں:

والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه  
ابن امير حاج حتى قال انه الصواب -

قومہ، جلسہ و طائیت کے وجوب کا قول ہی ابن ہمام کا پسندیدہ ہے  
اور اس کے شاگرد ابن امیر حاج کو بھی یہی پسند ہے۔ حتیٰ کہ اس نے  
کہا "یہی صواب ہے"

علامہ شامی نے بھی اسی کو تبریز حجج دی ہے۔ کہ امام صاحب کے نزدیک رکوع کے  
بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور کیا اور میان بیٹھنا اور کوع و سجود میں آرام کرنا واجب ہے۔ اور  
واجب کے ترک سے نماز مکروہ تحریمیہ ہوتی ہے جس کا اعادہ واجب ہے۔

پس اتنے صاف اور واضح مسئلہ پر اعتراض کرنا، تعصیب نہیں تو اور کیا ہے؟  
اس مفترض کا مقصد ہے کہ عوام کو مغالطہ میں ڈالا جائے۔ جب یہ لکھا جائے کہ قومہ  
جلسہ و طائیت امام صاحب کے نزدیک فرض نہیں تو عوام یہی سمجھیں گے کہ امام  
صاحب کے نزدیک قومہ، جلسہ اور آرام فی الرکوع والسجود کے ترک سے نماز میں کوئی  
نقص نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ امام صاحب اسی نماز کو جس میں قومہ، جلسہ  
نہ ہو، دوبارہ پڑھنا واجب فرماتے ہیں۔

اعتراض اگر سجدہ میں ناک زمین پر لگائی اور پشاں فی ن لگائی یا پشاں فی تو لگائی، ناک  
ن لگائی تو بھی نماز جائز ہے۔

جواب مسکوہ مکروہ تحریمیہ ہے۔ امام عظیم، امام یوسف اور امام محمد سب کے نزدیک

سجدہ میں مسلمان طریقہ سی ہے کہ پیشانی اور ناک دلوں زمین پر لگانے۔ اگر صرف پیشانی لگانے تو نماز مکروہ ہوگی اگر صرف ناک لگائے تو امام صاحب کی ایک روایت میں جائز ہے مگر مکروہ تحریک یہ اور صاحبین جائز نہیں کہتے۔ شرح و قایم میں اسی قول پر فتویٰ لکھا ہے کہ جائز نہیں۔ بلکہ شیخ عبدالجعیل نے عمدۃ الرعایۃ میں، بہان شرح مواسیب الرحمن، مرافق الفلاح اور مقدمة غزنویہ سے نقل کیا ہے کہ امام عظیم نے اس مستدر میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے۔ ذرخوار میں ہے کہ:

وَكُرْهُ اقْتِصَادٍ فِي السُّجُودِ عَلَى أَحَدِهَا وَمِنْعًا لِالْأَكْتِفَاءِ  
بِالْأَنْفِ بِلَا عذرٍ وَالِيهِ صَحِحَ رجُوعُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى  
سجدہ میں صرف ناک یا پیشانی پر اکتفاء مکروہ ہے اور صاحبین نے ناک پر بلا  
عذر اکتفاء مکروہ فرمایا ہے۔ امام عظیم کا رجوع اسی طرف صحیح ہوا ہے  
اور اسی پر فتویٰ ہے۔  
علامہ شامی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

پس اس حالت میں کہ فقہاء علیہم الرحمۃ نے تصریح کی ہے کہ سجدہ میں صرف ناک یا صرف پیشانی بلا عذر لگانا مکروہ تحریک یہ ہے جس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنا تھسب یا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

## اعتراف اندھے کو امام بنانا مکروہ ہے۔

**جواب** ہماری شریعت میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہ نابیناٹی کے باعث کپڑوں کو نجاست سے ہنسیں بچا سکتا۔ لیکن ذرخوار میں تصریح ہے کہ اگر نابینا قوم میں زیادہ علم والا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرافق الفلاح میں ہے،

و ان لمو يوجد افضل منه فنلا كراهه  
اگر اذن سے افضل کوئی نہ ہو تو اس کے پسچے نماز مکروہ ہے۔  
بتائیے! اس مسئلہ میں کیا اعتراض ہے؟

اعتراض تشبید کے بعد اگر جان بوجھ کر گوز مارے یا بات چیت کر لے تو  
اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔

جواب تمہارا یہ اعتراض ہمارے پر نہیں، امام اعظم پر نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کیونکہ اس مسئلہ کی سند حدیث میں موجود ہے۔  
افسوس کہ علماء میں غیر مقلدین یا قوادیدہ داشتہ عوام کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں یا ان کو کتب فقہ کی سمجھ رہے ہیں۔ یہی بے سمجھی ان کو اعتراض کرنے پر دلیر کرتی ہے۔ چنانچہ اسی اعتراض میں معتبر من نے یہ سمجھا ہے کہ ہوانکمال دینا فقہاء کے نزدیک سلام کے قائم مقام ہے۔ لغو بِاللَّهِ مِنْ سُوَءِ الْفَهْمِ۔ ہرگز نہیں۔ اگر قصدا ایسا کرے تو گناہ گار ہے اور اس کی نماز مکروہ تحریک ہے کا دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے سلام کہ کر نماز سے باہر آنماختا۔ اور یہ سلام اس پر واجب تھا۔ چونکہ اس نے واجب سلام کو ترک کیا اس لیے گناہ گار سمجھی ہوا اور نماز کا اعادہ سمجھی لازم ہوا۔ یہ خیال کر حنفیہ ایسی نمازوں کو بلا کر اہب تحریکی جائز کہتے ہیں یا اس فعل کو جائز رکھتے ہیں، صریح افترا ہے۔ نواب صدیق حسن نے کشف الاقتباس میں اس اعتراض کو خوب رد کیا ہے۔ غیر مقلدین اپنے بزرگ کی اس کتاب میں اس اعتراض کا جواب دیکھ کر معتبر من کے علم اور تصریب کا اندازہ کریں کہ ہوانکمال نے کو سلام کے قائم مقام سمجھنے میں کس قدر فقاہت سے بے نصیب ہے۔

اب نہیں؟ وہ حدیث جس کامیں نے پہلے ذکر کیا تھا۔  
اب داؤد، ترمذی اور طحاوی نے روایت کیا ہے:

جس وقت امام قده میں بیٹھ گیا اور سلام سے پہلے اس نے حدث کی  
تو حضور علیہ السلام فرماتے میں کہ اس کی اور جو لوگ اس کے پیچے  
تھے سب کی نماز پوری ہو گئی۔

علامہ علی قاری نے اپنے رسالہ تصحیح الفقہاء الحنفیہ میں کتنی حدیثیں اس بارہ میں  
لکھی ہیں۔ جو دیکھنا چاہتے وہ سعدۃ الرعایۃ مشرح و قایم کا ص ۵۱ دیکھ لے۔  
اب معرض اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے  
اور حضور علیہ السلام پر اعتراض بھی۔

اعتراض کسی غریب سکین شخص کو زکوٰۃ کے مال میں سے دوسو درہم (چاپیں؟)  
یا اس سے زیادہ دینا مکروہ ہے۔

جواب اس کے آگے ہدایہ شریعت کی عبارت کیوں نہیں نظر آئی؟ واندفع جاز  
کہ دوسو درہم یا اس سے زیادہ دے دے تو جائز ہے۔ اور کہا مہت بھی اس صورت میں ہے  
کہ وہ مسکین قرض دار اور صاحب عیال نہ ہو۔ اگر قرض دار ہو یا صاحب عیال ہو تو دو سو  
درہم یا اس سے زیادہ دینا کوئی مکروہ نہیں۔ چنانچہ شرح و قایم اور اس کے حاشیہ میں  
اس کی تصریح موجود ہے۔

اعتراض مشت نفی سے روزہ نہیں ٹوٹا جنکی مذہب کے فقہائی یہی لکھا ہے۔  
جواب معرض نے اگر کتب فقہ کی اُستاد سے پڑھی ہوتیں تو اسے معلوم ہوتا

کہ صاحب بہایہ حب لفظ 'قالوا' کہتا ہے تو اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی  
صاحب بہایہ نے 'علی ما قالوا' کہا ہے۔

شیخ عبدالحی مقدمہ عمدۃ الرعایۃ کے مرہ ۱ میں فرماتے ہیں:

لفظ قالوا یستعمل نیما فیه اختلاف المشائخ کذافی النهاية  
فی کتاب الغصب و فی العناية و البناية فی باب ما یفسد الصلة  
و ذکر ابن الہمام فی فتح القدير فی باب ما یوجب القضاء  
والکفارۃ من کتاب الصوم ان عادتہ ای صاحب الہدایة  
فی مثل افادۃ الضعف مع الخلاف انھما و کذا ذکرہ  
سعد الدین التفتازانی ان فی لفظ قالوا اشارۃ الى  
ضعف ما قالوا -

لفظ 'قالوا'، وہاں بولتے ہیں جہاں مشائخ کا اختلاف ہو۔ نہایہ  
کے کتاب الغصب اور العناية و البنایۃ کے باب ما یفسد الصلة  
میں الیسا ہی لکھا ہے۔ ابن الہمام فتح القدير میں فرماتے ہیں کہ  
صاحب بہایۃ کی عادت اس لفظ کے مثل سے ضعف مع الخلاف  
کا افادہ ہے یعنی جہاں اختلاف ہو تو ضعیف قول پر صاحب بہایہ  
لفظ 'قالوا' بولتے ہیں۔ اسی طرح سعد الدین تفتازانی نے  
کہا ہے کہ لفظ 'قالوا' میں ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔  
بہایہ شریف کے حاشیہ پر لکھا ہے:

قوله علی ما قالوا عادتہ فی مثلہ افادہ الضعف مع  
الخلاف و عامۃ المشائخ علی ان الاستیمناء مضطرب  
وقال المصنف فی التجنیس انه المختار

صاحب بدایہ کی عادت ہے کہ قالوا اور اس کی مثل بول کر صنعت مع  
الخلاف کا فائدہ تبلیغ میں اور اکثر مشائخ اس طرف میں کر مشت زنی سے  
روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود صاحب بدایہ نے تجھیں میں اسی کو مختار  
فرمایا ہے۔

معلوم ہوا کہ صاحب بدایہ نے لفظ 'قالوا' سے اس قول کے صنعت کی طرف  
اشارة کیا ہے جس قول کو خود مصنف ضعیف کہے اس کو محل طعن بنانا وہابیوں ہی  
کا وظیرہ ہے۔

فتاوی عالمگیری ص ۴۳۱ میں ہے:

الصائم اذا عالج ذكره حتى امنى عليه القضاء وهو  
المختار و به قال عامتہ المشائخ -

روزہ دار نے اگر مشت زنی کی اور منی نکل آئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے،  
اور اس پر قضا لازم ہے یہی محابرے اور عامتہ المشائخ اسی پر میں۔

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ معرض نے کم علمی یا تعصب کی بنیاد پر احناف کے خلاف  
فقہ پروردی کی ہے۔ مفترض کو واضح ہو کر مشت زنی کو وہابیوں نے جائز لکھا ہے۔ دیکھو  
عرف المغاری۔

اعتراض پاغانے کی جگہ وطی کرنے سے کفارہ واجب ہنیں ہوتا۔ امام ابوحنیفہ  
کا فتویٰ یہی ہے۔

جواب کاش معرض تھوڑا سا آگے پڑھتا تو اس کو مل جاتا:  
وَالْأَصْحَاحُ أَنَّهَا تَقْبَلُ " اور اصح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ "

لیکن مفترض کے ضمیر نے یہی حکم دیا کہ آگے کا جملہ سہم کر جاؤ۔ کون ہدایت شریعت دیکھے گا؟ اور کون اس خیانت کو معلوم کرے گا؟ کئی عقل کے اندر یہی بھی توہول گے جو اصل کتاب کو دیکھنا ہی پسند کریں گے اور بات بن جائے گی۔ لیکن اس عدم وجوب کفارہ سے یہ سمجھنا کہ حنفیہ کے نزدیک ایسا کرننا جائز ہے، سراسرا فقراء ہے۔

**اعتراض** مردہ عورت یا چوپائے سے بد فعلی کرنے سے روزہ کافارہ نہیں آتا۔  
اگرچہ دل کھول کر کیا ہو یہاں تک کہ انزال بھی ہو گیا ہو۔

**جواب** بتاؤ یہ مسئلہ کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے؟ چونکہ حدیث شریعت میں ایسے شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں آیا۔ اس لیے حضرات فقہا علیہم الرحمۃ نے کفارہ نہیں فرمایا۔

کفارہ ایسے جماع میں ہے جو محل مشتبہ میں ہو۔ مردہ عورت یا ہبہ میں چونکہ محل مشتبہ نہیں اس لیے کفارہ بھی نہیں۔ اگر مفترض کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو بیان کرے ورنہ ائمہ پربلے دلیل طعن بازی سے باز رہے۔

اس سے کوئی کم فہم یہ نہ سمجھ لے کہ حنفیہ کے نزدیک مردہ عورت یا چوپائے سے وظی کرنا جائز ہے۔ معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ یہاں تصرف اس قدر ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی خاللت میں ایسا کرتے ہیں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائیگا لیکن کفارہ نہیں کہ حقیقتاً جماع پایا نہیں گیا۔ اس فعل کی سزا ہدایت میں دوسرے مقام پر بیان کی گئی ہے۔

**اعتراض** شرمنگاہ کے سوا کسی اور جگہ جماع کیا اور انزال بھی ہوا پھر بھی روزہ کافارہ لازم نہیں ہوگا۔

## جواب

فرمایے! یہ سن لے کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو اپنے کسی بڑے محدث سے دیافت کر کے دیکھئے کہ فلاں حدیث میں تو اپنے شخص کے حق میں کفارہ آیا ہے۔ اگر ایسا نہ دکھا سکو اور ہرگز نہ دکھا سکو گے تو دوزخ کی آگ سے ڈرو۔ تمہارے ہاں توبغیراز جماع کفارہ ہی نہیں دیکھو نزل الابرار ص ۲۱۰ وہ لکھتا ہے کہ ”ماہ رمضان میں رونی کھانے اور پانی پینے میں بھی کفارہ نہیں“ اب بتاؤ کہ کس منہ سے خلص پر اعتراض کرتے ہو؟

**اعتراض :** قربانی کے جانور کا اشعار کرنا مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہی ہے۔

**جواب :** امام اعظم نے مطلقاً مکروہ نہیں فرمایا بلکہ اپنے زمانے کے لوگوں کا اشعار مکروہ فرمایا کہ وہ اشعار میں مبالغہ کرتے تھے۔ امام صاحب کے نزدیک اس میں مبالغہ مکروہ ہے نہ کہ اشعار کما ذکرہ الطحطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہدایہ شریف میں اس امر کی تصریح موجود ہے مگر افسوس کہ مفترض کو تعصب کے سبب نظر نہ آیا۔ چنانچہ صاحب ہدایہ لکھتا ہے:

قیل ان ابا حنیفة کرہ اشعار اهل زمانہ مبالغہ مفہومیہ

علی وجہ بخات منه السراۃ

شیخ عبدالحقی نے حاشیہ ہدایہ میں اسی کو اولیٰ و احسن فرمایا ہے  
علام علینی شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

والبوجنیفت رضی اللہ عنہ ما کرہ اصل الاشعار و کیف

یکرہ ذلك مع ما استتمر فیہ من الاثار

البوجنیفت رضی اللہ عنہ اصل اشعار کو مکروہ نہیں فرمایا اور کسے مکروہ

کہہ سکتے تھے؟ جب کہ آثار مشہورہ اس میں ثابت ہیں۔

قال الطھطاوی و انساکرہ ابوحنیفہ اشعار اہل زمانہ  
لاند رأہم نیستقصون فی ذالک علی وجہ مخاف منه هلاک  
البدن، لسلیت خصوصاً فی حرالحجاز  
امام طھطاوی فرماتے ہیں کہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اشعار  
کو مکروہ فرمایا اس لیے کہ ان کو اس طور پر اشعار کرتے دیکھا جس سے  
جاگور کی ہلاکت کا خوف تھا خصوصاً حجاز کی گرمی کے جسم میں سراست کر  
جانے کے سبب۔

پس جو اشعار مسئلول ہے وہ صرف کھال کا کانٹا ہے۔ اس کو امام صاحب نے  
مکروہ ہئیں کہا۔

اعتراض کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوپ لیا اور اس کی شرمنگاہ  
کو دیکھ لیا یا اس عورت نے مرد کی شرمنگاہ کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تو اس عورت  
کی مال اور بیٹی اس مرد پر حرام ہو گئی۔

جواب اگر کسی کے پاس اس کے بخلاف کوئی آیت یا حدیث ہے تو دکھائے ورنہ  
اعتراض واپس لے۔

اب سعینے اکہ میں نہ صرف امام اعظم کا ہے بلکہ صحیح مسلم میں حضور کا فرمان  
و احتتجی منہ یا سودہ، اس کی تائید کرتا ہے۔  
جو اہر النبی جلد ۲ ص ۸۲ میں بحوالہ ابن حزم لکھا ہے:

حضرت عبد اللہ بن عباس نے ایک مرد اور عورت کو جدا کر دیا جب یہ  
معلوم ہوا کہ اس مرد نے عورت کی مال کے ساتھ ناجائز حرکت کی۔ حالانکہ

اس مرد کے اس عورت کے بطن سے سات پچھے بھی پیدا ہو چکے تھے۔

معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہی ذہب تھا جو فقہا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے  
اسی طرح سعید بن المیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عروہ بن زیر نے فرمایا ہے کہ جو شخص  
کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کرو، اس کی بیٹی کے ساتھ  
نکاح کرے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ ابن میب اور حسن سے  
روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے درست  
نہیں کہ اس عورت کی ماں یا بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔

اسی طرح عبد الرزاق نے مصنف میں عثمان بن سعید سے اس نے قادہ سے اس نے  
عمران بن حصین سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے اپنی عورت کی ماں سے  
زن کیا اس پر دلوں رماں، بیٹی حرام ہو گئیں۔

اسی طرح عطان نے فرمایا ہے۔ اسی طرح طاؤس و قادہ نے فرمایا ہے۔ یہی امام نجی  
کا ذہب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں:

اذا قبلها اوطسها او نظر الی فرجها من شهوة حرمت عليه

امها و بنتها (جوہر النقی ص ۸۵)

جب کسی عورت کا بوس لے یا ہاتھ لگاتے یا اس کی شرمنگاہ کو شہوت کے  
ساتھ دیکھے تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہو جاتی ہیں۔

وعن ابن عمر قال اذا جامع الرجل المرأة وقبلها اوطسها  
بشهوة او نظر الی فرجها بشهوة حرمت على ابيه وابنه  
وحرمت عليه امها و بنتها (فتح القدير نولکشور ج ۲ ص ۱۲۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب  
کوئی مرد کسی عورت سے جماع کرے اور اس کا بوس لے باس کو شہوت کے

ساتھ ہاتھ لگائے یا اس کی شرمنگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھئے تو اس کے باپ اور بیٹے پر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس عورت کی ماں اور بیٹی اس رد پر حرام ہو جاتی ہے۔

اعتراف اگر رحمپونے سے ازالہ ہو جائے تو حرمت ثابت نہ ہوگی اسی طرح عورت سے پاخانہ کی جگہ وطی کی توجیح حرمت ثابت نہ ہوگی۔

جواب ہمایہ شریفین میں اس مسئلہ کو مدلل بیان کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ واطی اور موطوہ کے درمیان وطی سبب جزئیہ ہے یعنی وہ دونوں مثل ایک شخص کے ہو جلتے ہیں عورت کے والدین اور اولاد اس مرد کے والدین اور اولاد کی طرح ہو جاتے ہیں اور مرد کے والدین اور اولاد اس عورت کے والدین اور اولاد کی طرح ہو جاتے ہیں چاہے وطی حلال ہو یا حرام۔ پس جب طرح حلال وطی سے عورت کی ماں بیٹی حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ زنا کرے اس کی ماں بیٹی بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ سابقہ جواب میں اسی مسئلہ کے دلائل لکھے گئے ہیں۔

رسہی یہ بات کہ صرف مس اور زنگاہ شہوت سے حرمت مصاہرہ ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو صاحب ہمایہ فرماتے ہیں:

ان المس والنظر سبب داع الى الوطى في قيام مقامه  
في موضع الاحتياط۔

مس اور نظر وطی کی طرف بلانے والے میں اس لیے ان کو احتیاطاً وطی کے قائم مقام سمجھا گیا ہے۔ یعنی جو شخص مس و نظر بالشہوت کرے گا، وطی کی طرف راغب ہو گا اور وہ چاہے گا کہ

وطنی کروں اس لیے دواعی وطنی قائم مقام وطنی ہوئے۔ اور حرمت ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر مس کرتے ہی انزال ہو گیا تو حرمت معاہدہ ثابت نہ ہو گی اس کی وجہ بھی صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی ہے جو مفترض نے نقل ہنیں کی وہ فرماتے ہیں:

لأنه بالانزال تبين انه غير مفض الى الوطى (هدایہ ۲۸۹)

انزال ہو جانے سے ظاہر ہو گیا کہ مس وطنی کی طرف پہنچانے والا ہنیں کیونکہ انزال ہونے سے وہ وطنی سے بہت جائے گا۔ اصل باعث حرمت معاہدہ وطنی تھی مس بغیر انزال چونکہ مفض الى الوطى تھا اس لئے قائم مقام وطنی بھاگا گیا۔ اور مس بالانزال چونکہ مفض الى الوطى ہنیں اس لیے وطنی کے قائم مقام ہنیں۔

یہی مسئلہ ایمان فی الدبر کا ہے۔ اگر انزال ہو جائے تو چونکہ وہ مفض الى الوطى ہنیں موجب حرمت بھی ہنیں۔ اگر انزال نہ ہو تو موجب حرمت ہے۔

اعتراف ایک شخص نے اپنی بیوی کو بانی یارجی طلاق دے دی جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے وہ مرد اس کی بہن سے نکاح ہنیں کر سکتا۔

جواب بالکل صحیح ہے۔ کیوں جمع بین الاختیین ہے جو قرآن نے منع فرمایا گویہ جمع نکاح ہنیں لیکن عدۃ ضرور ہے۔ عدت میں اگرچہ مرد کا نکاح باقی ہنیں لیکن من وجر اس کا تعلق باقی رہتا ہے۔ ہماری نشریعت میں ہے:

ولنا ان النکاح الاولی قاسی لبقاء احکامہ کالنفقة و  
المدعى و الفراش۔

یعنی سپسے نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں جیسے نفقہ، منع اور فراش۔

تو من وجد ابھی نکاح باقی ہے اس لیے عدت کا خرچ مرد کے ذمہ ہے۔ عدت میں عورت کا مرد کے لگھ سے نکلنا منع ہے۔ اور وہ عورت نسب کے ثبوت کے لیے اسی مرد کا فراش ہوگی۔ یعنی اگر اکثر مدت حمل سے پہلے پہلے بجپے پیدا ہوا اور مرد انکار نہ کرے تو اسی کی نسب ثابت ہوگی۔

جب یہ ثابت ہوگیا کہ عورت معتدہ بائنسہ کا نکاح ابھی من وجد باقی ہے تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا مرد کو ناجائز ہو گا کیونکہ وہ جامع بین الاختیین ہو گا جس کی ممالکت لفظ میں آپکی ہے۔

علامہ ابن الہمام فتح القدر جلد دوم ص ۲۷۳ میں فرماتے ہیں:

وَبِقُولِنَا قَالَ أَحْمَدٌ وَهُوَ قُولُ عَلِيٍّ وَابْنُ مُسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرْ سَلِيمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسِيْبِ وَعَبِيْدَةَ السَّلَمَانِيِّ وَمَجَاهِدَ وَالثُّورَى وَالنَّخْعَى  
امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں اور یہی قول ہے حضرت علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا۔ سلیمان بن یسار نے ان سے ذکر کیا اور اسی کے قائل میں سعید بن مسیب، عبیدۃ السلمانی، مجاهد، ثوری اور نخعی۔  
اور نخعی۔  
پھر آگے فرماتے ہیں:

قَالَ عَبِيْدَةَ مَا اجْتَمَعَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ كَاجْتَمَاعِهِمْ عَلَى تَخْرِيمِ نِكَاحِ الْأَخْتِ فَ-

عدۃ الاخت۔

عبیدہ فرماتے ہیں کہ صحابہ صنی اللہ عنہم کا کسی شے پر ایسا اجماع نہیں ہوا جیسے کہ اسی بات پر کہ بہن کی عدت میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔

وَحِيدُ الزَّمَانِ بْنُ نَزْلِ الْأَبْرَارِ كَمْ صَدَّا مِنْ لَكَهَا هَذِهِ :

وَيَحْرِمُ الْجَمْعُ بِالنَّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ وَطْيَا يَمْلِكُ دَلْوَنِي عَدَةٌ  
مِنْ طَلاقِ بَائِنِ بَيْنِ الْأَخْتَيْنِ -

دولوں بہنوں کے ساتھ نکاح میں جمع کرنا، اگرچہ مطلقہ بائیں کی عدت  
میں ہو یا ملک بیین کو وطی میں جمع کرنا حرام ہے۔

پس جو مسئلہ قرآن کریم کی دلالت النص سے ثابت ہو، جس مسئلہ پر اجماع صحابہ متفق  
ہو، جو اکابر تابعین و تبع تابعین کا مذہب ہو اس پڑھنی کرنے کی جرأت وہاں ہی کر  
سکتا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ مفترض اس مسئلہ کے خلاف ایک حدیث بھی پیش نہ کر سکا۔

اعتراض کسی عورت کو زنا کرتے دیکھا اور اس سے نکاح کر لیا تو اس سے ہم بترا  
ہونا جائز ہے اور کچھ ضروری نہیں کہ ایک حین تک ٹھہرے۔

جواب اگر زنا کی عدت کسی حدیث میں آئی ہے تو بیان کرو۔ ودونہ خرطا القاد  
جب نکاح درست ہے تو جماع بھی درست ہے۔ ہاں اگر حاملہ ہو تو گو اس سے نکاح  
درست ہے لیکن وطی درست نہیں۔ چنانچہ اسی بدایہ شریعت میں اس سے پہلے  
تصریح ہے:

وَإِنْ تَرْوِجْ حَبْلَيِي مِنَ الزَّنَاجَ زَاجَ النَّكَاحُ وَلَا يَطَأْهَا حَتَّى  
تَضْعَ حَمْلَهَا -

اگر حاملہ بالزنا سے نکاح کیا تو نکاح جائز ہوا لیکن وضع حمل تک  
وطی جائز نہیں۔

پس مفترض اس مسئلہ کے خلاف کوئی آیت یا حدیث پیش کرے ورنہ اعتراض واپس لے۔

**اعتراض** ایک عورت نے ایک مرد پر بھوٹا دعویٰ کیا کہ مرد نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور بھوٹے گواہ گزار دیتے۔ فاضنی نے اس پر فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ حقیقتاً نکاح نہیں ہوا۔ اب ان دونوں کا یکجا رہنا سہنا اور معاہد متعین کرنا سب جائز ہے۔ امام البحدیغ کا فتویٰ یہی ہے:

**جواب** معلوم نہیں کہ مفترض نے نکاح کیا سمجھ رکھا ہے۔ عورت نکاح کا دعوے کرتی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں۔ فاضنی وہ مرد عورت کو دلا دیتا ہے۔ مرد اس فیصلہ کو قبول کر لیتا ہے تو یہی فیصلہ اس کے حق میں نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھی یہی فیصلہ فرمایا۔ دیکھو رسالہ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ اَهْلِ الْفَہْرَاطِ اَمْرٌ لِّكُلِّ اَنْوَافِ النَّاسِ۔

یہ مسئلہ کسی حدیث صحیح کے خلاف نہیں۔ اگر مفترض اس مسئلہ کو کسی حدیث صحیح کے مخالف بھتاتا ہے تو وہ حدیث دفع و جہ مخالفت و طریق استدلال کرے۔

حدیث لعل بعض کمر ان یکون الحن بحجة اس مسئلہ کے مخالف نہیں ہے۔ دیکھو لاعان میں فاضنی کی تفریق ظاہر باطن جاری ہو جاتی ہے حالانکہ ان دونوں میں سے ایک ضرور بھوٹا ہوتا ہے۔

اسی طرح مفترض کے نزدیک مفقود کی عورت چار برس کے بعد فاضنی تفریق کر سکتا ہے پس کیا یہ تفریق باطن میں نہیں ہوتی؟ کیا وہ عورت اللہ کے نزدیک مطلق نہیں ہو جاتی؟ اگر ہو جاتی ہے تو ثابت ہو اکر فاضنی کی قضاہ باطن میں بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ چونکہ مقصود قضاہ سے قطع منازعہ من کل الوجوه ہے تو ماخن فیہ میں جب تک تنقید باطن نہ ہو قطع نزاع نہ ہو گی بلکہ تمہید منازعہ نہ ہو گی۔

علامہ علیٰ عینہ القاری شرح صحیح بخاری کے ص ۲۴ میں لکھتے ہیں:

ابو حنیفة امام مجتهد ادراک صحابة ومن التابعين خلقا  
کثیراً وقد تکلم في هذه المسئلة باصل وهو ان القضاء  
قطع المنازعۃ بين الزوجین من كل وجه فلو لم  
ينفذ القضاء بشهادة الزوج باطننا كان تمہید المنازعۃ  
بینہما وقد اعهدنا بتفصیل مثل ذالک في الشرع  
الآخر ان التفریق باللعان ينفذ باطننا واحد هما  
کاذب بالیقین -

اعتراض ذمی مرد نے ذمی عورت سے نکاح کیا اور مہر میں شراب یا سور مقرر کیا  
پھر دونوں بیان بیوی مسلمان ہو گئے تو بھی مہر شراب یا سور ادا کرے۔ اسی طرح اگر دونوں  
میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے۔

جواب ہماری شریعت میں یہ مسئلہ شراب اور سور معین کے بارے میں لکھا ہے  
اور شراب یا سور غیر معین کے بارے میں خرمنی قیمت اور سور میں مہر مثل ہے چنانچہ فرمایا  
ان کا نابغیر اعیانہما فلما في الخمر القيمة وفي الخنزير  
مهر المثل -

امام عظیم رحمہ اللہ کی ولیل جو ہماری میں ہے وہ یہ ہے کہ شراب یا سور معین کو اشارة  
کر کے ذمی ذمیہ نے اپنا مہر مقرر کیا تو عقد کرتے ہی وہ عورت اس شراب یا سور معین کی  
مالک ہو گئی۔ وہ اس کو فروخت یا ہبہ وغیرہ تصرف کر سکتی ہے۔ رہا یہ کہ ابھی عورت نے  
وہ شراب یا سور قبض نہیں کیا تو دونوں بیان میں سے ایکیسے مسلمان ہو گیا۔ اب وہ عورت

اسلام کی حالت میں بھی قبض کر سکتی ہے کیونکہ قبض میں زوج کی ضمانت سے عورت کی ضمانت میں استقال ہے اور یہ اسلام کے ساتھ منع نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

لابی حنیفة ان الملك في الصداق المعین يتبع بنفس العقد  
ولهذا تسلك التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان  
الزوج الى ضمانها وذاك لا يمنع بالاسلام كاسترداد  
الخمر المغضوب.

بھی یہ بات کہ وہ عورت اس سورا شراب کو کیا کرے؟ درخشار میں ہے:  
فتخلل الخمر و تسیب الخنزیر  
شراب کو سرکہ بنائے اور خنزیر کو چھوڑ دے۔  
اور حاشیہ مدینی میں لکھا ہے:  
'بہتر یہ ہے کہ سور کو قتل کر دے!

بتاؤ! یہ مسئلہ کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے؟

اعتراض زانی کو سنگسار کرنے کے وقت پہلے گواہ سنگ باری شروع کریں  
اگر وہ نہ کریں تو حد ساقط ہو جائے گی۔

جواب خود صاحب ہدایت نے لکھا ہے لانہ دلالۃ الرجوع کہ گواہوں کا ابتداء رمی نہ کرنا ان کے رجوع پر دلالۃ کرتا ہے۔ اگرچہ صریح رجوع نہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ گواہوں نے زناکی شہادت تودے دی ہو اور شہادت کے وقت ایسا کوئی خیال نہ آیا ہو لیکن جب رحم کرنے لگے، جب ان کو سب سے پہلے سنگباری کے لیے کہا گیا تو انہوں نے ایک آدمی کے قتل کو امر عظیم سمجھ کر سنگ باری نہ کی ہو اور اپنی شہادت سے

ممکن ہے کہ رجوع کر لیا ہو۔ گواہوں کا سنگباری نہ کرنا ان کے رجوع پر دلیل ہے۔ لہذاحد ساقط ہو گئی۔

خود سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ادر وا الحدود عن امسلين ما استطعتم  
چہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد کو روکو

اگر کوئی بھی وجہ ہو کے تو زانی کو چھوڑ دو۔ قاضی اگر معافی میں خطا کر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا میں خطا کرے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ گواہوں کا چونکہ صریح رجوع نہیں اس لیے سنگ باری نہ کرنے سے ان پر بھی حد نہ ہو گی۔ ممکن ہے کہ انہوں نے سنگباری سے انکار مخفی ضعف نقوص کے سبب کیا ہو۔ جیسے بعض کمزور دل جانور ذبح نہیں کر سکتے اور لمحن تو فریح کے وقت سامنے بھی نہیں ٹھیرتے۔

اعتراف ہوش خپس اپنے باپ، مال یا بیوی کی لونڈی سے زنا کرے اور یہ کہ کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ مجھ پر حلال ہے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

جواب ہماری شریعت میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ شبہ اشتباه ہے۔ اس لیے کہ بیٹا ماں باپ کے مال سے نفع اٹھا سکتا ہے اسی طرح خادم اپنے بیوی کے مال سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا ماں باپ یا بیوی کی لونڈی کو حلال ظن کر لینا محظی ہے جب اس نے حللت کاظن کیا تو یہ شبہ اشتباه ہے۔ اور شبہات کے سبب حدود کا نال دینا احادیث میں آیا ہے۔ چنانچہ 'ادر وا الحدود عن امسلين ما استطعتم' پیچے گذری ہے جو کہ ابو لیلی کی مسند میں مرفقاً مردی ہے۔  
مسند امام اعظم میں ابن عباس سے مردی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

‘اُدروٰ الحدود بالشبهات’ کے شبہات کی بنابر سزاوں کو ٹالو این ابی شیبہ نے ابراہیم مخنی سے روایت کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں حدود کو شبہات کے سبب معطل رکھوں تو میرے نزدیک اس سے محبوب تر ہے کہ شبہات پر اقامت حد کروں۔

معاذ، عبد اللہ بن مسعود اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے این ابی شیبہ نے توات کیا کہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حب تمہیں حد میں شبہ طریقہ توحید کو ٹال دو۔

(رغایۃ الاول طارج ۲ ص ۳۵)

الصال اماک بین الفروع والاصول سے یہ گمان ہوتا ہے کہ بیٹے کو مال باپ کی لونڈی سے جماع میں ولایت ہے اسی طرح زوجہ کی لونڈی میں۔  
کیا یہ اشتباہ نہیں؟ اور کیا شبہات سے سزا کا ٹال دینا احادیث میں نہیں؟  
اگر ہے تو نقہ حنفیہ پر اعتراض کیوں؟

اعتراض کسی شخص نے اپنی یوں کوتین طلاقیں دے دیں پھر اس نے عدت کے اندر زنا کیا  
یا مال کے کر طلاق بائیں دیدی پھر عدت میں زنا کیا۔  
یا ام ولد لونڈی کو آزاد کر دیا اور عدت میں زنا کاری کی۔  
یا غلام نے اپنے آقا کی لونڈی سے زنا کیا۔

اگر یہ لوگ کہدیں کہ ہم نے اسے مال جانا تھا تو ان میں سے کسی پر حد نہیں۔

جواب مندرجہ بالا تمام صورتوں میں شبہ فعل کے باعث حد ساقط ہے۔  
مطلقہ شلاش کی اگرچہ حرمت قطعی ہے لیکن بعض احکام نکاح کے بقاء سے ظن جلت

کا شہر پر لگایا ہے مثلاً وجوب نفقة، منع فروج اور ثبوتِ نسب وغیرہ اس کے حلت کے ظن کا استفاظِ حدیث میں اعتبار کیا گیا اور وہی حدیث ادرا الفعد بالشہرات اپنے اطلاق کے سبب اس کو بھی شامل ہوئی۔ اسی طرح ام ولد جن کو اس کے مالک نے آزاد کیا۔ اور مطلقہ علی المال بجز ام مطلقہ شلائش کے ہے کہ ان میں بھی بعض آثار ملک کا بقا موجب ظن حللت ہے۔ اسی طرح غلام کا اپنے آقا کی لونڈی سے زنا کرنا بسب بساط موجب ظن حللت ہے کہ غلام اپنے آقا کے مال کو خرچ کر سکتا ہے اور لونڈی آقا کا مال ہے ہو سکتا ہے کہ غلام اس کو حلال ظن کرے۔ لہذا اس کے ظن کا اعتبار کرتے ہوئے اس شہر کی بنیا پر کہ آقا کے مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ حد ساقط کر دی گئی۔

ہاں ! مندرجہ بالا صورتوں میں حللت کاظن نہ ہو بلکہ حرام جانتے ہوں۔ بھرننا کریں تو حد ضرور واجب ہوگی۔ چنانچہ بدایہ میں ہے۔

ولو قال علمت انها على حرام وجوب العد  
اگر کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجرح پر حرام ہے تو حد واجب ہوگی۔

اعتراف اگر کسی کے پاس دوسرا سے کی لونڈی گردی ہے اور وہ اس کے ساتھ بد کاری کرے تو اس پر بھی کوئی حد نہیں۔ خواہ کہے کہ میں حلال گمان کرتا تھا۔ اور خواہ کہے کہ میں اسے حرام جانتا تھا۔

جواب اگر حرام جانتا تھا تو صحیح اور مختار میں ہے کہ اس پر حد واجب ہوگی۔ بحر الرائق کے ص ۱۲۷ ج ۵ میں ہے:

والخلاف فيما اذا علموا الحرمة والاصح وجوبه  
اگر حرام جانتا تھا تو اصح ہی ہے کہ حد واجب ہوگی۔

اور اگر حلال گمان کرتا تھا تو اس پر حد نہ ہو گی۔ اس لیے کہ مرہونہ پر مرہنہ کی ملکیت  
تصرف ہونا مرہونہ سے جماع کی حللت کا موہم ہے۔ کذافی الطھاوی۔

اعتراض اگر کوئی شخص اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کی لونڈی سے بدکاری  
کرے۔ اگرچہ وہ جانتا ہو کہ یہ اس پر حرام ہے پھر بھی اس پر حد نہ لگانی جائے۔

جواب یہ مثال شبہ محل کی ہے۔ شبہ محل سے بھی حدود ساقط ہو جاتی ہیں  
شبہ محل وہ ہے جس میں محل کی حللت کا شبہ بکم شرع ثابت ہو۔ شبہ محل میں  
اس قاطع حد کا مدار دلیل شرعی پڑھے نہ کہ زانی کے اعتقاد پر۔ اس لیے کہ دلیل کے ثابت  
کے سبب نفس الامر میں شبہ قائم ہے۔ زانی اس کو جانے یا نہ جانے۔  
ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرد نے کہا یا رسول اللہ  
میرا مال ہے اور میرا بیٹا ہے۔ میرا باپ مال مانگتا ہے حالانکہ وہ میرے مال کا محتاج  
نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: انت و مالک لا بیک 'تو اور تیرا مال، تیرے  
باپ کا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹے کامال، والد کا ہے۔ لہذا بیٹے کی لونڈی  
سے وطنی پر حللت کا شبہ ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حد ساقط ہو گی۔

ہذا یہ شریف میں ہے:

لَأَنَ الشَّبَهَةَ حِكْمَةٌ لَأَنَّهَا شَأْتَ عن دَلِيلٍ وَهُوَ قُولٌ

عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتَ وَمَالُكُ لَابِيك

یہ شبہ حکمیہ ہے اس لیے کہ دلیل سے پیدا ہوا ہے۔ وہ دلیل حضور  
علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اور تیرا مال، تیرے باپ کا ہے۔  
اس حدیث کو طبرانی اور یہقی نے بھی روایت کیا۔

اعتراض جو شخص ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح کرے، جن سے نکاح حرام ہے تو اس پر حد واجب نہیں۔

جواب زانی کے لیے جو شرعاً حد مقرر ہے وہ رجم یا جلد ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جو شخص محروم ابدیہ سے نکاح کر کے وظی کرے اس کو رجم کیا جائے یا کوڑے مارے جائیں۔ اسی لیے امام اعظم نے ایسے شخص کے لیے یہ حد (رجم یا جلد) نہیں فرمائی۔

امام اعظم کے اس سئلہ کو معتبر ص اگر حدیث کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ حدیث نقل کرے جس میں ایسے شخص کے لیے حد آئی ہو، البتہ قتل کا حکم ایسا ہے جس سے امام اعظم کا مذہب ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ قتل کرنا یا مال ضبط کرنا حد زنا نہیں ہے امام اعظم ہی فرماتے ہیں ایسے شخص کو جو بھی سزا دی جائے کم ہے لہذا حکم اس کو سخت سزادے۔ فتح القدير میں ہے؛

الاتری ان ابا حینیة الزم عقوبة باشد ما یکون و اعماله  
یثبت عقوبه هی للحد فعرف انه زنا ممحض عنده الا ان  
فیه شبهة

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابو حینیة اس کے لیے سخت سزا  
تجویز کرتے ہیں رالبتہ نکاح کے سبب احمد ثابت نہیں پس وہ  
اس کو زنا ہی سمجھتے ہیں مگر نکاح کے سبب اس میں شبہ پیدا ہو گیا۔  
اس لیے حد مقرر رجم یا جلد اس سے ساقط ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر کوئی  
سزا ہی نہیں جیسے کہ عوام کو منع اٹھانے میں ڈالا جاتا ہے۔

**اعتراض** جو شخص کسی عورت کی یا مرد کی پاخانہ کی جگہ میں بدکاری کرے، اس پر حد نہیں۔

### **جواب فتح القدير میں ہے:**

ولکن یعزر و لیستجن حتی یسموت او سیوب ولو اعتاد  
اللواطة قتلہ الامام محدثاً کان او عنیر محسن  
سیاسیہ قاماً الحد المقرر شرعاً فليس حکماً  
در شر عی حد رجم یا جلد اس کے لیے نہیں ہو گی، بلکہ اس کو تعزیر لگائی  
جائے گی۔ وہ یہاں تک قید میں رکھا جائے کہ مرجانے یا توبہ کر لے۔  
اگر لواطت کی عادت پکڑ لے تو امام اس کو قتل کر دے خواہ وہ محسن  
ہو یا عنیر محسن۔

پس اگر معترض کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جس سے ثابت ہو کہ غیر فطری فعل  
کرنے والے کو سنگسار کیا جائے یا سوکوڈے مارے جائیں تو وہ حدیث سپشیں  
کی جائے۔ ورنہ اپنا اعتراض واپس لے۔

**اعتراض** جو شخص دارالحرب یا دارالبغی میں زنا کرے۔ پھر اسلامی حکومت  
میں آگرا اقرار کرے تو اس پر حد نہ لگائی جائے۔

**جواب** معترض اگر فتح القدير کا یہ مقام دیکھتا تو اسے حدیث مل جاتی  
اور شاید وہ اعتراض نہ کرتا وہ حدیث یہ ہے:

روی محمد فی السیرالکبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من ذنباً او سرق فی دارالحرب واصاب به احداً ثم هرب فخرج الینا فانه لا يقام علیه الحد السیرالکبیر میں محمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا: آپ نے فرمایا جو شخص دارالحرب میں زنا یا چوری کرے اور حد کو پسند نہ جائے پھر وہاں سے بھاگ کر اسلامی حکومت میں پسند جائے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

معترض چونکہ اعتراض کر چکا ہے۔ اس لیے امید نہیں کرو وہ اپنے قول کے خلاف حصنوں کے اس ارشاد کو دیکھ کر مان جائے۔ بلکہ اس پر کوئی ذکری اعتراض ہی کر لے گا۔

### اعتراض جو شخص چوپائے سے بد فعلی کرے۔ اس پر حد نہیں۔

### جواب

اس کا معنی نہیں کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ بدایہ میں ہے۔ "الآنہ یعزر" ہاں اس کو سزا دی جائے اس منہ میں حد نہار جمیا جلد) کی نفی ہے، مطلقاً سزا کی نفی نہیں۔ وہ بھی اس لیے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ چوپائے سے بد فعلی کرنے والے کو سنگار کرو یا سوکوڑے لگاؤ۔ ترمذی رج امر ۷۶، ایں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیا ہے:

من اتی بهیمة فل لا حد عليه

چوپائے سے بد فعلی کرنے والے پر حدِ زنا (نہیں۔

یہی قول احمد واحمق کا ہے۔ اب کیتے! ابن عباس کے بارے میں کیا رائے ہے؟

## اعتراض

اگر کوئی عورت اپنی رضامندی سے کسی دیوانے یا نابالغ لڑکے پر لڑکے سے زنا کرے تو نہ اس عورت پر کوئی حد ہے نہ ہی دیوانے اور نابالغ لڑکے پر۔

## جواب

نابالغ اور دیوانے پر تو سقوط حد ظاہر ہے کہ دونوں مکلف ہیں۔ ربی بات عورت کی تواں پر حد اس لیے نہ ہو گی کہ زنا فعل مرد کا ہے۔ عورت فعل کا محل ہے۔ اسی لیے مرد کو واطی زانی کہتے ہیں اور عورت موظوظہ مزینیہ۔ البتہ مجازاً عورت کو بھی زانیہ کہہ لیتے ہیں۔ زنا اس شخص کے فعل کو کہتے ہیں جو فعل سے بچنے کا مخاطب ہو اور کرنے سے عاصی۔ اور وہ عاقل بالغ ہو گا نہ کہ دیوانہ اور نابالغ۔ کیونکہ یہ دونوں احکام شرعاً کے مکلف ہیں۔ عورت اگرچہ فعل زنا کا محل ہے لیکن اس کو حد اس وقت ہو گی جب وہ زنا کرنے پر ایسے مرد کو موقعہ دے جو اس سے بچنے کا مخاطب ہو اور کرنے پر آثم۔ صورت مذکورہ میں عورت نے جس لڑکے یا دیوانے کو زنا کا موقعہ دیا ہے وہ نہ عاقل ہے نہ بالغ۔ اس لیے عورت پر بھی حد ہیں۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

وَلَنَا أَنْ فَعَلَ الزَّنَاجِ تَحْقِيقَ مَنْهُ وَإِنْمَا هِيَ مَحْلُ الْفَعْلِ وَ  
لَهُذَا يُسْمَى هُوَ وَاطِأً وَزَانِيَا مَجَازًا وَالْمَرْأَةُ مَوْظُوَّةٌ  
وَمَزِينَيَا بِهَا إِلَّا إِنَّهَا سَمِيتٌ زَانِيَةً مَجَازًا تُسَمِّيَهُ الْمَفْعُولُ  
بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةِ فِي مَعْنَى الْمَرْضِيَةِ اولَكُونُهَا  
مَسْبَبَةً بِالْتَّمْكِينِ فَنَتِعْلَقُ الْحَدِيفَ حَقَّهَا بِالْتَّمْكِينِ مِنْ  
قِبَلِ الزَّنَاجِ وَهُوَ فَعْلٌ مِنْهُ وَهُوَ مَخَاطِبٌ بِالْكَفِ عَنْهُ وَمَوْثُومٌ عَلَى  
مَبَاشِرِهِ وَفَعْلُ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ فَلَا يُنَاطِبُهُ الْحَدِيفُ انتهى

اعتراض خود مختار آزاد بادشاہ جو کچھ برآکام کرے اس پر کوئی حد نہیں، اگر قتل کرے تو قصاص ہے۔

جواب چونکہ قصاص حقوق العباد میں سے ہے اور اس کا مدعی صاحب حق ہے۔ اس لیے صاحب حق کے طلب کرنے پر قصاص لیا جائیگا۔ لیکن حدود حقوق اللہ میں سے ہے اور حدود کا اجراء و افامت بادشاہ سے متعلق ہے جب بادشاہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو تو وہ اپنے آپ پر افامت حدود نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس پر بھی بادشاہ ہو تو وہ اپنے ماخت بادشاہ پر حدود قائم کر سکتا ہے۔ اور یہی دلیل صاحب بدایہ نے لکھی ہے۔ واللہ اعلم

اعتراض چور کی چوری، شرابی کی شراب نوشی اور زانی کی زناکاری کے گواہوں نے وقوع کے کچھ دنوں بعد گواہی دی تو محروم کو نہ پکڑا جائے۔

جواب چوری، شراب نوشی یا زناکاری کا دیکھنے والا اگر شہادت نہ دے اور پرده ڈال دے تو وہ ثواب کا مستحق ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة  
جو شخص مسلمان کے رکناہ پر پرده ڈالے تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں پرده ڈالے گا۔

اور اگر یہ سوچ کر گواہی دے کر محروم کو سزا ملنی چاہیتے تاکہ معاشرہ میں نظم و صنبط اور سکون قائم رہے۔ تو یہ بھی باعثِ ثواب ہے۔

اگر گواہوں نے بروقت گواہی نہ دی اور عرصہ گذر جانے کے بعد گواہی دی تو دیکھا جائیگا کہ اتنا عرصہ خاموشی کی وجہ کیا تھی؟

اگر کوئی عذر ہو مثلاً بیماری کے سبب یا کسی حسی اور معنوی عذر کے باعث شہادت نہ دے سکے تھے تو ان کی شہادت مقبول ہوگی اور مجرم کو پسکھا جائے گا۔ دیکھو فتح القلوب ص ۴۰۶

اگر گواہوں نے بلا عذر اداۓ شہادت میں دیر کردی تو کتناں شہادت کے باعث متهم بالفسق ہوں گے۔

اگر پہلے پرده پوشی کا رادہ کر کے درپر کردی تواب ان کا گواہی پر تیار ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ ملزم سے کوئی عداوت ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ گواہی دینے پر اُتر آئے ہیں پہلے ان کا رادہ پرده پوشی کا تھا، اب نقاب اٹھانے پر مائل ہیں۔ تو اس صورت میں گواہ متهم بالعداوت ہو گئے اور متهم کی شہادت معترف نہیں۔  
چنانچہ فتح القلوب جلد ۲ ص ۴۰۷ میں لکھا ہے:

قوله عليه السلام لا تقبل شهادة خصم ولا طين  
اعٰى متهم -

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دشمن اور متهم کی گواہی معتبر نہیں۔

ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خائن، اغائی، محدود، متهم فی الدین اور دشمن کی گواہی جائز نہیں۔

اعتراض گواہوں نے زنا کی گواہی دی لیکن وہ عورت کو پہچانتے نہ تھے تو تو اسے حد نہ لگائی جائے۔

جواب ہدایہ میں اس کی نہایت معقول وجہ لکھی ہے۔ افسوس کہ معترض کو

نظر آیا۔ لکھا ہے :

لاحتمال انہا امراتہ اوامتہ بل ہو الظاهر

مکن ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی یا لونڈی ہو۔ بلکہ ظاہر سی ہے۔

کیونکہ مسلمان کا ظاہر حال بھی ہے کہ وہ زنا کرنے نہیں۔ گواہوں کے لیے لازم تھا کہ وہ عورت کی پہچان رکھتے بعد میں گواہی دیتے۔ جب وہ عورت کو پہچانتے ہی نہیں تو ان کی گواہی غیر معتر اور محبوں قرار دی جائے گی۔

دُرِّخِشْتَار پِغْتَرَاضَاتْ

ل

جو اب ت

# پر ایتھے اغاز

دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وجود باری کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے بھی میں جو خدا تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ وہ بھی میں جو حسن و صلی اللہ علیہ وسلم زن پاک حملے کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں۔ صحابہؓ کبار بالخصوص خلفاءؓ شلاذؓ کو گالیاں بکنے والے بھی میں بحسرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے گستاخ بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک جس کی فضاحت و بلا عنعت فی کائنات کو عاجز کر دیا، اس کی تعلیمات پر اعتراض کرنے والے لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث رسولؐ کے منکروں سے بھی دنیا خالی نہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ حضرات فقہاء علیہم الرحمہ کی کتب فتنہ پر اعتراض کرنے والے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔

ما نجى اللهُ والرسولُ معاً من لسان الورى فكيفت أنا؟  
 ایڈیٹر اخبارِ محمدی دہلی نے ہدایہ پر اعتراضات شائع کئے تو فقرنے ان کے جوابات دیئے۔ اب اس نے دو مختار کے چند مسائل بطور اعتراض لکھے ہیں جس کے جوابات تحریر کیے جا رہے ہیں ہیں ۔

ہر شیرانِ چاہی بستہ ایں سلسلہ اند رو بہ از حیلہ چیاں بگسلد ایں سلسلہ را!

فیقر ابو یوسف محمد شریف خفرلہ

## اعتراض

جانور کے ساتھ بد فعلی کرنے سے، جبکہ انزال نہ ہو،  
عقل لازم نہیں اور شری و فضو دلuesta ہے۔

## جواب

میں کہا ہوں کہ متعرض نے اس مسئلہ کو اگر کسی آئیت یا حدیث کے خلاف سمجھا ہے تو وہ آئیت یا حدیث لکھے۔ جب حضور نے چوپا یہ کے ساتھ شہوت رانی کرنے والے بلا انزال عقل لازم نہیں دیا تو فقہاء پڑنے کرنے سے شرم کرنا چاہیئے فقہائے کیا بُرًا کیا، کہ بوجہ فقدان ولیل وجوب عقل لازم نہیں دیا۔

امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک توحورت کے ساتھ جماع کرنے والے پر بھی بلا انزال عقل لازم نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی صحیح میں اندریں صورت عقل کو 'احوط' فرمایا ہے تو وطی بہیمہ سے بلا انزال کس ولیل سے عقل لازم سمجھا جاتا ہے؟

مسلم شریعت میں حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، پانی سے ہے یعنی عقل منی کے نکلنے سے لازم ہوتا ہے۔ اس حدیث کو نسخہ زکہ باجاتے ہیں کیوں کہ اس کے نسخ پر اجماع نہیں۔ امام بخاری اس کو نسخ نہیں مانتے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے غیر مقلدین کسی مذہب سے اس مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انزال منی موجب عقل ہے۔ جیسا کہ حدیث مسلم سے ظاہر ہے لیکن خروج منی کبھی تحقیقاً ہوتا ہے اور کبھی نہ کہا۔ حقیقتاً تو ظاہر ہے۔ حکماً اس وقت پایا جاتا ہے بہنکہ سبب کامل ہو اور سبب کامل غیوبت حشفہ ہے ایسے عمل میں جو عادۃ مشتبیہ ہو جب کہ خروج بہا تم ایسا نہیں۔ اس صورت میں بہبیت ناقص ہوئی۔ خروج منی نہ تحقیقاً پایا گیا اور نہ کہا۔ تو عقل لازم ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوئی۔ کیونکہ مرغوب بالطبع کے جملے سے یا انزال سے لذت کا مطلب ہوتی ہے جبکہ محل ہی مرغوب طبع نہ ہوا تو بد و انزال کمال لذت

نہیں۔ اس لیے عسل بھی لازم نہیں۔

ناظرین الفضافت کریں کہ حب بھم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جسراست فقہاء نے ان مسائل کو واضح کر دیا اگر کسی سے ایسا فعل صادر ہو تو عسل کا مسئلہ کیا ہوگا؟ چاہیئے تو یہ تھا کہ تم فقہاء کے شکر گزار ہوتے کہ انہوں نے متوقع حالات کو سمجھ کر مسائل واضح کر دیتے۔ ہم ان پر الشاطعن کریں تو کیا یہ ناشکری نہیں؟

امکشہ [ کوئی یہ نہ سمجھو بیٹھے کہ فقہاء کے نزدیک چوپا یہ سے بدفلی کرنا حائز ہے اور اس کی سزا کوئی نہیں۔ معاذ اللہ۔ فقہاء علیهم الرحمہ نے اس کی سزا کتاب الحدود یہ بیان فرمائی ہے۔ من شاء فليمنظر

اعتراض اسی طرح مردہ عورت کے بدفلی کرنے سے بھی بغیر انزال کے نہ تو وصولہ وشا ہے اور نہ عسل لازم آتا ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کے بخلاف اگر کسی کے پاس کوئی آیت یا حدیث ہو تو پیش کرے۔ یہاں بھی خروجِ منی نہ حقیقتاً پایا گیا نہ حکماً کہ عملِ مشتبہ نہیں۔ اس لیے بدون انزال عسل واجب نہیں۔

اعتراض اسی طرح نابالغِ اڑکی سے زنا کرنے سے بھی بغیر انزال کے نہ عسل لازم آتا ہے اور نہ ہی وصولہ وشا ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کہ ایڈ شیر محمدی کا یہ بتا ہے جو اس نے یہاں لفظ

زنائی وادہ کر دیا۔

وَرْجُنْتَارَكَ الْفَلَاطِيرَ بِيْنَهُ : او صَغِيرَةٌ عَيْرَ مُشْتَهَاهَةٍ - كَيْا صَغِيرَهُ عَيْرَ مُشْتَهَاهَاتٍ  
ابنی عورت ہی ہو سکتی ہے؟ اپنی بیوی نہیں ہو سکتی؟ کس قدر بے باکی ہے کہ عوام کو  
منال الطیبین ڈالتے کے لیے اپنی طرف سے لفظ زنا داخل کر دیا۔

اس مسئلہ میں حضرات فقہاء علیہم الرحمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اگر  
ایلاج ممکن ہو تو غسل واجب ہے۔

چنانچہ شامی جلد اول ص ۲۲ میں علامہ شامی فرماتے ہیں :

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْأَيْلَاجَ فِي مَحَلِّ الْجَمَاعِ مِنِ  
الصَّغِيرَةِ وَلَمْ يَفْضُّلْهَا فَهُنَّ مَمْنُونُ تَجَامِعٍ فَيُجَبُ الغَسْلُ -

بحیر الرائق جلد امر ۴ میں ہے :

وَقَدْ حَكِيَ عَنِ السَّرَّاجِ الْوَهَاجِ خَلَافَ الْوَطْيِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي  
لَا تُشْتَهِي فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُجَبُ مَطْلَقاً وَمَنْ عَمِّلَ مَنْ قَالَ لَا  
يُجَبُ مَطْلَقاً وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْأَيْلَاجَ فِي مَحَلِّ  
الْجَمَاعِ مِنِ الصَّغِيرَةِ وَلَمْ يَفْضُّلْهَا فَهُنَّ مَمْنُونُ تَجَامِعٍ فَيُجَبُ  
الْغَسْلُ -

مراقب الفلاح نور الایضاح میں ہے :

وَيَلِزُمُ بِوَطْيِ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهِي وَلَمْ يَفْضُّلْهَا لَا نَهَا صَارَتْ  
مَمْنُونٌ تَجَامِعًا فِي الصَّحِيحِ -

علامہ طحاوی حاشیہ مراقب الفلاح مر ۵ میں لکھتے ہیں :

هذا هو الصحيح

یعنی صَغِيرَةٌ عَيْرَ مُشْتَهَاهَةٍ کے ساتھ واطئی کرنے سے جب کہ درمیان کا پردہ پھٹ کر دلوں

راہیں ایک نہ ہوں اور محل جمع میں ایلاج ممکن ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اور یہی صحیح ہے پس محرض کی آنکھوں پر اگر تقصیب کی عینک نہ ہوتی تو اسے فتحہا، کی یہ تصریحات نظر آ جاتیں۔ پھر ایسا نہ لکھتا۔

## اعتراض امام صاحب کے نزدیک حورت کی شرمگاہ کی طوبت پاک ہے

### جواب

میں کہتا ہوں کاش اپنے اس کے بخس ہونے پر کوئی آیت یا حدیث لکھی ہوتی۔ اگر کوئی نہیں تو شوکانی کا یہ قول اپ کو بیاد ہونا چاہئے "فالا صل الطهارة" کر اصل طہارت ہے۔ یعنی جب تک کسی چیز کی نجاست پر کو دلیل نہ ہو وہ چیز پاک ہوتی ہے۔ اس پر نجاست کا حکم لگانا درست نہیں۔

مولوی وجید الزمان نے نزل الابرار من فقرة البنی المخازن الحکم کرو ہا یوں پر احسان کیا ہے وہ اس کتاب کی پہلی جلد س ۹ میں رطوبت فرج کو پاک لکھتا ہے۔ اگر وجید الزمان پر کچھ اعتراض ہو تو سنیٹے!

علامہ نووی شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۴ میں لکھتے ہیں:

قد استدل جماعة من العلماء بهذه الحديث على طهارة  
رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا و  
عند غيرنا والا ظهر طهارتها.

فرمایتے ہیں اب تو اپ کے گھر کا مسئلہ نکل آیا۔ علامہ نووی رطوبت فرج کی طہارت کو انظہر فرماتے ہیں۔

اسی شرح مسلم ص ۵۵۵ میں نووی لکھتے ہیں :

هذا هو الاصح عند اکثر اصحابنا

ہمارے اکثر اصحاب کے نزدیک یہی صحیح ہے۔

مولوی شنا، اللہ امیر تسری اخبار اہل حدیث ۱۶ جولائی ۱۹۰۹ء میں لکھتے ہیں؛

رطوبت مثل مذہبی ہے اور مذہبی سے بوجب حدیث شریعت وضو ثبوت جاتا ہے۔

البتہ اس کی ناپاکی کا ثبوت نہیں۔ دھوڈا لے تو افضل ہے۔

فَاسْتَشِرْ! یہ گواہی تو آپ کے اپنے گھر سے ہے۔ تو کیا اب بھی آپ اس مسئلہ کو حیا سڑ اور شرمناک لکھیں گے؟ فقہا پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے!

## اعتراض

اگر کسی باکرہ عورت کے پاس جائے اور اس کا بکر زائل نہ ہو

تو بھی عسل نہیں۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ درختار میں اس کی وجہ بھی مذکور ہے

فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّقَاءَ الْمُخْتَانِينَ

کہ بھارت مرد اور عورت کے ختنہ کا ہوں کے ملنے سے مانع ہے۔ فرج میں دخل خشغ ممکن نہیں۔ تو بھارت کا باقی رہنا عدم ایلاج کی دلیل ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ انزال نہ ہو، عسل واجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

مَنْ أَدْعَى خَلَافَةَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ

## اعتراض

اگر انسان کی کمال کو دباغت دی جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔

## جواب

افسوس کو مفترض کو اگلی عبارت نظرنا آسکی جو یہ ہے:

وَإِنْ حَرَمْ اسْتَعْمَالَهُ

صاحب درخواست فرماتے ہیں کہ انسان کا چمڑہ ننگھے سے گوپاک ہو جاتا ہے لیکن اس کا استعمال حرام ہے۔

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض تو انسان کے چمڑے کو قابلِ دباغت ہی نہیں سمجھتے اور بعض قابلِ دباغت تو سمجھتے ہیں لیکن دباغت دینا یا اس سے نفع اٹھانا بالاتفاق منع مانتے ہیں۔

شیعہ عبد الحجیٰ سعدۃ الرعایۃ میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر دباغت دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے لیکن انسان کا چمڑہ آنا را نیا اس کو دباغت دینا حرام ہے۔  
بجر الرائق میں ابن حزم کے حوالہ سے اس پر اجماع مسلمین لکھا ہے۔

رسی یہ بات کہ اگر دباغت دی جائے تو پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ پاک ہو جاتا ہے۔ سخاری شریعہ میں تو مسلمان زندہ اور مرد کو پاک لکھا ہے۔ رہا کافر، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کافروں کی سجاست کو سجاست اعتمادی لکھا ہے۔  
نواب صدیق حسن بھی الروضۃ النذریہ میں اسی طرح لکھتا ہے۔  
وہاں پر کام سرعنہ و حید الزمان نzel al-ibar میں لکھتا ہے۔

و استثنى بعض اصحابنا جلد الخنزير والأدمي والصحيف  
عدم الاستثناء

ہمارے بعض اصحاب (غیر مقلدوں) نے خنزیر اور آدمی کا چمڑا (حدیث ایما اهاب دین فقد طهر) سے مستثنی یا ہے لیکن عدم استثناء صحیح ہے۔  
چھڑا کے لکھتا ہے:

و جلد الأدمي ظاهر الا ادنه لا يجوز استعماله لكونه محترماً  
آدمی کی جلد پاک ہے لیکن اس کے مختزم ہونے کے باعث اس کا استعمال جائز نہیں۔

اب ہم معرض سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسلم بھی آپ کے گھر سے ہی نکل آیا۔ وہ حمدلہ زنان کے بارے میں کیا خیال شریف ہے؟ ممکن ہے آپ یہ کہدیں کہ ہم وحید الزمان کے مقلد نہیں۔ آپ لوگوں کی یہ عادت بھی کیا خوب ہے۔ چلتے ہی آپ اس مسئلہ کے خلاف قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ہی پیش کر دیں جس میں انسان کی کھال کو دباغت کے باوجود بخوبی لکھا ہو۔

## اعتراض دباغت کے بعد گتے کی کھال بھی پاک ہے۔

## جواب میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے:

ایما اهاب دین فقد طهر ررواه الترمذی  
جب چڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے:

اذا دين الاهاب فقد طهر

جب چڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

مردار کے چڑے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ہے:

هلا اخذتم اهابها قد بقتمو

تو حدیث ایما اهاب .... اپنے عموم میں گتے کی کھال کو بھی شامل ہے۔

وہابیوں کا بردا عالم شمس الحق عظیم آبادی، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کی جلد چہارم ص ۳۱۱ میں لکھتا ہے:

والحدیث دلیل لمن قال ان الدباغ مطہر لجلد میتہ کل  
حیوان کمالیفیدہ لفظ عموم کلمۃ ایما و کذا لک لفظ

الاہاب یشتمل بعمومہ جلد المأکول اللحم وغیرہ  
یہ حدیث اس شخص کے لیے ولیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ دباغت ہر جو ان  
مردہ کے چڑے کو پاک کرنے والی ہے جیسے 'ایسا' کا نام اس کا  
فائدہ دیتا ہے اور اس کی طرح لفظ اہاب اپنے عموم کے لحاظ سے  
حلال اور حرام کے چڑے کو شامل ہے۔

اپس معرضن کا یہ اعتراض فقہاء پر نہیں بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے کیونکہ  
اپ نے اس حدیث میں کسی چڑے کو مستثنی نہیں فرمایا۔ حال اگر کسی روایت صحیحہ  
میں کہتے کی کھال کا استثناء آیا ہو تو اسے بیان کیا جائے۔

حدیث "نہی عن جلود السباع" میں احتمال ہے کہ نہی قبل از دباغت پر محول ہو  
چنانچہ وہابیوں کا بزرگ 'عون المعبود' جلد ۳ ص ۱۱ میں بحوار الشوکانی لکھتا ہے۔ یہ  
شوکانی صاحب وہی میں جن سے لواب صدیق حسن مد و ماتحتہ تہوئے کہتا ہے۔  
زمرة لئے در افاده باریاب سنه شیخ سنت مد فے قاضی شوکان مدد

قال الشوکانی ما حصله ان الاستدلال بحدیث النہی عن جلود  
السباع وما فی معنا علی ان الدباغ لا لیطہر جلود السباع  
بناد علی انه مخصوص للاحادیث القاضیة بان الدباغ

مطہر علی العموم غیر ظاهر لان غایته ما فیه مجرد النہی  
من الاستفاغ ولا مازمتہ بین ذالک و بین التجاہة كما  
لاملازمتہ بین النہی عن الذهب والحرير ونحوهما  
شوکانی نے کہا حدیث نہی عن جلود السباع سے یہ استدلال کردہ  
جلود سباع کو پاک نہیں کرتی اور یہ حدیث ان احادیث کی مخصوص ہے جن  
میں دباغت کو علی العموم مطہر فرمایا ہے، مُحیک نہیں۔ کیونکہ حدیث نہی

عن جلوہ السباع میں زیادہ ہنی عن الاستفاضع ہے۔ جب کہ ہنی عن الاستفاضع اور بخاست میں کوئی لزوم نہیں (یعنی جس چیز سے استفاض کی ہنی ہو، الازم نہیں کہ وہ بخس ہو) جس طرح مرد کے لیے، سونے اور چاندی کے استعمال کی ہنی ہے۔ لیکن بخاست نہیں۔

پس اس حدیث سے جلوہ السباع کا دباعت کے بعد بھی بخس ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

## اعتراض اسی طرح ہاتھی کا چڑہ بھی پاک ہے۔

### جواب

میں کہتا ہوں کہ حدیث ایما اهاب دین فقد طهر کا کاموم اس کو بھی شامل ہے۔ اگر کسی دبای کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو ہاتھی کے چڑہ کا دباعت کے باوجود بخس ہونا ثابت کرے، تو وہ حدیث پیش کی جائے۔

بیوقی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے دانت کی لگھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھی بخس العین نہیں ورنہ حصہ اس کے دانت کی لگھی کبھی استعمال میں نہ لاتے۔ جب ثابت ہوا کہ ہاتھی بخس العین نہیں تو اس کا چڑہ دباعت کے بعد کیوں نہ پاک ہوگا؟ من ادعی خلاف ذلك فعلیہ البيان۔

## اعتراض اگر کتنا اور ہاتھی وغیرہ ذبح کر دیئے جائیں تو ان کا چڑہ پاک ہے۔

### جواب

میں کہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ذبح سے چڑہ پاک نہیں ہوتا۔ ورنہ اصل طہارت ہے۔ ذبح، ازالہ رطوبت بخسرے میں دباعت کا کام دیتا

ہے۔ راس سلسلہ کی تفصیل بہایہ پر اعتراضات کے جوابات میں ملاحظہ فرمائیے۔

## اعتراض امام اعظم کے نزدیک کتابخان العین نہیں

### جواب

اس اعتراض کا مفصل جواب بہایہ پر اعتراضات کے جوابات میں گذر جیکا ہے۔ کتبے کا گوشت اور خون بالاتفاق پلید ہے۔ فقرہ کی کسی کتاب میں اس کے گوشت یا خون کو کسی نے پاک نہیں لکھا۔ البتہ آپ غیر مقلدین کے وحید الزمان صاحب کتبے کو پاک لکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے نواب صدیق حسن بدود الابر میں کتبے کے گوشت، بہمی، خون، بال اور پستانے کو پلید نہیں سمجھتے۔ عرف الحادی میں بھی کتبے اور خنزیر کو خس العین نہیں سمجھا گیا۔ امام بنواری اور امام مالک کتبے کو پاک سمجھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں اہل حدیث نہیں؟

فتح الباری جلد اول ص ۳۴۳ میں مالکیہ کا مذہب لکھا ہے:  
لکون الكلب ظاهر عندهم کہ کتاب مالکیہ کے نزدیک پاک ہے۔

امام شعراء میزان میں فرماتے ہیں:  
ومن ذالک قول الامام الشافعی واحد وابی حنفیه بخاستة

الكلب مع قول الامم مالك بظاهراته

فتح الباری ص ۳۴۳ میں ہے:

وانما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليس بدل به

مذهبہ فی ظهارۃ سُوڈ الكلب۔ یعنی بنواری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں تاکہ کتبے کے جو شے کے پاک ہونے پر اپنے مذہب کے لیے استدلال کریں۔

کہیے جناب! امام مالک اور امام سجراوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟  
اپنے وحید الزمان اور لواب صدیق حسن خان کے بارے میں کیا رائے ہے؟  
لیکن افسوس کہ آپ کو تو صرف اور صرف امام اعظم سے ہی بعض اور عناواد ہے۔

## اعتراض کُتّے کی کھال سے جانماز اور ڈول بنانا جائز ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کہ دباغت کے بعد جب کھال پاک ہو جاتی ہے تو اس سے جانماز اور ڈول بنانے میں کیا مصلحت ہے؟  
دیکھئے آپ کا بڑا فاضل وحید الزمان مترجم صحاح، نزل الابرار ص: ۳ میں لکھتا ہے:  
وَيَخْذِلُ جَلْدَهُ مَصْلِي وَدَلْوَا  
(کُتّے کی کھال سے) جانماز اور ڈول بنایا جاسکتا ہے۔

اعتراض کنویں میں کتاب گڑپا اور زندہ نکال لیا گیا۔ اگر اس کا منہ پانی نہیں پہنچا تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

جواب میں کہتا ہوں کہ حکم مطلقاً نہیں مشروط ہے کہ کُتّے کے بدن پر کوئی سنجاست نہ ہو، چنانچہ قادمی غماشیہ صد میں لکھا ہے:  
وَعَنْ أَبِي نَصْرِ الدَّلَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الرَّبِيعِ فِيمَهُ الْمَاءُ  
ولَمْ يَكُنْ عَلَى دِبَرٍ سِجَاسَتْهُ لَمْ يَنْجُسْ۔  
ابونصر الدلوی فرماتے ہیں کہ حبیب کُتّے کا منہ پانی تک نہ پہنچ اور اس کی دبر پر سنجاست نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

خود صاحب و مختار اس کی تصریح کرتے ہیں،

لواخر ج حیا ولیس بجنس العین ولا به حدث ولا خبر

لموینزح شیئ الا ان یدخل فمه الماء

جو حیوان کو نہیں عین نہیں رجیسے صحیح مذہب میں کتنا جب کر

اس کے بدن پر حدث ہونہ خوبت، اگر اسے کنوں سے زندہ نکالا

جاۓ تو پانی نہیں نکلا جائے گا۔ بشطیک پانی اس کے منہ تک نہ پہنچا ہو۔

پانی بطور وجوب نہیں نکلا جائے گا۔ البتہ تسلیم قلوب کے لیے میں قول

کا نکالنا علامہ شامی نے لکھا ہے۔ ہاں اگر کتنے کامنہ پانی تک چلا جائے تو پانی

حضرور نکلا جائے گا۔ کسی آیت یا حدیث میں اگر آیا ہو کہ ایسی صورت میں کنوں

کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو بے شک معرض کو اعتراض کا حق ہے۔ اگر کوئی ایسی

آیت یا حدیث نہیں اور یقیناً نہیں تو بھر معرض کو اس آگ سے ڈنبا چاہیئے جس

کا ایندھن آدمی اور بچہ ہیں۔

کیا انہیں اور سمجھ کا پھیر ہے کہ غیر مقلدین خود کو پانی کو ظاہر اور مطہر مانتے ہیں۔

اور فقہ حنفیہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ خداون کے ہاں بھی جب تک رنگ برویا

ذائقہ نہ بدلے پانی پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ شوکانی نے درہ بہیہ میں، صدقی عشن نے

روضہ ندیہ میں اور حافظ محمد لکھنؤی نے اوزاع محمدی میں اس کی تصریح کی ہے۔

و حید الزیان جس نے دہاکیہ پر احسان کیا اور ان کے لیے بھی فقہ کی ایک کتاب

لکھ دی وہ تو کتنے کے منہ تک پانی پہنچ جانے کی صورت میں بھی پانی کو بلپید نہیں

سمجھتا۔ چنانچہ وہ نزل الابرار ص ۳۴ میں لکھتا ہے:

ولوسقطی الماء ولو بتغیر لا يفسد الماء و ان اصاب فمه الماء

اگر کتنا پانی میں گرا اوپانی متغیر نہیں ہو تو پانی ناپاک نہیں ہو اگرچہ پانی کتنے کے

منہ تک پہنچا ہو۔

ہم پلے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہابیہ کے نزدیک اتنا پاک ہے۔ بلکہ امام بخاری اور امام مالک کے نزدیک بھی پاک ہے۔ پھر حنفیہ پر اعتراض کیوں؟ حالانکہ حنفیہ تصریح کرتے ہیں کہ کتنے کال عاب پلید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفیہ نے اس مسئلہ میں بھی پانی کے منہ تک نہ پہنچنے کی قید لگائی۔ لیکن تمہارے ہاں تو اسکا عاب بھی پلید نہیں اسی لیے تو وحید الزمان ’وان اصحاب فمہ الماء’ لکھتا ہے۔ حدیث ولوع کا کب میں تسبیح یا استریب کا جو حکم ہے قاضی شوکافی اس کو مقیدی لکھتا ہے دیکھو سبل السلام و مک الخاتم — صدیق حسن بھی سراج الوجاج شرح صحیح مسلم ص ۱۰۰ میں ایسا ہی لکھتا ہے صحیح بخاری میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اور پانی نہ ہو تو کتنے کے جو شے پانی کے ساتھ وصنو کرنا جائز ہے۔

اب آپ ہی گریبان میں منہ ڈال کر سوچپیں کہ کس منہ سے فقہ حنفیہ پر اعتراض کر رہے ہیں؟

## اعتراض

بھیگے ہوئے کتنے اگر جھر جھری لی اور اس کی چینیوں کیڑوں پر آئیں تو بھی کپڑا ناپاک نہیں۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ آپ کے وحید الزمان نے بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھو  
نzel الابرار ج اص ۳ :

وَكَذَا الشُّوْبُ لَا يَنْجِسُ بِالْتَّفَاضِ

اسی طرح کتنے لی چینیوں سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا

وہابیہ سے میرا سوال ہے کہ اگر تمہارے کپڑوں پر بھیگے ہوئے کتنے کے چینیوں پر گئے

تو کپڑے کو پاک سمجھو گے یا پلید؟ اگر پلید سمجھو گے تو دلیل پیش کرو۔ اور اگر پاک سمجھو گے تو پھر حنفیہ پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ جب تمہارے اکابر بھی وہی لکھ رہے ہیں جو فقہ حنفیہ میں ہیں یہ تو اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبری ہوتی۔

**اعتراض** کٹتے نے کپڑے پر کافا۔ جب تک کپڑے پر کٹتے کا تھوک نہ دیکھا جائے، کپڑا پاک ہے۔

**جواب** میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے گھر کا مستلزم ہے۔ آپ وحید الزمان تو کٹتے کے تھوک کے باوجود کپڑے کو پاک کہتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

وَكَذَا التُّوبَ لَا يَنْجِسْ بِإِنْفَاصَتِهِ وَلَا بَعْضَهُ وَلَا الْعَفْوُ  
ولو اصحابِ رِيْفَةٍ

یعنی کپڑا اور بدلن کٹتے کی چھینٹیں پڑتے سے اور اس کے کامنے سے ناپاک نہیں ہوتا اگرچہ اس کی تھوک (بھی کپڑے یا بدلن کو) لگ جائے اب فرمائیں یا تو وحید الزمان صاحب پر بھی اعتراض کیجئے یا حنفیہ پر بلے جا اعتراضات سے باز رہیں۔

**اعتراض** اگر بڑے کٹتے کو بھی بغل میں دباتے ہوئے نمازِ زوالِ نماز فاسد نہ ہوگی۔

**جواب** میں کہتا ہوں کہ یہ مستلزم تھا رہے ہی گھر کا ہے۔ چنانچہ وحید الزمان نمازِ الابرار میں لکھتے ہیں:

دلاء تفسد صلوٰۃ حاملہ  
یعنی کتے کو اٹھا کر نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔  
فقہا علیہم الرحمہ نے توجہ از میں کتے کے منہ کو باندھنے کی قید لکھائی ہے تاکہ اس کا العاب  
نہ نسلکے ورنہ نماز فاسد ہوگی۔

بخاری شریف میں ابو قاتا دہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:  
کان یصلی و هو حامل امامت بنت زینب بنت رسول  
صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامت بنت زینب کو اٹھا کر  
نماز پڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث کی شرح میں ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:  
علی صحة صلوٰۃ من حمل آدمیا و کذا من حمل حیوانا  
طاہرا۔

نووہی شرح مسلم میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں:  
ففیہ دلیل لصحة صلوٰۃ من حمل آدمیا او حیوانا  
طاہرا من طیرو شاة و عنیر هما

یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ آدمی کو، پاک حیوان کو اور پرندہ یا  
بکری وغیرہ کو اٹھا کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے۔

اہم پیچھے بیان کرچکے ہیں کہ وہا بیوں کے نزدیک کتنا پاک ہے تو پاک حیوان کو اٹھا کر نماز  
پڑھنے سے نماز کیوں کر فاسد ہو سکتی ہے۔

ایک شبہ کا زالہ | جاننا چاہئے کہ جواز کمیعني صحت اور جواز، معنی اباحت

میں بڑا فرق ہے۔ فقہاء علیہم الرحمہ نے ان موقع پر جواز ممعنی صحت لکھا ہے یعنی نماز صحیح ہو گئی اور فرض ادا ہو جائے گا۔ فقہاء کا یہ مقصد ہرگز نہیں کریں فعل جائز یا مسباح بلکہ اسہت ہے۔ اسی طرح حمل کلب میں جواز ممعنی صحت ہے۔ کہ فرض سر سے اُتر جائے گا۔ نہیں کہ تنا گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا جائز بلکہ اسہت ہے جن جالوزوں کا لعاب پاک ہے۔ فقہاء تو ان کو بھی اٹھا کر نماز پڑھنا برا لکھتے ہیں۔ یعنی جو پڑھے گا برا کرے گا۔ جب پاک بدن پاک وہن جالوزوں کی نسبت یہ ارشاد ہے تو ناپاک وہن جالوزوں کو اٹھا کر نماز پڑھنا کس قدر ناپسند رکھتیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ گمان کروہ کہتے کو اٹھا کر نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، کس قدر بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔

## اعتراض کتے کے بال حنفی مذہب میں بالاتفاق پاک ہیں۔

### جواب

میں کہتا ہوں تم ان کے پلید ہونے کی کوئی دلیل بیان کرو۔

حدیث کل اہاب دبلغ، اور ہلا اخذ تم اہابہا سے بالوں کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اہاب، الجمیع بالوں کے چھڑے کا نام ہے۔ جب وہ پاک ہو گیا تو بال بھی پاک ہو گئے۔ ورنہ حضور علیہ السلام تصریح فرمادیتے کہ بال کا ثڑا لپھر کھال سے نفع اٹھاؤ۔ یا یہ فرماتے کہ چھڑا تو پاک ہو جاتا ہے لیکن بال پاک نہیں ہوتے۔

جو المحقق جلد اصل ۱۱ میں ہے:

فهو اسم للجبل بشعره فدل على طهارة شعره ايضا

لولا ذالك لقال احلقو شعره ثم استغوا به۔

(اہاب) نام ہے کھال مع بال کا پس یہ بالوں کے پاک ہونے کی بھی دلیل ہے۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور فرمادیتے کہ بال آنار کر (کھال سے) لفجح حاصل کرو۔

## اعتراض

پیاسے آدمی کو رخصت ہے کہ شراب پی لے

## جواب

میں کہتا ہوں درختار میں تداوی بالحرم میں اختلاف بیان کیا اور لکھا ہے کہ حرام چیز کے ساتھ دوا کرنے اظاہر نہ ہب میں منع ہے پھر آگے لکھا ہے:

وقیل یر خص اذا علمن فیه شفاء ولو یعلم دواء اخر  
کمار خص الخمر للعطشان

یعنی بعض نے کہا ہے کہ حرام چیز سے دوائی کی رخصت ہے جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں شفائے ہے اور کوئی دوسرا دوائی معلوم نہ ہو، جیسے نہایت پیاسے کو شراب پینے کی رخصت ہے۔

عطشان مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی نہایت پیاسا یعنی مضطرب ہے۔ مفترض نے عطشان کا معنی "صرف پیاسا" کر کے عوام کو مغالطہ میں ڈالا ہے۔

اضطرار کی حالت میں بالاتفاق اکل میتہ و شرب حمز کی رخصت ہے۔ مفترض کی کم علمی کہا جائے یا داشتہ فریب کہ مضطرب کی رخصت کو عام رخصت سمجھ کر اعتراض کر دیا

## اعتراض

شوال الحسن رو جتر - امامت کی ابتدائی شروط میں اگر برابری ہو جائے تو اسے امام بنایا جائے جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ درختار کی اس عبارت میں حسن سیرت مراد ہے یعنی جس کی عورت بہری نہ ہونیک ہو۔ اس کے اوصاف اپنے ہوں۔ کیوں کہ بُری

بیوی سے مرد کو نفرت ہوتی ہے اور نیک سے محبت۔ جھنور علیہ السلام نے فرمایا ہے:  
اجعلوا ائمکم خیار کو فانہ و فد کو فیما بینکم  
وبین ربکم۔

اپنے امام برگزیدہ بنایا کرو کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے  
درمیان تمہارے ایلچی ہیں۔

آپ نے یہ بھی فرمایا ہے:

خیار کو حنیار کو لینسائھم (مشکوٰ ص ۲۴۳)

تم میں سے برگزیدہ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے:

**حیر کم حیر کم لاہلم**

تم میں سے اچھا ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہو۔

ظاہر ہے کہ جب شخص کی بیوی نیک سیرت ہوگی اس کا مرد بھی اس کے ساتھ اچھا ہو گا  
الاماشاء اللہ۔ اور جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے جھنور نے اسے برگزیدہ فرمایا ہے  
اور برگزیدہ کو امام بنانے کا حکم فرمایا تو معلوم ہوا کہ نیک اور خوش خصال بیوی کا شوہر  
اماں میں اولیٰت کا حق رکھتا ہے۔ دیکھئے مسئلہ تو بالکل صاف ہے۔ رہی یہ بات  
کہ کس شخص کی عورت اوصاف حمیدہ رکھتی ہے۔ اس میں یہ ضروری ہنیں کہ دیکھی  
کرتے پھریں۔ یہ امر تو ہم سایہ اہل محلہ اور عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ کذافی الشامی

**اعتراض** شہ الاک بر رأساً والاصغر عضواً۔ ان سب

باتوں میں بھی برابری ہو تو پڑے سر اور چھوٹے ذکر والے کو امام بنائیں۔

**جواب** میں کہتا ہوں افسوس کہ مفترض تے دیانت اور قومی سے کام

نہیں لیا۔ 'اصل عضو' کے جو معنی معتبر ارض نے کیے ہیں کسی محبوب الاسم سے بدلے بھی یہ معنی منقول ہیں۔ مگر علامہ شامی نے بحوالہ حاشیہ ابی مسعود ان معنوں کی تردید کر دی ہے۔ کیا دیانت اور تقویٰ اسی کا نام ہے کہ جن معنوں کو فقیہانے غلط قرار دیا ہو اور تردید کر دی ہو، انہی کو محل اعتراض میں پیش کیا جائے؟ جس گروہ کے علماء کا یہ حال ہوتواں کے چہلا کا کیا کہنا؟

اس عبارت کے معنی علامہ شامی و طحاوی نے جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کا سر بڑا ہو اور دوسرے عضو چھپوئے ہوں۔ کیوں کہ سر کا بڑا ہونا اور دوسرے اعضا، کامنابہ ہونا دنائی اور زیادتی عقل کی دلیل ہے۔ مگر سر کی کلانی بے موقع نہ ہو۔ لذائی الطحاوی رغایر الاطوار ص ۲۵۹)

یہ شبہ کہ لفظ 'عضو' مفرد ہے اس لیے یہاں عضو مخصوص ہی مراد ہے، صحیح نہیں۔ کیونکہ انسان کے بدن میں چند اور اعضا بھی میں جو سب السالوں میں اکیک ایک ہیں۔ مثلاً مسن، ناک اور ناف وغیرہ۔ معلوم نہیں کہ مفترض کو ترجمہ میں باقی ایسے اعضا میں سے صرف یہی عضو کیوں پسند کیا؟

اس کے علاوہ اسی عبارت سے پہلے درجتاً کی یہ عبارت ہے شوالانطف ثوبا۔ یہاں 'ثوب' مفرد ہے۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ جس کا اکیک کپڑا سترہ ہو۔ جس طرح ثوب سے اس کے جسم کے تمام کپڑے مراد ہیں۔ اکیک کپڑا مراد نہیں۔ اسی طرح عضو سے بھی، اس کے سر کے سواد بیگر اعضا مراد ہیں۔

## اعتراض

روزہ دار، روزہ کی حالت میں شرم گاہ کے سوا کہیں اور مجاہت کرے اور ازال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ قبل اور ذہب کے سوا کوئی شخص اگر ان یا ناف میں

یا کسی اور جگہ شہوت رافی کرے تو صرف اس حرکت سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جب تک انزال نہ ہو۔ انزال ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتے گا۔

**امکیت** اس سے کوئی ناجھیرہ سمجھ بیٹھے کہ روزہ کی حالت میں ایسا فعل کرنا فقہاء کے نزد مکیج جائز بلا کراہت ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ سند صرف اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے ایسا کر بیٹھے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ کسی حدیث کے خلاف نہیں۔ اگر مفترض کے پاس اس سند کے خلاف کوئی آیت یا حدیث ہو تو پیش کرے جس میں یہ ذکر ہو کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں ایسا کرے تو بلا انزال روزہ لوث جاتی ہے۔

آپ کا وحید الزمان نزل الابرار مبدلہ ص ۴۶۹ میں لکھتا ہے:

ولو جامع امراء فینما دون الفرج ولم ينزل لم يفسد  
کوئی شخص پیوی کے ساتھ فرج کے سواتے کہیں اور جامع کرے تو انزال کے  
بغیر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

لیجئے ایسند بھی آپ کے اپنے گھر کا ہی نکل آیا۔ بلکہ اس میں تو وحید الزمان صاحب نے نہ تو ایلاج کی قید لگائی اور نہ ہی دُبر کی۔ تو بتایا ہے! آپ کی نظر میں دُر مختار زیادہ محل نظر ہو گی یا نزل الابرار؟

**اعتراض** اگر زنا کا خوف ہو اور مشت زمی کرے تو امید ہے کہ اس پر کچھ وباں نہ ہو گا۔

**جواب** نیں کہتا ہوں کہ اس عبارت سے اُپر کی عبارت بھی درج کی ہوتی

تو معتبرض کی دیانت داری ظاہر ہو جاتی۔ صاحب درمحتر فرماتے ہیں:  
و ان کرہ تحریم الحدیث ناکح الید ملعون  
اگرچہ ی فعل مکروہ تحریمیہ ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ سے پانی  
نکالنے والا ملعون ہے۔

فقہاء علیہم الرحمہ نے تو اتنا باید کو مکروہ تحریمیہ لکھا۔ مگر معتبرض کا ایمان اجازت نہیں  
دیتا کہ اس عبارت کو ظاہر کرے۔ فقہاء نے جو یہ لکھا ہے کہ اگر وقوع زنا کا خوف ہو تو  
الشرعاً کے عفو و کرم پر امید ہے کہ اسے موافخہ نہ ہو ایک بھی بلے دلیل نہیں۔ معتبرض  
نے کسی عالم سے حزور استا ہو گا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  
من ابتدی ببلیتین فلیخترا ہونہما

جو شخص دو بلاؤں میں بنتلا ہو وہ دلوں میں سے آسان کو اختیار کرے۔

تو یہ امید اسی حدیث سے مأخوذه ہے کہ خدا ایسے شخص پر عفو و کرم فرمائے۔ باہ! معتبرض  
کو شاید اپنے گھر کی بخربنیں۔ صدقیق حسن کی عرف الماجدی میں تو یہاں تک لکھا ہے  
کہ وقوع زنا کا خوف ہو تو مشت زنی واجب ہے۔ بلکہ اس نے بعض صحابہ سے اس  
فعل کو لکھا ہے۔ (والعہدۃ علیہ)

## اعتراض

ایسی حالت میں مشت زنی کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ مشت زنی سے اگر انزال ہو تو روزہ فاسد ہو  
جالت ہے۔ چنانچہ درمحتر میں تصریح موجود ہے:

اوستمنی بکفہ او بمباشرة فاحشة ولو بين المرتدين  
وانزل قيد للكل حق لو لم ينزل لم يفطر كمام

مشت زنی یا مباشرت فاحش سے اگر ازالہ ہو تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے  
اگر نہ ہو تو نہیں۔

لیکن معتضن نے اعتراض میں ازالہ نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا تاکہ ناظرین کو مناطق لگے کہ  
فقہ میں استمناء بالکفت سے ازالہ کے باوجود بھی فنا دروزہ کا حکم نہیں حالانکہ یہ بالکل غلط  
ہے۔ علامہ شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

هذا اعظم مینزل اما اذا انزل فعلیه القضاء كما

سيصرح به وهو المختار كما يأتى

استمناء بالکفت سے اگر ازالہ ہو جائے تو روزہ ثبوت جاتا ہے اور اس پر قضا

للازم ہے اور یہی مختار ہے۔

رہی یہ بات کہ استمناء بالکفت سے بلا ازالہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  
مشت زنی جماع نہیں۔ نہ صوت مانع مانع۔ ایسی صورت میں روزہ فاسد ہونے پر کوئی دلیل  
نہیں۔ اگر معتضن کے پاس کوئی دلیل ہو تو بیان کرے۔ فقہاء نے فنا دروزہ کی دلیل نہ  
ہوئے کے سبب حکم فنا دروزہ نہیں دیا تو کیا برا کیا؟

**امکیت ہے** یہاں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فقہاء کے نزدیک حالت روزہ میں آئنا  
بالکفت بلا ازالہ کی اجازت ہے۔ معاذ اللہ! ہرگز نہیں۔ فقہاء نے تو صرف اس یہے  
بیان فرمایا کہ اگر کوئی نادان یہ حرکت کر بیٹھے تو اس کے لیے مسئلہ کی نوعیت کیا ہوگی۔  
اُن مسائل کو لے ہو دہ قرار دینے والے کے لیے مقام غور ہے۔ معتضن کو تو فقہاء کا  
شکر گزار ہونا چاہیئے کہ انہوں نے اقتضیہ کو ایسے مسائل بھی سمجھا دیئے جن کے  
پیش آنے کے امکانات ہیں۔

## اعتراض چو پائے یامیت کے ساتھ برا کام کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

**جواب** میں کہتا ہوں دمختار میں من عین انسان وال کی تصریح موجود ہے لیکن معترض نے اس کا ترجیح ہی نہیں کیا تاکہ ناظرین کو مغالطہ لگ جائے۔ وہاں دوستہ تمہارے اکابر کی دیانت اور تقویٰ کا یہ حال ہے تو تمہارے اس اغز کا حال کیا ہو گا؟ جاننا چاہئے کہ جماع بے شک مفسد صوم ہے۔ جماع چاہئے صوتاً ہو چاہئے معناً۔ صوتاً تو ظاہر ہے۔ البتہ معنا وہ انسان ہے جو شرمنگاہ ہی میں نہ ہو یا شرمنگاہ میں تو ہو لیکن وہ شرمنگاہ عادتاً غیر مشتبہ ہو یا وہ انسان جو عادتاً محل مشتبہ کی مباشرت سے ہو لیکن وہ مباشرت شرمگاہ کے ساتھ نہ ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

الاصل ان الجماع المفسد للصوم هو الجماع صوتاً وهو  
ظاهر او معنى فقط وهو الانزال من مباشرة بضرج لا في  
فرج غير مشتبهى عادة او عن مباشرة بغير فرجه في محل  
مشتبهى عادة۔

تو ان صورتوں میں جماع اس وقت متحقق ہو گا جب کہ انسان ہو۔ اگر انسان نہ ہوا تو جماع ہی متحقق نہ ہوا۔ نہ صوتاً نہ ہی معناً۔ اس لیے روزہ بھی فاسد نہ ہو گا۔ معترض کے پاس، اگر اس صورت میں کسی آیت یا حدیث میں روزے کے خلاف کا حکم ہے تو بیان کرے۔

ایک پڑھتے ہے | میہاں تو صرف روزے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ کوئی یہ سمجھ بیٹھ کے

ان افعال کی اجازت ہے۔ معاذ اللہ! فقہاء کرام وضی اللہ عنہم نے ان امور کی نسرا  
کتاب التغیریں لکھی ہے کہ امر کا مفرد صوم نہ ہونا الگ بات ہے اور جائز و ناجائز  
ہونا الگ بات ہے۔

اعتراض نشہ کی حالت میں کسی نے اپنی بیٹی کا بوسہ لیا تو اس کی بیوی اس  
پر حرام ہو گئی۔

جواب میں کہتا ہوں درختار میں میسنلہ بحوالہ قنیہ لکھا ہے۔ علامہ شامی نے  
قنیہ کی اصل عبارت لکھی ہے:

قبل المجنون ام امراۃ بشہوة او السکران بستہ محرم  
اس میں تصریح یہ ہے کہ بوسہ شہوت کے ساتھ لیا ہو۔ قاریئین خود الفضاف کریں  
کہ ایک شخص اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیٹی کو چوڑے تو حرمتِ مصاہروہ کے سبب اس کی  
بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ مفترض نے یہاں بھی بد دیانتی سے کام لیتے ہوئے شہوت  
کے لفظ کو گول کر دیا ہے۔ تاکہ عام فارمی کو مناطق میں ڈالا جائے۔ باپ اپنی بیٹی کو چوڑتا  
ہے۔ اور یہ انتہائی شفقت ہے۔ لیکن شہوت کے ساتھ چوڑ مناد و سری صورت ہے  
اگر مفترض اس مسئلہ کو کسی آیت یا حدیث کے خلاف سمجھتا ہے تو وہ بیان کرے فقہاء  
علیہم الرحمہ تو ایسے وابیات آدمی کو یہی حکم دیں گے کہ اس کی بیوی حرام ہو گئی۔

اعتراض اگر کوئی نہیں مذاق میں جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے اپنی سارے  
محاسن کی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔

جواب میں کہتا ہوں کہ مفترض کو خدا کا کچھ خوف نہیں کہ ترجمہ میں اپنی طرف

سے لفظ زیادہ کر کے اعتراض کر دیتا ہے۔ درخشار میں یہ بالکل مذکور نہیں ہے کہ کتنے  
محبوث کہہ دیا" اصل عبارت یوں ہے:

وَفِي الْخَلاصَةِ قَتِيلٌ لَهُ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِنِكَ فَقَالَ جَامِعُهَا

ثَبَتَ الْحُرْمَةُ وَلَا يَصْدِقُ أَنَّهُ كَذَبٌ وَلَوْهَانٌ.

یعنی کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا  
کہ میں نے جماعت کیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی اور اس کے کاذب ہونے کی  
تصدیق نہ کی جائے گی، اگرچہ یہی سے ہو۔

دیکھئے! درخشار میں تو یہ تصریح ہے کہ اس کے اقرار کے بعد یہ نہ مان جائے گا کہ اس نے محبوث  
کہا ہے۔ کیونکہ اس نے فعل کا اقرار کیا ہے اور اقرار میں اصرار شرط نہیں۔ اس یہی حرمت  
ثبت ہو جائے گی، لیکن معتبر صحن حرم کرتا ہے کہ اس نے محبوث کہدا یا اور یہ بالکل غلط ہے۔  
اصل بات یہ ہے کہ اس نے جماعت کا اقرار کیا لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ یہی حرام ہوتی ہے۔ اب  
اس کا یہ کہنا کہ میں نے محبوث کہا ہے، نہیں مان جائیں گا۔ ہاں اگر معتبر صحن کے پاس کوئی ایسی  
حدیث صحیح مرفوع غیر معارض ہوتی کہ ساس کے ساتھ جماعت کا اقرار کرنے سے یہی حرام نہیں  
ہوتی تو اس کا اعتراض بجا ہوتا۔

## اعتراض

ا) : عورت یا مرد نے عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کیا کہ میرا نکاح فلاں مرویاعورت  
سے ہو چکا ہے اور دو گواہ بھی گزار دیئے۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ نکاح ہوا ہے۔  
حالانکہ حقیقتاً نکاح نہیں ہوا تو اس شخص کو عورت سے ملن جلن ولی کرنا سب حللاں ہے۔

ب) : عورت نے طلاق کی جھوٹا دعویٰ دائر کیا اور گواہ بھی گزار دیئے۔ قاضی نے فیصلہ کر  
دیا تو با وجد بیکھر عورت جانتی ہے کہ اس پر طلاق نہیں پڑتی تاہم اسے جائز۔ یہ کہ

سے نکاح کر لے اور اس سے صحبت لرے۔

**ج** : جس گواہ نے جھوٹی گواہی دی، اسے بھی اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔

**جواب** میں کہتا ہوں کہ مذکورہ تینوں مسائل، عترض نے نزدیک اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف ہیں تو بیان کرے ورنہ اپنا اعتراض واپس لے۔

ان تینوں مسائل کا تعلق قاضی کی قضائے ظاہر اور باطن میں نافذ ہو جاتی ہے۔ عورت نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ میرا فلاں شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس پر گواہ بھی پیش کر دیئے اور شرطیہ ہے کہ عورت کسی کی منکوح یا معتقد نہ ہو۔ اسی طرح کسی مرد نے دعویٰ کیا اور گواہ گزار دیئے۔ قاضی نے مطابق حکم شرع شہادت لے کر نکاح کا فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ جس طرح ظاہر میں نافذ ہو جاتا ہے اسی طرح باطن میں بھی نافذ ہو جائے گا۔ یہی فیصلہ اس کا نکاح ہے قاضی جو کہ ولی ہے موجود ہے۔ اور گواہ بھی موجود ہیں۔ قاضی کا فیصلہ مرد و عورت دونوں نے منظور کیا۔ ان کا یہ مतلوک رکنا ایکاب و قبول ہے۔ اس یہے نکاح ہو جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ باطن میں نافذ نہ ہو تو سمجھائے اس کے کفضاً فطح منازعہ کے لیے ہوتی ہے، منازعہ کی تہیہ کے لیے ہو جائے گی۔

**اعتراض** چلاد مہینے سے پہلے حمل گردانا مہاج ہے۔

**جواب** میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض فقیہ کی اصطلاحات سے ناواقفی کی بنای پر ہے، فقیہ اُن تصریح فرمائی ہے کہ جس مسئلہ کے بیان میں لفظ 'قالوا'، بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ، مسئلہ ضعیف اور مختلف فیہ ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنؤی عمدۃ الرعایۃ حاشیہ شرح وفایہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

لَفْظٌ قَالُوا، يَسْتَعْلِمُ فِيمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ الْمَشَائِخُ كَذَافِ النَّهَايَةِ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَفِي الْعَنَيَةِ وَالْبَنَيَةِ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الْصَّلْوَةَ وَذِكْرُ أَبْنَى الْهَمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ عَادَتْهُ إِلَى صَاحِبِ الْهَدَايَةِ فِي مُثْلِ إِفَادَةِ الْضَّعْفِ مَعَ الْخَلَافِ اسْتَهْنَى وَكَذَّا ذَكَرَ سَعْدُ الدِّينِ التَّقْتازَانِيَّ اَنْ فِي لَفْظِ قَالُوا اشارةً إِلَى صَنْعَتِ مَا قَالُوا.

لَفْظٌ قَالُوا، وَهَا بُولَتْهُ مِنْ جَهَانِ مَشَائِخٍ كَاخْتِلَافٍ هُوَ-نَهَايَةُ کے کتابِ الغصب اور العنایۃ والبنایۃ کے بابِ مَا يُفْسِدُ الْصَّلْوَةَ یہ ایسا ہی لکھا ہے۔ ابن الہمام فتح القدير میں فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کی عادت اس لفظ کے مثل سے صنعت مع الخلاف کا افادہ ہے۔ اسی طرح سعد الدین تفرازی نے کہا ہے کہ لفظ 'قالوا' میں صنعت کی جانب اشارہ موتا ہے۔

مگر معرفن کے ایمان اور دیانت نے لفظ 'قالوا' سرے سے اڑاہی دیتا کہ عوام کو مخالفت میں ڈالا جائے۔ فَاللَّهُمَّ اسْتَكِنْ.

بجر الرائق میں ہے:

الظاهران هذه المسألة لم ينقل عن أبي حنيفة  
صرحيا ولذا يعبرون عنها بصيغة 'قالوا'،  
يیسلکه صرحاً امام اعظم سے منقول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کو  
فقہاء صیغہ 'قالوا' سے بیان فرماتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ الباری جزء اول ص ۱۳۰ میں عزل کی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں:

و نیتیع من حکم العزل حکم معالجة المرأة اسقاط النطفة قبل نفح الروح . فمن قال بالمنع هنائ ففی هذه اولیاً ومن قال بالجواز يمکن ان یلتحق به هذا و يمكن ان یفرق بانه اشد -

نفح روح سے پہلے حمل گرا دینے کا حکم عزل کے حکم سے نکلتا ہے جو وہاں عزل کے منع کا قال ہے، وہ اس میں طریق اولی منع سمجھے گا۔ اور جو عزل کو جائز سمجھتا ہے تو ممکن ہے اس قاطع کو عزل کے ساتھ ملحق کیا جائے اور ممکن ہے کہ اس میں فرق کیا جائے کہ اس قاطع عزل سے اشد ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس نے اس قاطع کو مباح کہا ہے اس نے عزل کے جواز سے اس کا جواز سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شامی نے ابن وہبیان سے نقل فرمایا ہے:

اباحة الاستقطام محمولة على حالة العذر او انها لا تأشير  
اثمر القتل -

اس قاطع کا مباح ہونا، حالت عذر پر مجموع ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گنہگار تو ہے لیکن اس کو اتنا گناہ نہیں بتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اب ہم معتبر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ لگنا اور نامعلوم ہوا ہے تو آپ فتنۃ الباری کو کیا کہیں گے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ بھی بتلیئے کہ اس مسئلہ کے خلاف آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث موجود ہے؟ لیکن یاد رہے کہ کسی فقیہ کی خوش شجاعی نہ ہوتا کہ نمک خود دن و نمک دان شکستن اکے مصدق نہ ہو جاؤ۔ اور قیاس بھی نہ ہو کیوں آپ نہ تو قیاس کے قائل ہیں اور نہ ہی اہل۔

## اعتراض

بیس صورتوں میں مرد کو بھی عورت کی طرح عدت گزنا پڑیگی۔

## جواب

میں کہتا ہوں کہ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا ہے ۔

چشم بد اندرش کہ بر کنداہ باد

عیب نمائہ ہنزش در نظر

ذرایر تو فرمایا ہوتا کہ جن صورتوں میں فقہاء نے مرد کو ایک خاص مدت تک تزویج سے منع کیا ہے۔ کیا وہ منع کرنا فرقہ ایا حدیث کے خلاف ہے؟ اگر آپ کو مرد کے اس توقف کا نام عدت رکھنا بُرا معلوم ہوا ہے تو اس کی بھی شرعاً ممانعت بیان فرمائیتے۔ حالانکہ صاحب درخشار نے ترکیب، کہا ہے عدت نہیں کہا۔ فقیہہ ابواللیث نے خزانہ الفقه میں ان سبیں موضع کا ذکر کیا ہے جہاں مرد کو ایک معینہ مدت تک تزویج سے انتظار شرعاً واجب ہے۔

چند مثالیں | محدث ان کے، اپنی منکوحد کی بہن سے نکاح کرنا تاو قتیک

اس عورت اسکے نکاح یا عدت میں ہے، مرد اپنی عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں مرد کے معینہ مدت تک نکاح سے رُکے رہنے پر اگر چہ عدت کا اطلاق درست ہے لیکن فقہاء کی اصطلاح میں اسے عدت نہیں کہتے، ترکیب کہتے ہیں۔ اسی لیے درخشار میں موضع ترکیب لکھا ہے۔ کیا اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنے کی صورت میں مرد اعدت تک رکنے کا پابند نہیں؟ اگر پابند ہے تو تو چہ اعتراض کیسا؟ مرد کے اس انتظار کو ترکیب کہتے ہیں۔

اسی طرح اپنی منکوحد کی بھوپھی، خالہ، یا بھتیجی سے نکاح کرنا۔ اس میں بھی

مرد کو اجازت نہیں کرو نکاح کرے۔ جب تک اس کی بیوی نکاح یا عدت میں ہو۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اس صورت میں مرد کو ترکض لازم نہیں؟ اگر لازم ہے تو اعتراض کیسا؟ یہی ترکض صاحبِ درختار نے لکھا ہے جس کے معنی مترض نے عورت کی طرح عدت کئے ہیں۔ *لحوذ بالله من سوء الفهم*

## اعتراض اگر کسی شخص نے

- ۱۔ اپنی ماں، بہن یا بیٹی وغیرہ محربات ابتدی سے
- ۲۔ یادوسرے کی منکوجہ بیوی سے
- ۳۔ یادوسرے کی معنده سے

نکاح کیا پھر صحبت کی تو اس پر حد نہیں اگرچہ دونوں چانتے ہوں کہ یہ کام حرام ہے

**جواب** میں کہتا ہوں کہ مترض نے اس مسئلہ میں بھی کوئی آیت یا حدیث نہیں لکھی جس میں ان امور کے آنکاب پر وہ حد ہو جس کی تفہیانے فرمائی ہے مترض کی خیانت دیکھئے کہ درختار میں اس عبارت کے بعد 'وَتَعْزِزُ' لکھا ہے یعنی اس شخص کو سزا دی جائے۔ مترض نے ولیعزالد کی عبارت کو ارادا یا تاکہ پڑھنے والے کو مخالف لگائے کہ مندرجہ بالا امور میں فقہاء نے اس شخص کو کسی سن اکا حکم نہیں دیا فقہاء نے تو فرمایا ہے کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ صاحبِ درختار نے یہ بھی لکھا ہے کہ قتل سے بھی تعزیر یہوتی ہے۔ فقہاء کے نزدیک ایسے شخص کا تعزیر قتل بھی جائز ہے کسی گناہ کے آنکاب پر حد کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ گناہ نہیں ہے کئی کبڑا یہی ہے میں جن میں حد نہیں مثلاً شراب پینے میں حد ہے لیکن بول پینے میں حد نہیں۔ سود لینا دینا کبڑا ہے لیکن اس پر حد نہیں۔ زنا کی تہمت لگانے میں حد ہے۔

لیکن کفر کی تہمت میں ہد نہیں۔ اسی طرح محمرات اپدیرہ، منکوہ غیر اور معتمدہ سے نکاح کر کے وطی کرنا بکیرہ ہے مگر اس پر ہد نہیں۔

جاننا چاہیئے کہ زانی کی حد شرعاً جیعت میں رجم یا جلد ہے۔ لیکن ایسے زانی کے لیے جو محمرات سے نکاح کر کے زنا کرتا ہے نہ رجم منتقول ہے نہ جلد۔ کسی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے رجم یا جلد کا حکم نہیں فرمایا۔ فقہاء علیہم الرحمۃ کی لا بیحبل سے یہی مراد ہے کہ اس پر نہ رجم ہے نہ ہی جلد۔ البتہ اس کو سخت سے سخت تغزیریدی جائے جو قتل سے بھی ہو سکتی ہے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ادرُّ الْحَدُّ وَ ثَبَّ الشَّبَهَاتِ مَا أَسْتَعْطَتُمْ

جہاں تک ہو سکے شبہات کے باعث حدود کو ساقط کر دیا کرو

اس حدیث سے شبہات کے ساتھ حدود کا ساقط کرنا ثابت ہوا۔ لیکن شبہات کا تعین قرآن و حدیث میں صراحت موجو نہیں۔ ہر مجتہد نے اپنے اجتہاد سے اتنی باطل کیا ہے امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے نفس عقد کو شبہ میں داخل سمجھا ہے۔ گو اس عقد کی حرمت پر اتفاق اور وہ جانتا بھی ہو حدیث!

ایما امرأة نكحت بغير إذن ولیها فنكاحها باطل فان دخل

بها فلها المهر بما استحل من فرجها۔

امام عظیم کے قول کی تائید کرتی ہے کیونکہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس عورت کا حس فنے اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کر لیا ہو، نکاح باطل فرمایا ہے اور مہر لازم۔ اس عورت کے ساتھ وطی کرنے میں حد لازم نہیں تو ظاہر ہے کہ نکاح کو ایسا دخل ہے جو حد ساقط کر دے۔ معلوم ہوا کہ نفس عقد شبہ ہے۔ اور شبہات سے حدود کا ساقط ہونا حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا صورتوں میں ہد نہیں۔

جوہر النقی ج ۲ ص ۱۷۱ میں لکھا ہے:

وقد اخرج الطحاوی بسند صحيح عن ابن المیب  
ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع الى عمر فصر لها  
دون الحد وجعل لها الصدق -

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے معتمد کے  
سامنے نکاح کیا تو یہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچا۔ آپ نے دونوں کو بعد  
زناسے کم مارا اور خورت کو مہر دلوایا۔

معلوم ہوا کہ عقد نکاح حد کے سقوط کے لیے شبہ ہو سکتا ہے اور یہی حضرت  
امام اعظم نے فرمایا تو مفترض کا اعتراض نہ صرف حضرت امام اعظم پر ہے بلکہ حابہ  
رسول پر ہے یہیں تو یہ بھی کہوں گا کہ اعتراض رسول کریم پر بھی ہے کیونکہ قضاہ میں  
حضرت عمر کا فیصلہ وہی تھا جو رسول کریم کی پیری وی سے مأخذ تھا۔

## اعتراض چوپائے سے بد فعلی کرنے پر بھی حد نہیں ماری جائے گی۔

جواب افسوس کہ مفترض نے اگلی عبارت بدل یعنی  
دی جائے، کو کیوں ہضم کیا؟ صاحب درخشار نے توصاف لکھا ہے کہ اس کو مزا  
دی جائے فقهاء علیہم الرحمہ نے حد کی نفی اس لیے کی ہے کہ ایسے شخص کے لیے  
کسی حدیث میں حد زنا را جنم یا جلد (نہیں) ہے۔

بلکہ ترمذی نے ص ۶۷ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے:

من اتی بهيمة فلا حد عليه

جو شخص چوپائے سے بد فعلی کرے، اس پر حد نہیں

ترمذی کہتا ہے کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور یہی قول احمد و سحاق کا ہے۔  
ترمذی کے حاشیہ میں ہے کہ انہہ اربعہ اسی طرف گئے ہیں کہ اس پر حد نہیں  
تعزیر ہے۔

ابوداؤد نے بھی ابن عباس کے قول کو تذکرہ کیا۔

اب فرمایشے! ابن عباس کو کیا کہیں گے؟ امام احمد و سحاق کو کیا کہیں گے؟  
یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہے میں جو امام اعظم نے فرمایا ہے۔ ہاں۔ ترمذی اور ابو داؤد کے باشے  
میں کیا خیال ہے جنہوں نے یہی مسئلہ اپنی کتابوں میں لکھا؟ اگر یہ لوگ آپ کے  
دل میں کسی احترام کے سختی میں تو خدا را سوچئے۔ کہ امام اعظم نے کو ناجرم کیا ہے  
جو آپ ہاتھ دھوکر ان کے پیچے پڑے ہیں؟

## اعتراض

اغلام کرنے سے بھی حد نہیں لکھائی جائے گی

## جواب

معترض نے یہاں بھی پوری عبارت نقل نہیں کی۔ صاحب در محض اپنے شخص کو آگ میں جلانا یا اس پر دیوار گرا کرنا یا بلند مکان سے پتھروں کے ساتھ گرانا نقل کیا ہے اور بحوالہ فتح القدير لکھا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، قید کیا جائے۔ یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے۔ اگر اس کو لواطت کی عادت ہو تو نام اس کو سیاستہ قتل کرے۔ اتنی عبارت کو معترض ہضم کر گیا۔

ہاں اگر معترض کے پاس کوئی دلیل قرآن و حدیث صحیح سے ہے جیسی وطنی فلسفہ کے لیے وہ حد ہو جس کی فقیہاء نے لفظی کی ہے، تو پیش کرے۔

اعتراض حربی کافروں اور باغیوں کی سلطنت میں زنا کرنے سے بھی حد نہیں۔

**جواب** مفترض اگر فتح القدر کا یہ مقام دیکھتا تو اسے یہ حدیث مل جاتی جو امام محمد نے سیر کبیر میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا،  
من زنی اوسرق فی دارالحرب واصاب بہاحدا شوہرب  
فخرج اليانا فانه لا يقام عليه الحد۔

جو شخص دارالحرب میں زنا یا چوری کرے اور حد کو پہنچ جائے پھر وہاں سے بھاگ کر اسلامی حکومت میں آجائے تو اس پر حد نہیں لگائی جائیگی چونکہ مفترض اعتراض کر چکا ہے اس لیے یہ امید نہیں کہ وہ اپنا اعتراض واپس لے بلکہ یقین ہے کہ اس حدیث پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہی کرے گا۔

**اعتراض** نابالغ غیر مکلف مرد اگر بالغ مکلف سے زنا کرے تو دونوں پر حد ہنسیں۔

**جواب** نابالغ غیر مکلف پر تو سقوط حد ظاہر ہے کہ وہ غیر مکلف ہے۔ لیکن عورت پر اس لیے حد نہیں کہ اصل نامر دکا فعل ہے۔ عورت فعل کا محل ہے اسی لیے مرد کو واطی زانی کہتے ہیں اور عورت کو موطوہ منیہ۔ البتہ مجازاً عورت کو بھی زانیہ کہا جاتا ہے۔ نباش شخص کے فعل کو کہتے ہیں جو اس سے بچنے کا مخاطب ہو اور کر گزرنے سے عاصی۔ اور وہ عاقل و بالغ مرد ہو گا نہ کہ بچپن یاد لیوانہ۔ لیکن کبیر دلوں احکام شرعیہ کے پابند نہیں۔ عورت اگرچہ فعل زنا کا محل ہے لیکن اس کو حد اسی صورت میں ہے جب کہ وہ زنا کرنے پر ایسے مرد کو موقع دے جو زنا سے بچنے کا مخاطب ہو اور کر گزرنے سے گناہگار۔ چونکہ صورت مذکورہ میں عورت نے جس لڑکے کو زنا کا موقع دیا

وہ نہ عاقل ہے نہ بالغ اس لیے عورت پر بھی حد نہیں بحرج بصاحب الہدایہ۔

## اعتراض اگر عورت کو خرچ دے کر اس سے زنا کرے تو اس پر بھی حد نہیں

**جواب** میں کہتا ہوں کہ تعصیب الیسی بُری بلایتے جو اپنے خاصے آدمی کو اندر حاکر دیتا ہے۔ درختنار میں اسی عبارت کے آگے لکھا ہے :

والحق وحجب الحد  
حق یہ ہے کہ حد وحجب ہے۔  
افسوس کہ معتبر من کو حق بات نظر نہ آئی۔

## اعتراض ایک آزاد عورت سے زنا کیا پھر کہا کہ میں نے اسے خردیا ہے تو اس پر بھی حد نہیں۔

**جواب** میں کہتا ہوں جب اس نے کہا کہ میں نے اسے خردیا ہے تو اس کے حلال طن کرنے سے اشتباہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ ملک کا مدعی ہوا۔ اکر ملک ثابت ہو جاتی تو وطنی حرام نہ ہوئی۔ چوں کہ وہ عورت آزاد ہے اس لیے ملک ثابت نہ ہوئی۔ اور وطنی حرام ہوئی مگر اس پر یہ امر شتبہ رہا۔

علامہ شامی فرماتے ہیں،

اشتبہ عليه الامر بظنه الحل  
اس کے حلال طن کرنے سے اس پر یہ امر شتبہ ہوا  
یہ شبہ شبہ فعل ہے اور شبہات کے وقت حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔

**اعتراض** اگر کسی کی لونڈی کو غصب کیا۔ پھر اس سے زنا کاری کی پھریت کا ضامن ہو گیا تو اس پر حد نہیں۔

**جواب** میں کہتا ہوں قیمت کا ضامن ہونا اس لونڈی کی ملک کا سبب ہے جب وہ قیمت کا ضامن ہو گیا تو لونڈی اس کی ملک ہو گئی۔ اقامت حد سے پہلے لونڈی کا مالک ہو جانا ملک منافع میں شبہ پیدا کرتا ہے۔ شبہ سے چونکہ حدود ساقطہ ہو جاتی ہیں اس لیے اس پر حدود ساقطہ ہو گئی۔

من ادعی خلاف ذالک فعلیہ البيان

**اعتراض** مسلمان بادشاہ پر زنا کاری کی حد نہیں

**جواب** میں کہتا ہوں کہ حدود حقوق اللہ سے ہیں۔ ان کا اجزاء و اقامات بادشاہ سے متعلق ہے۔ جب بادشاہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو تو وہ اپنی ذات پر اقامت حدود نہیں کر سکتا۔ اس پر حد نہیں۔

**اعتراض** غلام اور آقا کے درمیان سود کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں۔

**جواب** میں کہتا ہوں مطقاً نہیں بلکہ درختار میں تصریح ہے کہ غلام مدیون مستخرق نہ ہو معتبر نے اس قید کو اڑا دیا۔ غلام جب مدیون نہ ہو تو خود غلام اور

جو کچھ غلام کی ملک میں ہے، وہ آقا کی ملک ہے۔ اس لیے یہاں سود متحقق ہی نہیں ہوتا۔ جہاں بیع متحقق نہیں وہاں ربا ہاں۔ اگر معترض کے پاس اس کے برخلاف کوئی دلیل ہے تو پیش کرے۔

## اعتراض حربی کافر سے مسلمان سود لے سکتا ہے۔ کوئی حرج نہیں۔

### جواب

میں کہتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے معظمه پیش فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر کافروں سے سود کا معاملہ کرتے رہتے۔ حضور عرفہ کے دن جمۃ الوداع میں فرمایا:

پہلا سود جو کہ میں موقف کر رہا ہوں، عباس کا سود ہے، (آخر جمادی ۱۴۰۳ھ ص ۲۰۷) علامہ ترکمانی جواہر السنقی جلد ۲ میں فرماتے ہیں کہ رب ا Abram ہو چکا تھا اور عباس مکہ میں فتح مکہ تک ربا کا معاملہ کیا کرتے تھے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عباس کے ربا کو موقف کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمان اور مشرک میں دارالحرب میں ربا جائز ہے۔ ابوحنیفہ، سفیان ثوری اور ابراہیم سخنی بھی جائز کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جاہلیت کا ربا موقف ہے، اس امر پر دلیل ہے کہ اس وقت تک ربا قائم تھا۔ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو کر جاہلیت جاتی رہی۔ عباس کا ربا موقف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس وقت بھی وہ جائز تھا۔ کیونکہ موقف وہی ہوتا ہے جو قائم ہو فقیہ ابوالولید فرماتے ہیں کہ یہ استدلال صحیح ہے۔ کیوں کہ مشرکین مسلمین میں دارالحرب میں ربا حلال نہ ہوتا تو عباس کا ربا اسی وقت سے موقف ہو جاتا، جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسلام کے بعد جو کچھ لیا ہوتا۔ والیس کیا جاتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ تَبْتَمِ فَلَكُمْ رِءُسُّ اموالِكُم  
اگر تم تو بہ کرو تو اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔

جتنے الوداع میں حضور علی السلام نے عباس رضی اللہ عنہ کا ربا موقوف کیا تو اسلام لانے کے بعد جو چکروں کے چکے تھے، اگرنا جائز ہوتا تو واپس کرایا جاتا۔ چون کہ ایسا نہیں ہوا اس لیے معلوم ہوا کہ دارالحرب میں بامسلمان اور حریبیوں میں متحقق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا:

لَا رِبَابِينَ اهْلُ الْحَرْبِ وَأَظْنَهُ قَالَ اهْلُ الْإِسْلَامِ

(رَقْدَةُ الزَّلْيَقِ عَنِ الْبِسْقَى)

مسلمان اور حریب کے درمیان سود نہیں ہے۔

یہ حدیث گو ضعیف ہے لیکن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی موید ہو سکتی ہے۔

اعتراض حریب کافروں کا مال دارالحرب میں مباح ہے۔ خواہ چوری سے لے خواہ جوئے بازی سے ہر طرح جائز ہے یہاں تک کہ دارالحرب میں جو مسلمان ہواں سے بھی سود لے سکتا ہے۔

جواب میں کہتا ہوں چوری کی اجازت درخواست میں نہیں۔ درخواست میں تصریح ہے:

يَحْلُّ بِرِضاَهُ مَطْلَقاً بِلَا عَذْرٍ

حریب کی رضامندی سے جو مال لے حلال ہے، مگر عذر نہ ہو۔

اب سینہ! صدیق حسن بھوپالی روشنۃ الندبیہ ص: ۲۷۰ میں لکھتا ہے:

شمنقول اموال اهل الحرب على اصل الاباحة يجوز لكل أحد

اخذ ماشاء منها کیف شاء قبل التامین بهم  
 اہل حرب کے اموال مباح ہیں۔ ان کو اماں وینے سے پہلے ہر شخص  
 کو جائز ہے کہ ان اموال سے جو چاہے جس طرح چاہے لے لے۔  
 اسی طرح عرفِ الجادی میں ہے۔ یہ سئہ تو مفترض کے گھر کا ہی نکل آیا۔ ہاں اگر معرفن  
 کے نزدیک اہل حرب کا مال اباحتِ اصلیہ میں نہیں تو اس کی دلیل بیان کرے۔  
 اور جو شخص دارِ الحرب میں مسلمان ہو اور حیرت کر کے دارِ الاسلام میں نہ آئے۔  
 اس کا مال بھی معصوم ہنیں۔ من ادعی خلاف ذات فعلیہ البیان۔

اعتراض گناہ کے کاموں میں مشاہدگانے بجانے، لوح کرنے اور  
 کھیل تماشائیں لے گیر کر کے اجرت اور بدله لینا مباح ہے۔

جواب میں کہتا ہوں اس لیے مباح ہے کہ بلا شرط لینے سے اجارہ متعق  
 ہنیں ہوتا۔ تو وہ اجرت نہ ہوئی جو شخص مطلقاً منع کرتا ہے۔ شرط سے ہو یا بلا شرط  
 وہ دلیل بیان کرے۔ دوونہ حضرۃ القاد۔

اعتراض ریشم اگر جلد سے لگتا ہو تو مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ اگر کسی  
 کپڑے کے اوپر ریشم کپڑا پہنے تو حرام نہیں۔

جواب میں کہتا ہوں مفترض کو یہ عبارت کیوں نظر نہ آئی جو درختار میں ہے؟  
 یحروم لبس العری و لوبخائل بینہ و بین بدنه علی المذهب الصحيح  
 صحیح مذہب میں ریشم کا (مرد کے لیے) پہننا حرام ہے خواہ کپڑے پر سی کیوں ہے۔

ویکھئے صاحب اور مختار میں تو کپڑے کے اوپر بھی ریشم پہنچا حرام لکھا ہے۔ پھر ایک غیر صحیح روایت لکھ کر اعتراض کرنے متعصب معرض کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ علامہ شامي رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے متعلق فرماتے ہیں:

انہ مخالف لما فی المتنون الموضعۃ لنقل المذهب  
فلا یجوز العمل والفتوى به۔

یہ روایت متون معتبرہ کے خلاف ہے جو کہ رامام عظیم کے) مذهب کی نقل کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو اس پر عمل اور فتویٰ جائز نہیں۔

معترض جانتا ہو گا کہ محمد بنین جو احادیث نقل کرتے ہیں ان میں ضعیفہ بھی ہوتی ہیں۔ ایک محدث حدیث نقل کرتا ہے دوسرا ضعیف قرار دیتا ہے جس طرح وہاں احادیث ضعیفہ محمد بنین کے نزدیک قابل جنت نہیں ہوتیں اسی طرح فکر کی وہ روایت جس کو فقہاء نے ضعیف یا متروک اعلیٰ قرار دیا ہو، حضرات فقہاء کے ہاں قابل جنت نہیں ہوتی۔

## اعتراض امام ابوحنیف کے نزدیک سورج بن العین نہیں۔

جواب میں کہتا ہوں بسمیاً مُرَكُوبَه ایمانِ کو ان کنتم مؤمنین۔ در مختار میں تو صاف تصریح ہے۔

لَا يُخْزِي لِنْجَاسَةَ عَيْنِهِ  
حضرت یہ کے ساتھ شکار جائز نہیں اس لیے کہ وہ بخشیدیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں:

وَعَلَيْهِ لَا يُجُوزُ بِالْكَلْبِ عَلَى الْقَوْلِ بِنْجَاسَةَ عَيْنِهِ الـ

ان يقال ان النص ورد فيه وبه يندفع قول القهستاني  
 ان الكلب بحسب العين عند بعضهم والخنزير ليس بحسب  
 العين عند الحنفية على ما في التجديد وغيره انتهى.  
 اس بن ابي ربيك بحسب العين كـ ساتھ شکار جائز نہیں تو کتنے کے ساتھ بھی  
 شکار جائز نہیں ہونا چاہیئے کہ اس کو بعض بحسب عین کہتے ہیں۔ ہاں یہ  
 کہا جائیگا کہ کتنے کے بارے میں نص وارد ہو چکی ہے اس لیے اس کے  
 ساتھ شکار جائز ہو گا کو بحسب عین ہو۔ لیکن خنزیر کے ساتھ نص وارد نہیں  
 اس لیے اس کے بحسب عین ہونے کے سبب اس کے ساتھ شکار جائز  
 نہیں۔ اس سے قہستاني کی بات رد ہو گئی کہ کتاب بعض کے نزدیک بحسب  
 عین ہے اور امام صاحب کے نزدیک خنزیر بحسب عین نہیں۔

ویکھئے صاحب! درختار تو قہستاني کے قول کو رد کر کے سور بحسب عین قرار دیتا ہے۔  
 بحر الرائق، عالمگیری، طحطاوی اور دیگر کتب فتح حنفیہ میں بھی سور کو بحسب عین لکھا ہے۔  
 علامہ شامی بھی بھی بھی لکھتے ہیں لیکن معتبر ان سب سے اشکھیں بند کر کے درختار کی طرف  
 اس سلسلہ کی نسبت کر کے اعتراض کر رہا ہے۔ جب کہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ درختار  
 نے بھی سور کو بحسب عین ہی لکھا ہے۔

معتبر ان اس بات پر کربستہ ہے کہ احناف کو بدنام کیا جائے، خواہ حجبوث  
 بول کر اور خواہ عبارات میں قطع و برید کر کے۔ جب اس کے علماء کا یہ حال ہے تو جہاں  
 کا عالم کیا ہو گا؟

ناظرین کرام! الفضلہ تعالیٰ ہم ایڈٹر محمدی کے اشتر اضات کے جوابات سے  
 فارغ ہوئے۔ البته اس کے لغویات، ہنریات، اور خرافات کا جواب منتفع حقیقی پڑھوڑتے  
 ہیں۔

# تَائِيْدُ الْاَمِ

— باhadیث —

# خَيْرُ الْاَنَامِ

امام اسلامین حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر  
حافظ ابوکبر بن ابی شیبہ کے عترضات کے جوابات

## پیر ایہ آغاز

حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اس کتاب میں صحیح، حسن، ضعیف بلکہ احادیث موضوعہ بھی موجود ہیں۔ محدثین نے اس کتاب کو طبقہ ثالثہ میں شمار کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک معتقد بحثہ، صرف حضرت امام اعظم کے روایتیں ہے۔ اس حضتہ میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو بادی الاراء میں امام اعظم کے خلاف نظر آتی ہیں۔ اس کا نام کتاب الرد علی ابی حیفہ ہے۔

علامہ عبد القادر قرقشی متوفی ۶۵۷ھ اور علامہ فاسیم بن قطلو بیانے اس حضتہ کا تقلیل جواب لکھا ہے۔ مگر افسوس کہ زمانہ کے حوادث نے ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت سے محروم رکھا اور نہ تم ان کا ترجیح کر کے شائع کر دیتے۔

فقیر کو بعض احباب نے، اس حضتہ کا جواب لکھنے کی ترغیب دی۔ میں نے کارثواب سمجھ کر منظور کیا اور المفکیر کے متعدد پرچوں میں شائع کیا۔ ان مضامین کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ حنفی، مجدد، امدادی، امدادی، امدادی اور فقیر کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ دعائی و فیقی الابا اللہ علیہ توکلت والیہ اینہ

**فقیر ابویوسف محمد شریف**

**اعتراف** ابن ابی شیبہ نے چند احادیث لکھی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد اور عورت کو سنگسار فرمایا۔ پھر لکھتے ہیں کہ امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ سے مذکور ہے کہ یہودی مرد اور عورت پر حرج نہیں۔

**جواب** میں کتابوں بے شک امام علیہ الرحمۃ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد کسی صحیح حدیث کے خلاف نہیں افسوس بجائے اس کے کہ مخالفین امام عظیم رحمۃ اللہ کی قدر و ادنیٰ کرتے نا شکری کرتے ہیں۔ اور صحیح مسئلہ کو مخالف حدیث سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا کرے۔

اصل بات یہ ہے کہ شریعتِ محمدیہ میں زانی کے رجح کے لیے محسن ہونا شرط ہے اگر زانی محسن نہ ہو تو اس کو حرج نہیں۔

مشکوٰۃ شریعت کے ص ۲۹۳ میں ابو امیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ان عثمان بن عفان اشرف یوم الدار فقال أنس دعكم يا الله أتعلمون

ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى

ثلاث زنا بعد احسان او كفر بعد اسلام او قتل نفساً بغير حق الحديث

جس دن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دار میں گھیر کر اپنے چھپ کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلم مرد کا خون حلال نہیں مگر تین باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ محسن ہونے کے بعد زنا کرنے سے، اسلام کے بعد کفر کرنے سے یا قتل نفس سے۔

عن عمر رضی اللہ عنہ قال الرجو في كتاب الله حق على من ذنب اذا

احص من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الجبل او الاعتراف

(مشکوٰۃ ص ۱۳۴)

بخاری مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جم الشد کی  
کتاب میں حق ہے اس پر جو زنا کرے جب وہ محسن ہو مرد ہو یا عورت جب لواہ موجود  
ہوں یا حمل ہو۔ یا اقرار۔

عن زید بن خالد قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم  
یام فیمن زن ولم يحسن جلد مائة و تغريب حام -  
(بخاری شریف۔ مشکوٰۃ ص ۳۰۴)

زید بن خالد کہتے ہیں میں نے سنار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس  
شخص کے حق میں حکم فرمایا جو زنا کرے اور محسن نہ ہو۔ ستودڑہ اور ایک سال جلاوطن  
علام ابن حجر فتح الباری جزء ۲۸ ص ۳۹۶ میں فرماتے ہیں:

قال ابن بطال اجمع الصحابة و ائمۃ الامصار على ان  
المحسن اذا زنى عاما دعا عالماء مختارا فاعليه الرجم -

لیعنی صحابہ و ائمۃ عظام کا اس بات پر اجماع ہے کہ محسن جب عمدًا اپنے اختیار  
سے زنا کرتے تو اس پر حرم ہے۔ امام شیرازی نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

## محسن ہونے میں اسلام شرط ہے

اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن کس کو کہتے ہیں؟ امام اعظم و امام مالک رحمہما اللہ فرمتے  
ہیں کہ محسن وہ شخص ہے جو ازاد عاقل بالغ مسلمان ہو اور نکاح مسیح کے ساتھ جماعت  
کر چکا ہو۔ لیعنی محسن ہونے میں اسلام کو شرط سمجھتے ہیں۔ لیکن امام شافعی و احمد رحمہما  
اللہ کے نزدیک اسلام شرط نہیں۔ امام اعظم و امام مالک علیہما الرحمۃ کی دلیل یہ حدیث  
ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے  
من اشترک بالله فليس بمحسن -

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں۔  
معلوم ہوا کہ محسن ہونے میں اسلام شرط ہے۔

اس حدیث کو اسحاق بن راسہویہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ وارقطنی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے۔ لیکن وارقطنی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بجز اسحاق کسی نے مرفوع نہیں کیا اور کہا جاتا ہے کہ اسحاق نے رفع کرنے سے رجوع کیا ہے اس لیے صواب یہ ہے کہ مسروف ہے۔ انتہی مقال الدارقطنی۔

علام علی فارمی رحمہ اللہ مرقاۃ جلد ۴ ص ۶۶ میں اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

قال في النهاية ولفظ اسحق حكم اتراء ليس فيه رجوع  
وانما ذكر من الرواوى انه مرتة رفعه ومرة اخرج مخرج الفتوى  
ولم يرفعه ولا شک ان مثله بعد صحة الطريق اليه محکوم  
برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض  
الرفع والوقف حکم بالرفع - انتہی -

یعنی اسحاق کے لفظ سے رجوع ثابت نہیں ہوتا۔ اس نے راوی سے ذکر کیا ہے کہ بھی اس نے مرفوع کیا ہے کبھی نہیں صرف بطور فتویٰ روایت کر دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی جگہ میں بعد صحت سند رفع کا حکم ہوتا ہے چنانچہ علم حدیث میں یہ بات محضار ہے کہ حجب رفع اور وقف میں تعارض ہو تو رفع کو حکم ہوتا ہے۔ علامہ زلیعی نصب الاریہ جلد ۲ ص ۳۸ میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔

دوسری حدیث میں جس کو وارقطنی نے برداشت غضیفت بن سالم حضرت ابن عمر سے مرفع اور روایت کیا ہے یہ ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے:  
لا يحسن المشرك بالله شيئاً -  
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا کافر محسن نہیں ہوتا۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ محسن ہونے میں اسلام شرط ہے۔  
دارقطنی نے جو اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ عضیف نے اس کے رفع کرنے  
میں وہم کیا ہے۔

اس کے جواب میں علامہ ابن الترکمانی جواہر الثقی ص ۳۴، ج ۲ میں فرماتے ہیں:  
قلت اسحق حجۃ حافظ و عضیف ثقہ قاله ابن معین و ابو  
حاتم ذکرہ ابن القطنان وقال صاحب المیزان محدث  
مشہور صالح الحدیث وقال محمد بن عبد اللہ بن عمار  
کان احفظ من المعافی بن عمران فی الخلافیات للبیهقی  
ان المعافی تابعہ اعنی عضیف افرواد عن الثوری كذلك  
و اذا رفع الثقة حدیثاً لا يضره وقف من وقفه فظهر ان  
الصواب في الحديثين الرفع۔

اسحاق حافظ اور حجۃ ہے عضیف کو ابن معین و ابو حاتم نے ثقہ کہا اس کو ابن  
قطلان نے ذکر کیا ہے میرزاں میں ہے کہ عضیف محدث مشہور صالح الحدیث ہے محمد بن  
عبد اللہ بن عمار نے کہا کہ عضیف معافی بن عمران سے احفظ تھا۔ بیہقی نے خلافیات  
میں لکھا ہے کہ معافی نے عضیف کی متابعت کی۔ اور اس حدیث کو ثوری سے اس  
طرح روایت کیا۔ جب ثقہ کسی حدیث کو مرفوع کرتے تو وقف کرنے والے کا وقف  
مضزدہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہو گیا کہ ان دونوں حدیثوں میں رفع ہی صواب ہے ز وقف  
جیسے دارقطنی نے سمجھا۔ ابو حمذہ زیری کا ثوری سے متوقف روایت کرنے کا جواب  
بھی اسی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ علاوہ اس کے زیری حدیث ثوری میں خطا کرتے  
ہیں نقلہ الذہبی فی میرزانہ۔

امحمد بن ابی نافع پر جواب ابن قطلان نے کلام کیا ہے۔ وہ بھی مضزدہ۔

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ مرقاہ میں فرماتے ہیں ۔

و بعد ذلك اذا خرج من طريق فيه ضعف لا يضر.

یعنی جب حدیث ابن عمر مرفوعاً بمنصاع ثابت ہوگئی تو اب کسی طریق میں اگر ضعف بھی ہو تو مضر نہیں۔ نیز اس حدیث کی شاہد وہ حدیث ہے جس کو واقعیت نے برداشت علی بن ابی طلحہ عن کعب بن مالک روایت کیا ہے۔

انہ اراد ان یتزووج یہودیہ اونصرانیہ فسال النبی صلی

الله علی وسلم عن ذلك فنهاد عنها وقال انها لا تخصنث.

یعنی کعب بن مالک نے ایک یہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ تجویز محسن نہ کریں اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اطرا فی نسب محتمل میں اور ابن عدی نے کامل میں ذکر کیا ہے۔

ابوداؤد نے مراasil میں برداشت بقیہ بن الولید عن عقبہ عن علی بن ابی طلحہ عن کعب اخراج کیا ہے۔ اس حدیث میں الگوچہ انقطع اور ضعف ہے لیکن محقق ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی شاہد ہے۔

اس تحقیق سے کما حق ثابت ہوگیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ و امام محمد رحمۃ اللہ و امام مالک رحمۃ اللہ کا اسلام کو شرعاً احسان سمجھا ہے دلیل نہیں۔

امام شعرانی علیہ الرحمۃ میرزاں ص ۳۴۱ ج ۲ میں امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ کے اس قول کی وجہ میں بیان فرماتے ہیں :

ان الرجم تطهیر والذمی ليس من اهل التطهير بل لا

يطهرا لا بحرقة من النار۔

یعنی رجم تطهیر ہے اور ذمی کافر اہل تطهیر ہے نہیں بلکہ وہ بجز اگل میں جلنے کے

ظاہر نہیں ہوگا۔

ہم سچے ثابت کر جکے ہیں کہ رجم کے لیے محسن ہونا شرط ہے اور محسن ہونے کے لیے اسلام کا شرط ہونا حضور علیہ السلام کی قولی حدیث سے ثابت ہے کما مرتضیٰ ثابت ہوا کہ کافر زانی کے لیے رجم نہیں سمجھی مذہب ہے امام غلط و امالمک رحمہ اللہ علیہما کا۔ اب یہ کہنا کہ امام صاحب کایہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ صریح غلط ہے۔ بلکہ جو لوگ محسن ہونے میں اسلام کو شرط نہیں سمجھتے۔ کافروں کو بھی رجم کا حکم سمجھتے ہیں۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تصریح خلاف کرتے ہیں یعنی نے حدیث ابن عمر کی بتاویل کی ہے کہ اس میں احسان قذف مراد ہے۔ بالکل بے دلیل ہے۔ میرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے محسن ہونے کی مطلقاً فتنی فرمائی ہے۔ احسان قذف ہو یا احسان رجم۔ دونوں میں اسلام شرط ہے۔

## ایک شبہ اور اُس کا جواب

اب رہایشؑ کہ اگر احسان رجم میں اسلام شرط تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میہودی اور میہودیہ کو کیوں سنگسار کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میہودیوں کو رجم کا حکم فرمانا تو رات کے حکم سے تھا۔ تاکہ ان کو الزام دیا جائے ہی یہے ان کی کتاب کا حکم ان پر جاری کیا گیا۔ علاوہ اسکے یہ فعل کی حکایت ہے جس کو عموم نہیں ہوتا۔

امام زرقانی نشرح موطا میں فرماتے ہیں:

قال المالکية واكثر الحنفية انه شرط فلا يرجم كافر  
واجابوا عن الحديث بايه صلی اللہ علیہ وسلم انما رجم ما  
يحكم التورۃ تنفيذ الحكم علیہم بما في كتابہم وليس  
هو من حكم الاسلام في شيء وهو فعل وقع في واقعه

## حال عینیة محتملة لادلالہ فیہا علی العموم ف کل کافر۔

اسی طرح طحاوی نے ص ۲۰۷ میں اور علی قاری نے شرح منظایم لکھا ہے  
علاوہ اس کے جب حصہ علیہ السلام نے یہودیوں کو رجم کا حکم فرمایا اس وقت اگرچہ  
رجم موافق شرع متحا مگر احسان میں اسلام شرط نہ تھا۔ جب حدیث من اشرک بالله  
فلیس بمحضن۔ فرمائی تو اسلام شرط ہوا۔ چونکہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض  
معلوم ہوتا ہے۔ تقدم تا خر کی تاریخ معلم نہیں تو لا محالہ ایک کو دوسرا یہ ترجیح دی  
جائے گی۔ اور کسی منزح کی تلاش کی جائے گی۔ پس حدیث رجم یہود فعلی ہے۔ اور حدیث  
مفید اشتراط اسلام قولی ہے اور اصول حدیث کامل اصول ہے کہ جب قولی اور فعلی  
میں تعارض ہو تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث مفید اشتراط اسلام جو قولی  
ہے اس کو ترجیح ہوئی۔

علاوہ اس کے حدود میں بوقت تعارض دافع کو ترجیح ہوئی ہے۔ تو حدیث قولی  
دافع ہے جو بحکم حدیث ادرا المحدود بالشبهات درہ حدود کی موجبت ہے۔ حدیث  
فعلی دافع نہیں تو حدیث قولی مقتضم ہوئی۔

شیخ ابن البہام نے فتح القدیر میں اور علی قاری نے مرقاۃ میں اسی طرح  
لکھا ہے۔

علامہ عبدالجعف تعلیق المجد ص ۳۵ میں فرماتے ہیں:

فالصواب ان يقال ان هذه القصة دلت على عدم اشتراط  
الاسلام والحديث المذكور دل عليه والقول مقدم على  
ال فعل مع ان في اشتراطه احتياطا وهو مطلوب في  
باب الحدود كذا حققه ابن البہام في فتح القدیر وهو

تحقيق حسن الا انه موقوف على ثبوت الحديث المذكور  
من طريق يحيى به انتهی اقلت قد ثبت الحديث ثبوتا  
لامره له كما بینا ان فالحمد لله على ذلك -

امید ہے کہ ناظرین کو اس تحقیق سے ثابت ہو گیا ہو گا۔ کہ امام عظیم رحمہ اللہ کا  
عمل ہرگز احادیث صحیح کے برخلاف نہ تھا۔ مخالفین کے جملہ اختراضات حدیاً عداوت  
یا قلت فقاہت پر مبنی ہیں۔ واللہ اعلم و علمکم -

### اعتراض

ابن ابی شیبہ نے چند احادیث لکھی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے شترخالوں میں نماز پڑھنے سے ہنسی فرمائی ہے اور لکھا ہے کہ ابوحنیفہ کہتے  
ہیں کہ کوئی مضافات نہیں -

### جواب

میں کہتا ہوں بخاری و مسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے  
اپنے پانچ چیزوں اپنے خصائص میں بیان کیں اور فرمایا کہ محمد سے پہلے کسی بنی کو عطا نہیں  
ہوئیں۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ  
جعلت لی الارض مسجداً و طہوراً و ایما رجل من امتی ادركته  
الصلوة فليصل - الحديث -

اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہور بنائی ہے۔ میری امت کا ہر  
شخص جس جگہ نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے۔

یہ حدیث اپنے عوام میں شترخالوں کو بھی شامل ہے۔

علامہ علی بن عمدة القاری شرح صحیح بخاری کے ص ۳۷۶ ج ۲ میں فرماتے ہیں :  
قال ابن بطال فدخل في عموم هذه المقابر والمرابض

والکنائس وغیرہا۔

لیعنی ابن بطال فرماتے ہیں کہ حدیث کے عموم میں قبرستان و مرائب غسل و غنم و کنائس وغیرہ سب داخل ہیں۔

اب اس حدیث اور حدیث لا تصلوا میں تعارض ہوا۔ علامہ ابن حجر منح الباری شرح صحیح بخاری ص ۲۴۲ ج ۲ میں اس تعارض کو اس طرح رفع فرماتے ہیں،

لکن جمع بعض الانئمة بین عموم قوله جعلت لی الارض  
مسجد او طہوار و بین احادیث الباب رکے احادیث النبی  
بحملہا علی کراہۃ التنزیہ وهذا اولی و ائمۃ اعلم

لیعنی احادیث نبی اور حدیث جعلت لی الارض میں بعض انہیں اس طرح  
تطبیق دی ہے کہ احادیث نبی کراہۃ التنزیہ پر محول ہیں ابن حجر فرماتے ہیں یہ جمع اولی ہے  
معلوم ہوا کہ شترخانوں میں نماز پڑھنے کی نبی میں جو حدیثیں آئی ہیں۔ ان میں نبی تنزیہ  
مراد ہے۔

پھر ص ۲۲۵ ج ۲ میں حدیث جعلت لی الارض کی شرح میں فرماتے ہیں۔

و ایجادہ له همذا یحتمل ان یکون ارادان الكراہۃ فی الابواب

المتقدمة لیست للتحريم لعموم قوله جعلت لی الارض

مسجد ای کل جزء منها يصلح ان یکون مکانا للسجود و يصلح

ان یبینی هنید مکان للصلوة و یحتمل ان یکون ارادان الكراہۃ

فیما للتحريم و عموم حدیث جابر مخصوص بها والاول

اولی لان الحديث سبق فی مقام الامتنان فلا یبینی تخصیصه الا

حافظ صاحب لے اس کلام میں ایک شہر کی تزیید فرمائی۔ کہ بخاری نے اس حدیث کو اس  
مقام میں کیوں ذکر کیا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہیاں ذکر کیا ہو رابا وجود یک اسی سن

اور لفظ اور معنی کے ساتھ اوائل کتاب التیم میں ذکر کرچکے ہیں، کہ سخاری نے اس بات کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا ہو کہ ابواب متقدمة میں جو کراہت الصلة کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کراہت تحریکی مراد نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے لیے سب زمین مسجد و طہور بنائی گئی ہے علم ہے لیعنی زمین کی ہر جز اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ بجدا کے لیے مکان ہو یا نماز کے لیے مکان بنایا جائے۔ اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ کراہت تحریکی کا ارادہ ہو۔ اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع مخصوص ہوں۔

لیکن ابن حجر نے اس احتمال کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ پہلا احتمال اولیٰ ہے لیعنی حادیث نہیں میں کراہت تحریکی مراد نہیں۔ تفسیری ہے اس لیے کہ حدیث جعلت لی الارض مقام امتحان میں ہے۔ لیعنی حضور علیہ السلام اس حدیث میں اللہ جعل شانہ کا احسان اور منت بیان فرمائے ہیں کہ میرے لیے سب زمین مسجد بنائی گئی۔ تو اس میں تخصیص کرنا مقام امتحان کے مناسب نہیں۔ اس لیے تخصیص نہ چاہیئے۔ اسی عبارت سے صاف ثابت ہوا کہ احادیث نہیں ہیں ہنی تفسیری ہے تحریکی نہیں۔

علام عینی محدث الفاری شرح صحیح سخاری ص ۲۴۳ ج ۲ میں فرماتے ہیں  
و ایجاد هذالباب عقیب الابواب المتقدمة اشاره الى ان  
الکراهة فيما ليست للتحريم لأن عموم قوله صلی اللہ علیہ  
وسلم جعلت لی الارض مسجد او طہور ایدل على جواز الصلة  
على ای جزء کان من اجزاء الارض انتہی۔

اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ احادیث نہیں میں کراہت تحریکی مراد نہیں۔  
امام نووی شارح مسلم ص ۱۰۰ ج ۱ میں فرماتے ہیں:

وَامَا ابْلَحَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي مَرَابِعِ الْغَنْمِ  
دُونَ مَبَارِكِ الْأَبْلَلِ فَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَنْ مَبَارِكِ الْأَبْلَلِ

وهي اعطانها نهى تزريه وسبب الكراهة ما يخالف من  
ذمارها وتهويتها على المصلى انتهى -

یعنی حضور علیہ السلام کا بجزیوں کے بارے میں نماز کی اجازت دینا اور انہوں  
کے بیٹھنے کی جگہ دینااتفاقی مسئلہ ہے۔ اور انہوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی  
ہنسی ہنسی تزیری بے سبب کراہت و خوف ہے جو نمازی کو ان کے بھاگنے اور برائحت  
ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

اس عبارت سے علاوہ اس بات کے کثرت خانوں میں نماز کی ہنسی تزیری ہے  
یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مرا بعض غنم میں اجازت اور مبارک ابل میں ہنسی اتفاقی ہے یعنی  
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ شتر خانوں میں نماز کی کراہت کے قائل ہیں۔

سرارج المنیر شرح جامع الصغیر ص ۳۸۶ ج ۲ میں ہے :

والفرق ان الابل كثيرة الشرا فتشوش قلب المصلى  
بعخلاف الغنم والنوى للمتزريه  
لمعات شرح مشكواة میں ہے :

اعلم انهم اختلفوا في النوى عن الصلة في المواتر  
السبعة انه للتحريم وللتزريه والثانى هو الاصح  
رجاشير مشكواة ص ۴۲

علام علیی عمدۃ القداری ص ۳۷۲ ج ۲ میں لکھتے ہیں :

وجواب اخیر عن الاحاديث المذكورة النوى فيها للتزريه  
كمان الامر في مرا بعض الغنم للاباحة وليس للوجوب اتفاقا  
ولا للندب - انتهى

یعنی احادیث ہنسی کا ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ ہنسی تزیری ہے کہ مرا بعض غنم میں نماز پڑھنے کا

اما باحت کے لیے ہے۔ وجوب اور نہب کے لیےاتفاقاً نہیں۔  
اس تحقیق سے محقق ہو گیا کہ احادیث ہنی میں ہنی تنزہی مراد ہے جس کا مفاد  
یہ ہے کہ نماز پڑھ لینا جائز ہے لیکن مکروہ۔ یہی صحیح ہے۔ ہنی کی علت نجاست  
نہیں کیونکہ مرا بعض غنم میں بھی اسی قسم کی نجاست موجود ہے البتہ اس ہنی کی علت  
انها خلقت من الشیاطین۔ منصوص ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز  
نہیں کہ اونٹ شیاطین کی نسل سے ہیں اس لیے ان کا نماز میں سامنے ہونا ہی  
مفسد نماز ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام اونٹ کو سامنے  
ستھے بنائے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نوافل اونٹ بہر  
سواری کی حالت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ مطلب یہ ہے کہ اونٹ کثیرہ الشراد  
ہیں ان کے بھاگنے اور پرائندہ ہونے سے نمازی بے من نہیں ہوتا اس کا دل تقشوش  
رہتا ہے۔ اس لیے نمازوں مکروہ ہوئی۔ بنی کہ ہوتی ہی نہیں کیونکہ یہ ہنی نماز کے  
واسطے نہیں بلکہ نمازی کے واسطے ہے کہ اس کو ضرر نہ پہنچے اس لیے شتر خانہ میں  
نماز جائز مع الکراہت ہوئی۔

جب حدیث ہنی کی مراد عند المحدثین بھی ثابت ہوئی کہ ہنی تنزہی ہے اور نماز  
جائز مع الکراہت ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کا اس بارہ میں کیا  
مزہب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ شتر خانہ میں نماز  
مکروہ ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گی۔

چنانچہ عالمگیری ص ۸۰ ج ۱ میں ہے۔

و يکرہ الصلوة في تسعة مواطن في قوارع الطريق ومعاطن

الابل الخ

در مختار ص ۱۳۴ میں ہے:

وَكَذَا تَكُرُهُ فِي اِمَاكِنِ كَفُوقِ كَعْبَةِ (الْىَخْرَاقَلْ) وَمَعَاطِنِ  
اَبْلِ الْحَنْجَرِ

مَرَاقِي الْعَنْدَلَاجِ مِنْ هِيَّا:

وَتَكُرُهُ الْصَّلُوةُ فِي الْمَقْبَرَةِ وَامْتَالِهَا لَا نَرْسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا ان يَصْلِي فِي سَبْعَهُ مَوَاطِنٍ  
فِي الْمَزَبْلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَفِي الْحَمَامِ وَمَعَاطِنِ الْاَبْلِ.

ان حوالجات سے ثابت ہوا کہ فقہ حنفیہ میں شترخالوں میں نماز مکروہ لکھی ہے  
جو امام صاحب کا مذہب ہے بلکہ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔  
چنانچہ امام شعرانی میزان ص ۱۳۵ ج ۱ میں فرماتے ہیں:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْاَمَامِ ابْنِ حُنَيْفٍ وَالشَّافِعِيِّ بِصَحَّةِ الْصَّلُوةِ  
فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْهَى عَنِ الْصَّلُوةِ فِيهَا مَعْكَرَةُ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ

**مالک** -

اور رحمۃ الاممۃ فی اختلاف الائمه میں جو میزان کے حاشیہ پر مطبوع ہے  
لکھا ہے:

اَخْتَلَفُوا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْهَى عَنِ الْصَّلُوةِ فِيهَا هُلْ بَتَطَلُّ  
صَلُوةٌ مِنْ صَلَّى فِيهَا فَقَالَ ابْوُ حُنَيْفٍ هِيَ مَكْرُوہَةٌ وَ  
اِذَا صَلَّى فِيهَا صَحِّتَ صَلْوَتُهُ وَقَالَ مَالِكُ الصَّلُوةُ فِيهَا  
صَحِّيْحَةٌ وَانْ كَانَ ظَاهِرَةً عَلَى كَرَاهَةِ كَانِ النِّجَاسَةَ  
قَلَ ان تَخْلُو مِنْهَا غَالِبًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الصَّلُوةُ فِيْقَاصِحِيْحَةٌ  
مَعَ الْكَرَاهَةِ - انتہی -

پھر اس کے آگے صاحب رحمۃ الامم نے ان مواضع میں سے شتر خانہ کو مجھی  
شمار کیا ہے تو نسبت ہو اکر علاوہ مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ کے امام شافعی و امام  
مالك کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام نووی و ابن حجر کا بھی یہی مذہب ہے کامر بلکہ  
جمہور علماء اسی طرف ہیں۔

علامہ علینی شرح بخاری ص ۳۶۲ ج ۲ میں لکھتا ہے۔

قوله عليه السلام جعلت لى الارض مسجد او ظهورا  
فعمومه يدل على جوان الصلة في اعدان الابل وغيرها  
بعد ان كانت ظاهرة وهو مذهب جمهور العلماء واليه  
ذهب البونيفي ومالك و الشافعى والبويوسف ومحمد  
واخرون۔ انتهى۔

پھر آگے فرماتے ہیں:

وحمل الشافعى وجمهور العلماء النبى عن الصلة في  
معاطن الابل على الكراهة۔

یعنی شافعی اور جمہور علماء نے شتر خانوں میں نماز پڑھنے کی ہنسی کو کراہت  
پر حمل کیا ہے۔ یعنی تحریکی مراد ہنیں لی۔

ابوالقاسم بن نارسی جس نے کتاب الرد علی البی حنفیہ چھپو اکر شائع کی ہے اسی  
نے ایک کتاب ہدایۃ المدحی مؤلفہ وجید الزبان ایسے اہتمام سے چھپوائی ہے جس  
میں انہوں نے اپنے زکم میں قرآن و حدیث سے مستبط مسائل لکھے ہیں۔ اور  
اپنے فرقہ کے واسطے ایک فقہ کی کتاب تیار کی۔ اس کی پانچویں جلد میں جس کا نام  
المشرب الوردي ہے، لکھا ہے۔

وماعلم ان النبى عنہ وقع لاجل المصلى ولث زیب

صدر کا الصلوٰۃ فی معاطن الابل فان یقین الضرر حرمت  
علیہ الصلوٰۃ فیہ ولکن لوصلی فمع ذلك صلوٰۃ صحیحة  
کان النہی لیس لخصوص الصلوٰۃ و ان یتلقن عدم الضرر  
فلا باس بالصلوٰۃ فیہ -

لیعنی جو معلوم کیا جائے کہ ممانعت نمازی کے واسطے ہے تاکہ اس کو ضرر نہ پہنچے  
جیسے شترخانوں میں نماز پڑھنا تو ایسی جگہ یہ حکم ہے۔ کہ اگر صدر کا یقین ہو تو اس جگہ نماز  
پڑھنا حرام ہے لیکن اگر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ بنی نمازی کے واسطے تھیں  
نماز کے لیے۔ اور اگر یقین کرے کہ ضرر نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہی نماز پڑھ کے کوئی مضائقہ  
نہیں۔

الحمد لله کہ اس تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ امام اعظم رحمہ اللہ کاظم مہب حدیث کے  
مخالف نہیں لیکن ہم اتنا کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مؤلف کتاب الرد نے مذہب کے نقل  
کرنے میں تحقیق سے کام نہیں لیا۔ اصل مذہب بحکرا مہب تھا وہ نقل نہیں کیا۔ علاوہ  
اس کے صرف امام اعظم رحمہ اللہ کوہی مور د طعن بنایا حالانکہ امام مالک و امام شافعی  
و جہوڑ علام کا یہی مذہب تھا۔ فالی اللہ المشتک -

اعتراض اس نمبر میں ابن الجیش بن شیبہ نے چند حدیثیں لکھی ہیں جن سے ثابت  
ہوتا ہے کہ غینمۃ کے مال سے سوار کے نین حصے ہیں۔ ایک حصہ سوار کا۔ دو اس  
کے گھوڑے کے چھر امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کو مخالف احادیث سمجھ کر لکھا کہ امام  
اعظم نے ران احادیث کے خلاف (فرمایا کہ گھوڑے کا ایک حصہ اور ایک اس کے  
سوار کا)۔

جواب ابو القاسم بن اسی نے کتاب الرد حجہ پوانے کی یہ غرض لکھی ہے کہ لوگوں

کو معلوم ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیم حدیث میں قلیل البضاخت سمجھے۔ مگر خدا کی شان بجائے اس کے کہ امام صاحب کا قلیل البضاخت ہونا ثابت ہوتا خود معتبرین کی قلت فقاہت ثابت ہو رہی ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ کا یہ سُنّۃ بے دلیل نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم والجعف صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسا ہی آیا ہے۔

### پہلی حدیث

خدابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں بسنید صحیح روایت کرتے ہیں :

شنا ابوواسمت وابن نمیر قال شنا عبد اللہ عن نافع  
عن عمرانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفارس  
سمامین وللراجل سهما .

ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے لیے دو حصے دیتے۔ اور پیادہ کو ایک حصہ۔

اس حدیث کو علامہ علینی شرح بخاری ص ۷۰۶ ج ۴ میں اور علامہ ابن ہمام فتح القدير نوکشوری ص ۲۳۷ ج ۲ میں اور دارقطنی ص ۶۹ م میں اپنی سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے۔ نیز دارقطنی نے بروایت نعیم بن حماد عن عہد الشدیں المبارک عن عبد اللہ بن عمر مجھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حماد بن سلم نے مجھی عبد اللہ بن عمر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

### دوسری حدیث

عن مجمع بن حباریتہ قال قسم: خیر علی اهل حدیثہ  
فقسمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانۃ عشر سهما

وكان الجيش الفا و خمس مائة فهم ثلاثة فارس  
فاعطى الفارس سبعين والرجل سهرين رواه ابو داؤد  
ص ۲۹ ج ۳ مع عون العبد.

یعنی اہل حدیث پر خیر کی غنیمت قیم کی گئی رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
امتحانہ حستے کئے ایک ہزار پانچ سو کاٹ سکر تھا جن میں سے یعنی سوار تھے اٹھاڑو  
میں سے چھوٹے حستے تو سواروں کو مل گئے باقی بارہ سو پیارہ رہتے ایک ایک سو کو  
ایک ایک حستہ مل گیا۔

یہ حدیث امام اعظم محمد اللہ کی دلیل ہے۔ اس میں سوار کے لیے دو حصے  
اور پیارہ کے لیے ایک حصہ ہے اور یہی قول ہے امام علیہ الرحمۃ کا۔

یہ حدیث فتح القدير ص ۲۳۳، ونصب الرایہ ص ۱۳۵ میں بھی ہے۔

علامہ زیلیق فرماتے کہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں طبرانی نے مجمیع ابن  
ابی شیبہ نے مصنف میں وارقطنی اور سہیقی نے اپنے اپنے سنن میں حاکم نے مستدرک  
میں روایت کیا ہے اور حاکم نے اس پر سکوت کیا ہے۔

علامہ ابن الترکماج جواہر الفقی ص ۴۰ ج ۲ میں اس حدیث کے متعلق

فرماتے ہیں،

هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال  
حدث ثانية صحيحة الاستناد مجمع بن يعقوب  
المعروف قال صاحب المکال روی عن القعبي وشیخی  
الوحاظی و اسماعيل بن ابی اوس ویونس المؤذب والبو  
عامر العقدی وغيرهم وقال ابن سعد توفی بالمدينتة  
وكان ثقة وقال ابو حاتم وابن معین ليس به باب

وروی لہ ابو داؤد والنسائی انتہی۔ و معلوم ان بن معین  
اذا قال ليس به باس فهو توسيق۔

یعنی اس حدیث کو حاکم نہ متذر ک میں روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ صحیح الاسناد ہے  
اور مجع بن یعقوب معروف ہے صاحب کمال فرماتے ہیں کہ مجع سے قبضنی اور یک جی  
و حاظی و اسماعیل بن ابی اوس ولیس مذوب والب عام عقدی وغيرہم نے روایت  
کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ میں فوت ہوا اور ثقہ تھا ابو حاتم وابن معین کہتے ہیں کہ  
اس کا کوئی ذرہ بھی ابو داؤد ونسائی نے اس کی روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ ابن  
معین جب لیس بہ باس کہتا ہے تو یہ لفظ اس کی اصطلاح میں توثیق ہوتی ہے۔  
ابن حجر تقریب میں صدقہ لکھتے ہیں۔ ابن ہمام نے فتح القدر میں اس کو  
ثقة کہا اس کا باپ یعقوب بن مجع کو حافظ ابن حجر نے تقریب میں مقبول لکھا ہے  
تهذیب التہذیب میں فرماتے ہیں:

یعقوب بن مجع بن یزید بن جاریۃ الانصاری  
المدنی روی عن ابیه و عمه عبد الرحمن و عنہ ابته  
مجع و ابن اخیہ ابراهیم بن اسماعیل بن مجع  
و عبد العزیز بن عبید بن حبیب ذکرہ ابن حبان  
فی الشفات۔

اس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ علاوہ اس کے بیٹے مجع  
اوے ابراهیم اور عبد العزیز نے بھی اس سے روایت کی ہے تو اعتراض جہالت  
ج ہو گیا۔

## تیسرا حدیث

مجمع طبرانی میں مقداد بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ بدر کے دل ایک گھوڑے پر تھا جس کو سجور کہا جاتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو حصے دیئے۔ لفڑ سہم واحد فلہ سہم۔ ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ گھوڑے کا (فتح القدير جلد ۲ ص ۴۳۷، نصب الرایہ جلد ۲ ص ۱۳۵ عینی ص ۴۰۶ جلد ۲)

## پچھی حدیث

وأقدي في مغازى میں حبیر بن خارجه سے روایت کیا ہے۔

قال قال الزبیر بن العوام شهدت بنی قریضه فارسا

فضرب لم سهم وللفرس سهم.

زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں بنو قریضہ میں سوار حاضر ہوا تو مجھے دو حصے

ذیشے گئے۔ ایک میر ایک میرے گھوڑے کا۔ (فتح القدير عینی زیلی)

## پانچوں حدیث

ابن مرویہ تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لایا ہے:

قالت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبایا بنی

المصطلق فاخراج الخمس منها ثم قسمها بین

ال المسلمين فاعطى الفارس سه مین والراجل سه معا

بنی المصطلق میں سبایا میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمس نکال کر

باقي کو مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ سواروں کو دو حصے دیئے اور پیادہ کو ایک۔

(فتح القدير عینی زیلی)

## چھٹی حدیث

دارقطنی اپنی کتاب موتکلف و مختلف میں ابن عمر سے روایت کرتا ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم للفارس سہ مہین و للراجل سہما۔

کہ حضور علیہ السلام سوار کو دو حصے پیادہ کو ایک حصہ تقیم فرمایا کرتے تھے۔  
(فتح القدير)

## سالتوں میں حدیث

امام محمد نے آثار میں بروایت امام ابوحنیفہ منذر سے روایت کیا ہے: قال بعثہ عمر فی جیش الی مصر فاصابوا عنانم فقسم للفارس سہ مہین و للراجل سہما فرضی بذلك عمر۔

منذر کو حضرت عمر نے ایک شکر میں مصر کی طرف بھیجا وہاں ان کو غنیمت کا مال ملا تو سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ اہنوں نے تقیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تقیم پر راضی ہوئے۔

یہ چند حدیثیں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے دلائل سے لکھی گئی ہیں۔ یہی یہ بات کہ ابن ابی شیبہ نے جو احادیث لکھی ہیں جن میں سوار کو تین حصے دینے کا ذکر ہے ان کے جواب میں علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ایک حصہ لبطور تنقیل تھا۔ اس صورت میں سب حدیثوں کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ تو دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ایک کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ یعنی اصل سوار کے دو حصے اور پیادہ کا ایک۔ لیکن کبھی سوار کو لبطور عطیہ نفل ایک حصہ زائد دیا جائے تو درست ہے۔

چنانچہ آپ نے سلمہ بن اکوع کو باوجود پیادہ ہونے کے دو حصے دیتے۔ حالانکہ ان

کا استخفاف ایک حصہ تھا۔ واللہ اعلم والبسط فی المطولات ۰

### اعتراض

ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف نہ لے جائے۔ مباداً کہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جانے اور ابو عینیف کہتے ہیں کہ کوئی ڈر نہیں۔

### جواب

میں کہتا ہوں کہ امام اعظم رحمہ اللہ کا یہ مذہب نہیں جو ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ مطلقاً لا باس بہ نہیں فرماتے بلکہ وہ اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ اگر کچھ چھوٹا ہو تو منع ہے۔ کوئی شخص قرآن شریف اپنے سہراہ نہ لے اگر شکر بڑا ہو جس میں کفار کے غلبہ کا ڈر ہو تو قرآن شریف کے لے جانے میں کوئی ڈر نہیں۔ اس حدیث میں جو لفظ مخالفۃ ان نیالہ العدو ہے یہ ہنی کی علت ہے جنور علیہ السلام نے ممالک کی علت بھی بیان فرمادی۔ کہ ہنی اس خوف کے لیے ہے کہ قرآن شریف دشمنوں کے ہاتھ نہ آجائی۔ کہ وہ اس کی توہین کریں۔ تو شکر عظیم ہنے کے سبب یہ علت پائی نہیں جاتی اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ شکر عظیم ہو تو کوئی ڈر نہیں۔ ہماری شریفیت میں ہے۔

لَا بَاسُ بِأَخْرَاجِ النَّاسِ وَالْمُصَاحَفِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ عَسْكَرًا

عَلَيْهَا يَوْمٌ عَلَيْهِ لَانَ الْغَالِبُ هُوَ السَّالِمُ وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحْقِنِ

وَيَكْرِهُ أَخْرَاجَ ذَلِكَ فِي سُرْيَا لَا يَوْمٌ عَلَيْهَا -

در مختصر میں ہے :

وَنَهِيَنَا عَنِ اخْرَاجِ مَا يَحْبُبُ تَعْظِيمَهُ وَلَيَحْرُمُ الْإِسْتَخْفَافُ بِهِ

كَمْصَحَفٍ وَكَتَبٍ فَقَهَ وَحِدِيثَ وَأَمْرَأَةً وَلَوْعَجَزَ الْمَدَأَوَةَ

وهو الاصح آگے فرمایا الافی جیش یومن علیہ فلا کراحتہ .  
حاصل ترجمہ ان دونوں عبارتوں کا یہ ہے کہ قرآن مجید تمہارے لئے کر کافروں کے  
ملک میں سفر کرنا منع ہے۔ البته اگر شکر بڑا ہو جس پر کفار کی طرف سے سلطنتی دامن  
کاظن غالب ہو تو کوئی ڈر نہیں ۔

علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں  
فیہ النہی عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفار للعلة  
المذکورة في الحادیث وھی خوف ان یینالوھ فیتھ کو احرمة  
فان امانت هذه العلة بان يدخل في جيش المسلمين  
الظاهرين عليهم فلا کراحتہ ولا منع عنه حينئذ عدم  
العلة هذا هو الصیح و به قال ابو حنيفة والبغاری  
وآخرون ۔

کہ جو علت آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر یہ نہ ہو یعنی  
مسلمانوں کا شکر عظیم ہو جو کفار پر غالب ہوں تو کوئی ممانعت نہیں اور یہی صحیح ہے  
امام ابوحنیفہ و امام بخاری و دیگر (محدثین) اسی کے قائل ہیں۔ اس قول سے معلوم  
ہوا کہ اس مسئلہ میں امام اعظم رحمہ اللہ منفرد نہیں۔ بلکہ امام بخاری نووی شافعی  
و دیگر محدثین بھی اسی کے قائل ہیں۔

اب دیکھے حضرات غیر مقلدین امام بخاری و شافعی و دیگر محدثین کو بھی  
مخالفت حدیث کا الزام لگاتے ہیں یا صرف امام اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ  
ہی کچھ حسد ہے؟

امام بخاری صحیح میں لکھتے ہیں:  
و قد سافر النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی ارض

العد و هم يعلمون القرآن -

یعنی حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کافروں کے ملک میں جاتے تھے اور وہ قرآن جانتے تھے۔

بعض روایتیں یہیں یعلموں القرآن بالمشدید آیا ہے یعنی صحابہ کرام ملک کفار میں سفر کرتے اور وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ سب کو حفظ توانہ ممکن ہے کہ بعض صحابہ کے پاس قرآن لکھا ہوا ہو۔ اگرچہ بعض ہی ہوا اور وہ اس صینے سے پڑھاتے ہوں تو بخاری نے استدلال کیا ہے کہ جب لکھنے ہوئے سے پڑھانا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اسے لے جانا بھی جائز ہے۔ جب کہ شکر مانوں ہو۔

علامہ یعنی فرماتے ہیں:

وقد يمكن عند بعضهم وصحف فيها قرآن يعلمون منها  
فاستدلّ البخاري انهم في تعلمهم كان فيما من يتعلم بكتاب  
فلما حازله تعلمه في ارض العدو بكتاب ولغير كتاب كان  
فيه اباحة لحمله الى ارض العدو اذا كان عسكراً مامونا  
وهذا قول أبي حنيفة المز (ص ۲۲ جلد ۲ عمدة القاري)

علامہ ابن حجر فتح الباری ص ۱۰۹ ج ۱۲ - میں لکھتے ہیں:

وادعى المهلب ان مراد البخاري بذلك تقوية القول بالحقيقة  
بین العسکر الكثير والطائفۃ القليلة فيجوز ف  
تلك دون هذه - والله أعلم

یعنی مہلب کہتے ہیں کہ بخاری کی اس قول سے مراد اس قول کی تقویت ہے جس میں شکر کثیر و قلیل کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ یعنی شکر کثیر میں مسافت بالقرآن دشمنوں کے ملک میں جائز اور قلیل میں ناجائز۔ یہیں کہتا ہوں امام اعظم علیہ الرحمۃ

کا یہی مذہب ہے جس کی امام بخاری نے بقول مہلب تقویت کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر قل کی طرف خط لکھنا اور اس میں قرآن شریف کی آیات کا لکھنا بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

ابن عبد البر فرماتے ہیں:

اجمع الفقهاء ان لا يسا فهو بالمصحف في السرايا والعسكر  
الصغرى المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون  
عليه فمنع مالك ايضاً مطلقاً وفصل أبو حنيفة  
وادر الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً  
يعنى بچھوٹے لشکر او سرایا میں بکر کفار کی طرف سے قرآن شریف کی اہانت کا خوف ہو تو قرآن شریف تمہراہ نہ لیا جائے اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔ (معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ بھی مستنقی ہیں) اور اگر لشکر بڑا ہو جس پر کفار کے غلبہ کا خوف نہ ہو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک تو مطلقاً منع فرماتے ہیں لشکر بڑا ہو یا بچھوٹا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ بڑے میں درست ہے۔ بچھوٹے میں نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ مقید فرماتے ہیں لیعنی اگر خوف ہو کہ قرآن شریف کی حرمت میں فرق آئے گا۔ تو منع۔ ورنہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ مطلقاً اجازت نہیں دی۔ واللہ اعلم

اعتراف ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نعماں بن بشیر کے باپ نے ان کو ایک غلام دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کرنے کے لیے گئے۔ تو اپنے نے پوچھا کہ مہر ایک بچپن کو اس قدر دیا ہے اس نے کہا نہیں تو فرمایا کہ واپس لے لے ایک روایت میں ہے فرمایا خدا سے ذرہ اور اپنی اولاد میں

سادات کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ میں ظلم اور بے النصافی پر گواہی نہیں کرتا۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ کا قول اس حدیث کے خلاف سمجھ کر لکھتے ہیں و ذکر ان ابا حنیفہ قال لاباس بہ۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ سے مذکور ہے کہ اس میں کوئی ڈر نہیں۔

### جواب

میں کہتا ہوں حافظ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب مفصل بیان کر دیتے تو یقین ہے کہ مغالطہ نہ لگتا۔ اس پر تعجب یہ ہے کہ یہ مثلہ جس کو ابن ابی شیبہ خلاف حدیث سمجھتا ہے۔ نہ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب ہے۔ بلکہ جہوڑ محدثین اسی طرف ہیں۔ مگر ابن ابی شیبہ میں کہ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ کا نام یتھے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ کی تحریر کافی سمجھتے ہیں جو انہوں نے شرح صحیح سلم ص ۳ جلد دوم میں لکھا ہے فرماتے ہیں:

فلو فضل بعضهم او وہب لبعضهم دون بعض فمذہب  
الشافعی ومالك وابی حینیفة انه مکروه وليس محرام  
والہبة صحیحة وقال طاؤس وعروه ومجاهدو  
الثوری واحمد واسحق وداؤد هو حرام واحتاجوا  
برعاۃ لا شہد علی جور و بغيرها من الفاظ الحديث  
واحتاج الشافعی وموافقه لقوله صلی الله علیه  
وسلم فاشهد علی هذا عینی قالوا ولو كان حراما  
او باطل لما قال هذا الكلام فان قيل قاله تهدیدا  
قلنا الاصل في كلام الشارع عین هذا او يتحمل عند  
اطلاقه صيغة ا فعل على الوجوب او الندب فان تعذر

ذلك فعلى الإباحة . واما قوله صلى الله عليه وسلم  
لا شهد على جور فليس فيه انه حرام لأن الجور هو  
الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن  
الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاً وقد وضحت  
بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم لا شهد على  
هذا غيري دليل على انه ليس بحرام فيجب تاويل الجوء  
على انه مكروه كراهة تزريه وفي هذا الحديث ان  
هبة بعض الاولاد دون بعض صحيحه وأنه ان لم  
يذهب الباقيين مثل هذا استحب رد الاول انتهى ما قال  
النوفى .

يعنى اگر بعض کو بعض پر فضیلت دے یا بعض کو کچھ سبہ کرے بعض کو  
نہ کرے تو امام شافعی و مالک و ابو حینفہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ  
ہے حرام نہیں اور سبہ صحیح ہوگا۔ طاؤں و عزوہ و مجاہد و ثوری و احمد و  
اسحاق و داؤد کہتے ہیں کہ حرام ہے ان کی دلیل روایت لا شهد على  
جور وغیرہ الفاظ حدیث ہے۔ امام شافعی اور ان کے موافقین  
(مالک و ابو حینفہ) کی دلیل حدیث فاشهد على هذا غيری ہے  
یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سوا کسی اور کو وہ بنالے کہتے  
ہیں اگر سبہ حرام یا باطل ہے تو آپ ایسا نہ فرماتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ  
آپ نے تہذید فرمایا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ شارع کی کلام میں تہذید  
اصل نہیں۔ حضور علیہ السلام کا صیغہ امر سے ارشاد فرمان و وجوب یا  
ندب پر متحمل ہوگا۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو باہت پر۔ معلوم ہوا کہ حضور

کا یہ امر کہ میرے سوا کسی اور کو گواہ بنانے اگر وجوہ یا استحباب کے لیے نہیں تو لا محال اباحت کے لیے ہو گا۔ اور حضور علیہ السلام کا لا اشہد علی جو در فرمانا اس کی حرمت پر دلیل نہیں کیونکہ جو در کے معنی میل کے ہیں یعنی جھکنے کے۔ جو چیز حد اعتماد سے جوک جائے اسے جو در کہتے ہیں حرام ہو یا مکروہ۔ اور ہم سچے لکھ آئے ہیں کہ حضور کا اشہد علی هذَا غَيْرِي فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ حرام نہیں تو جو در کی تاویل کراہیت نظریہ سے لازم ہوئی اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ بعض اولاد کو ہبہ کرنا بعض کو نہ کرنا صحیح ہے۔ اگر دوسروں کو اس کی مثل ہبہ نہ کرے تو پہلے سے واپس لے لینا مستحب ہے۔

امام نووی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہبہ کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ البتہ حرام نہیں کہتے۔ لیکن ابن الی شیبہ نے امام صاحب کا قول اس طرح نقل کیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسا ہبہ کرنا بلکہ کراہیت جائز ہے۔

اور نووی کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شافعی بھی اسی طرف ہیں لیکن ابن الی شیبہ نے صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نام لیا۔ بلے شک حمدُ ربِی بلا ہے۔ اور کراہیت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہیں۔ ولنتم باقیل فی شانہ ۷

### حَسْدُهُ الْفَتْنَى اذْلَمُ بَيْنَابَاشَانَةٍ

### القوم اعداء له و خصوم

یہ بھی معلوم ہوا کہ اسی حدیث کے الفاظ سے ہبہ کی صحت ثابت ہوتی ہے مگر افسوس کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ پر حدیث کی مخالفت کا تو الزام لگایا جاتا ہے مگر خود

حدیث کے الفاظ میں غور نہیں کیا جاتا۔ بے شک فقاہت اور حیزب ہے اور حدیث  
دانی اور حیزب رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ایسے ہی واقعات کی خبر دی ہے۔ (فِدَاهُ أَبْنَى وَأَمْيَّ)

علامہ علینی شرح صحیح بخاری میں اور حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:

وَذَهَبَ الْجَمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحْبَةٌ فَإِنْ فَضَلَ

بِعَصْاصِحٍ وَكَرِهَ وَهُمُولُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ وَالنَّهَى

عَلَى التَّنْزِيهِ -

کہ جمہور محدثین اسی طرف گئے ہیں۔ کہ برابری مسخر ہے۔ اگر بعض اولاد کو  
بعض پر عطیہ میں فضیلت دی تو صحیح ہے لیکن مکروہ ہے۔ ان محدثین نے امر کونڈب  
پر اور نہیں کو تنزیہ پر حمل کیا ہے۔ فاضل شوکافی نے بھی نیل الا وطار میں ایسا ہی لکھا ہے  
علامہ علینی نے اس مقام پر جمہور کی طرف سے اس حدیث کے کئی جواب دیتے  
ہیں۔ مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یعنی عطیہ ابھی نافذ نہیں ہوا تھا۔ صرف بشیر والنعمان حضور  
علیہ السلام کی خدمت میں مشورہ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا۔ تو  
اس نے نہ کیا۔ یعنی ہبہ نام ہونے سے پہلے لطور مشورہ دریافت کیا تو آپ نے منع  
فرمادیا۔

امام طحاوی نے اسی حدیث کو نغان بن بشیر سے روایت کیا ہے جس سے یہی  
معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہبہ نام ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

حدثنی حمید بن عبد الرحمن و محمد بن النعمان انہما

سمعا النعمان بن بشیر يقول نخلنی ابی غلاماً ثم مشى

ابی حتى اذا ادخلنی على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا من ابني

غلام افان اذنت ان اجیزہ لہ اجزت ثم ذکر الحدیث۔

نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے غلام دیا پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے اگر آپ اذن دیں کہ میں اُسے جائز رکھوں تو جائز رکھوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابھی اس نے ہبہ نافذ نہیں کیا تھا۔

صحیح مسلم اور طحا وی میں برداشت جابر صاف آیہ ہے کہ بشیر کی عورت نے بشیر کو کہا کہ میرے بیٹے کو غلام دے۔ تو اُس نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری زوجہ کہتی ہے کہ میں اس کے بیٹے کو غلام ہبہ کروں تو آپ نے فرمایا اس کے اور بھائی بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا سب کو دیا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ اچھا نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس نے ہبہ کرنے سے پہلے سور غلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا تو آپ نے جو اولیٰ بات تھی اس کی ہدایت کی۔

علامہ ابن الترکمانی ص ۳۷ جلد ۲ میں بحوالہ طحا وی لکھتے ہیں:

حدیث جابر اولیٰ من حدیث النعمان لان جابر احفظ له  
واضبط لان النعمان كان صغيراً۔

یعنی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نعمان کی حدیث سے اولیٰ ہے کیونکہ نعمان چھوٹی عمر کے تھے۔ اور جابر ان سے حفظ و ضبط میں زیادہ تھے۔ (جوہر التقی)

خلافہ اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد میں بعض کو بعض پر ہبہ میں فضیلت دی۔ جس سے معلوم ہوا کہ مساوات کا امر نہیں ہے وجوبی نہیں۔

امام طحا وی حضرت عالیٰ شریف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے مال سے غائب میں درخت دیئے جن سے ہر کاشنے کے

وقت میں ورق آمدنی ہو پھر وفات کے وقت فرمائے لگے کہ اے میری بیٹی میرے بعد لوگوں میں سے کسی کا غنڈا مجھے تجھ سے زیادہ محبوب نہیں اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کا فقر مجھے بھاری ہے۔ میں نے تجھے سبیس ورق آمدنی کے درخت ہبہ کئے تھے اگر تو اپنے قبضہ میں کر لیتی تو وہ تیرا مال مخالیکن آج وہ وارثوں کا مال ہے اور وہ تیرے دونوں مجاہانی اور دو بہنیں ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تقدیم کرلو، حضرت عائشہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا سوتا یعنی ماں کثیر ہوتا تو بھی میں (آپ کی رضامندی کے لیے) چھپوڑ دیتی۔ ایک میری بہن تو اسما ہے دوسری کوں ہے فرمایا بنت خارجہ کے بطن میں۔ میں اس کو لڑکی گمان کرتا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ماں سے کچھ ہبہ کیا تھا۔ جو دوسری اولاد کو بہنیں کیا تھا۔ اگر جائز نہ ہوتا۔ تو آپ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسے جائز سمجھا اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حمل کی خبر دی کہ اس میں لڑکی ہے پر ایسے یقین سے کہا۔ کہ عائشہ دو بھائی اور دو بہنیں وارث ہیں۔ چنانچہ حبس حمل کی آپ نے خبر دی وہ خبر صحیح نکلی اور بنت خارجہ نے لڑکی جنی۔ یہ کیا بات تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بہکت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر امور غیریہ منکشف ہو جاتے تھے۔

علامہ علینی و حافظ ابن حجر نے امام طحاوی سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو دوسری اولاد کے سوا ہبہ میں کچھ دیا۔ اسی طرح عبدالرحمن بن عوف نے بعض اولاد کو ہبہ کیا۔ راجحہ الطحاوی)

علامہ علینی و مذکور نے بحوالہ یہی امام شافعی کا قول نقل کیا ہے:

قال الشافعی وفضل عمر رضی اللہ عنہ عاصما بشٹی  
وفضل ابن عوف ولدام کلثوم -

یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاصم کو کچھ عطا فرمایا جو دوسری اولاد کو نہ دیا اور عبد الرحمن بن عوف نے امام کلثوم کی اولاد کو دیا اور عمن اپنی اولاد کو نہ دیا۔

اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ امام عظیم رحمہ اللہ کا یہ سنت حدیث کے خلاف نہیں بلکہ یہی صحیح ہے اور جہوں محدثین کا یہی مذہب ہے۔ واللہ اعلم

اعتراض ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کیا۔ پھر امام عظیم رحمہ اللہ کو اس کے مخالف سمجھ کر لکھا و ذکر ان ابا حنیفہ قال لایباع۔ کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مدبر نہ سجا جائے۔

جواب میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے یہاں بھی امام عظیم رحمہ اللہ کا مذہب مفصل بیان نہیں کیا۔ انہر احادیث کششم اللہ کے نزدیک مدبر و قائم ہے مدبر مطلق و مدبر مقید۔ مطلق وہ مدبر ہے جس کو اس نے کہا ہو کہ جب میں مر جاؤں تو تم آزاد۔ یا تو میرے مرنے کے بعد آزاد۔ یا میں تجھے مدبر کیا یا تو میرا مدبر ہے۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ نہ سجا جائے نہ مہر کیا جائے۔ مدبر مقید وہ ہے جس کو کہا جائے اگر میں اس مرضی سے مر گیا تو تو آزاد یا اگر میں اس سفر میں مر گیا تو تو آزاد یا اگر میں دس برس تک مر گیا تو تو آزاد۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ شرط پانی جائے۔ تو آزاد ہو جلتے گا۔ ورنہ مالک کو جائز ہے کہ اس کو فروخت کر دے۔

مدبر مطلق کی بیج نہ صرف امام عظیم رحمہ اللہ ناجائز فرماتے ہیں بلکہ امام مالک حمدہ

وأكثر علمائے سلف وخلف اسی کے قائل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وحضرت عمر و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن مسعود وزید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے اسی طرح مردی ہے۔ شریح و قنادہ و ثوری و اوزاعی بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن سیرین ابن مسیب زہری نجعی و شعبی و ابن ابی لیلے ولیث بن سعد سب اسی طرف ہیں۔ امام نووی شرح صحیح مسلم ص ۴۵ جلد ثانی میں فرماتے ہیں:

قال ابو حینیفه و مالک و جمہور العلماء، والسلف من الحجازيين والشاميين والکوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدببر۔

یعنی امام ابو حینیف و امام مالک و جمہور علمائے سلف حجازیوں میں سے اور شامیوں کو فیوں میں سے اسی کے قائل ہیں کہ مدببر کو بچنا جائز نہیں۔

شیخ عبد الحمیل کھنونی مؤٹا امام محمد کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

وبه قال مالک و عامرۃ العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين والکوفيين وهو المردی عن عمر و عثمان و ابن مسعود و زید بن ثابت وبه قال شریح و قنادہ و الثوری و الاوزاعی۔

علامہ علیٰ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے ص ۵۰۰ میں فرماتے ہیں:

کرہہ ابن عمر و زید بن ثابت و محمد بن سیرین و ابن المسیب والزہری والشعبی والنخعی و ابن ابی لیلے واللیث بن سعد۔

ان حوالجات سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں امام صاحب منفرد ہیں بلکہ جمہور علمائے محدثین اسی طرف ہیں مگر ابن ابی شیبہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ پر ہی اعتراض

کرتا ہے۔ دوسروں کا نام نہیں لینا۔  
امام مالک موطا میں فرماتے ہیں :

الامر المجتمع عندنا في المدبران صاحبہ لا يبیعه۔

کہ ہمارے نزدیک اجتماعی امر ہے کہ مدبر کو اس کا مالک فروخت نہ کرے۔  
(۱) وارقطنی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے فرمایا رسول کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم نے :

المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حرم من الثلث۔

کہ مدبر نہ بیچا جائے زمہب کیا جائے اور وہ تیرے حضرت سے آزاد ہے۔

(۲) وارقطنی میں بر روایت حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر مردی ہے اندھ کو  
بیع المدبر۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مدبر کی بیع کو مکروہ جانا۔ وارقطنی  
نے پہلی حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن دوسری حدیث کو جو کہ ابن عمر کا قول ہے صحیح  
کہا ہے۔

علام ابن الہام فتح القدير میں فرماتے ہیں :

فعلى تقدير الرفع لاشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابي  
حيينذ لا يعارضه النص البيته لانه واقعة حال لا  
عموم لها وإنما يعارضه لو قال عليه السلام بيع  
المدبر فان قلت ابو جوب تقليده فطا هرو على عدم  
تقليده يجب ان يحمل على السماع لأن منع بيعه على  
خلاف القياس لما ذكرنا ان بيعه مستحب برقه فمنعه  
مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بغير المولى كافي ام  
الولد خلاف القياس فيحمل على السماع۔

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اگر مرفوع مانی جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ پھر تو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر کی بیع کی ممانعت ہو گئی) اور اگر موقوف مانی جائے۔ (جیسا کہ دارقطنی نے لکھا ہے) تو اس وقت قول صحابی ہو گا جس کے معارض کوئی نص نہیں۔ (وہ حدیث جس کو ابن ابی شیبہ نے پیش کیا۔ کہ حضور علیہ السلام نے مدبر کو فروخت کیا۔ وہ ایک حال کا واقعہ ہے جس کے لیے عموم نہیں۔ البتہ حدیث میں اگر اس طرح آتا۔ کہ مدبر کو فروخت کیا جائے تو تعارض ہوتا رہیں ایسا نہیں آیا بلکہ ایک فعل کی حکایت ہے) اس لیے حدیث ابن عمر سالم عن المعارض بری۔ پھر اگر صحابی کی تقليد لازم ہو تو ظاہر ہے کہ (صحابی سے ممانعت ثابت ہے) اگر اس کی تقليد لازم نہ سمجھی جائے تو صحابی کا یہ قول سملع پر محول ہو گا۔ کیونکہ مدبر کی بیع سے صحابی کا منع فرمانا قیاس کے خلاف ہے۔ (اور صحابی کا وہ قول جو کہ قیاس کے خلاف ہو حکما مرفوع ہوتا ہے) اور یہ قول خلاف قیاس اس لیے ہے کہ مدبر غلام ہے جب تک وہ غلام ہے اس کی بیع درست ہونی چاہیئے۔ کیونکہ غلام کے ساتھ بیع منضم ہے۔ تو باوجود کی وہ غلام بھی ہے اور امام ولد کی طرح موکے کوئی جر اس میں مختلط بھی نہیں پھر اس کی بیع کو منع کرنا ظاہر ہے) کہ قیاس کے برخلاف ہے اس لیے عمر کی یہ موقوف بھی حکما مرفوع ہو گی۔

علام زرقانی شرح موطا میں فرماتے ہیں :

قالوا الصیحیح انه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد بالجماع  
أهل المدينة۔

محمد ثین کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عمر پر موقوف ہے لیکن اہل مدینہ کے اجماع سے اسکو قوت حاصل ہو گئی۔

(۱) موطا امام محمد بن سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا

مدبرہ کو فروخت کیا جائے نہ ہبہ۔  
ابن ابی شیبہؓ بوجدیث مدبر کی بیع کی لکھی ہے۔ اس کے جواب میں علامہ رفانی  
شرح مؤظماں فرماتے ہیں۔

اجیب عنہ بانہ انما باعده لانہ کان علیہ دین و فی روایۃ  
النسائی للحدیث زیادۃ وہی و کان علیہ دین و فیہ فاعطاہ  
فقال اقض دینک ولا یعارض روایۃ مسلم فقال ابد  
بنفسك فتصدق علیها لان من جملة صدقته علیها  
قضاء دینه و حاصل الجواب انها واقعۃ عین لا عموم  
لها فتحمل علی بعض الصور و هو تخصیص الجواب بما اذا  
کان علیہ دین و ورد كذلك فی بعض طرق الحدیث عند  
النسائی فتعین المصیر لذلک۔ انتہی۔

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حسنور علیہ السلام نے جس مدبر کو فروخت کیا اس کے  
مالک پر قرض تھا اور اس کامال بجز اس غلام کے اور کچھ نہ تھا نسائی کی روایت میں  
یہ لفظ زیادہ ہے کہ اس پر قرض تھا آپ نے اس کو فرمایا کہ لے اپنا قرض ادا کر مسلم  
کی روایت جس میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے نفس پر ابتدأ کر لیعنی پہلے پہنچ  
پر صدقہ کر اس کے معارض ہمیں کیونکہ قرض کا ادا کرنا بھی اپنے نفس پر صدقہ کرنا ہے۔  
حاصل جواب یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے اس میں عموم ہمیں تو جس صورتوں  
پر محول ہوگا وہ یہ کہ حب اس پر قرض ہو تو مدبر کا فروخت کرنا جائز ہوگا ورنہ ہمیں۔  
بعض طرق حدیث میں اس طرح وارد ہوا ہے اس لیے یہی متعین ہوگا۔  
علامہ عبدالمجید تعلیق المجد میں اسی قول کو اقرب الالانصاف والمحمول فرماتے  
ہیں۔ دیکھو ص ۳۵۹۔

علامہ علینی شرح بخاری ص ۱۵ جلد ۵ میں ابن بطال کا قول نقل کرتے ہیں۔

لارجۃ فیہ لان فی الحدیث ان سیدہ کان علیہ دین  
فثبتت ان بیعہ کان لذلک۔

یعنی اس حدیث میں کوئی محبت نہیں (جو ابزیع کے لیے) اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اس کے سردار پر قرض تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اس مدرس کا بیچنا قرض کے لیے تھا۔

## دوسراء جواب

یہ بھی احتمال ہے کہ حضور علیہ السلام کا مدرس کو بیچنا اُس وقت کا واقعہ ہو جب کہ اصلیٰ کو بھی قرض میں بیچا جاتا تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

علامہ علینی محدث القاری ص ۱۵ جلد ۵ میں فرماتے ہیں:

یحتمل انه باعه في وقت كان يباع الحر المديون مكاروي  
انه صلى الله عليه وسلم يباع حر ابدىنه ثم نسخ بقوله  
تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة.

شیخ ابن الہمام فتح القدر ص ۳۴۹ جلد ۲ میں فرماتے ہیں:

والجواب انه لاشك ان الحر كان يباع في ابتداء الاسلام  
على ماروی انه صلى الله عليه وسلم يباع رجل ابقا له مسروق  
في دينه ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة

الى ميسرة۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتداء اسلام میں اصلیٰ کو قرض میں بیچا جاتا تھا چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کا نام مسروق تھا۔ علیٰ قاریٰ نے مرقاۃ میں اس کا نام شرف لکھا ہے۔ طحاویٰ نے شرح معافی الاشارہ ۲۸۹ جلد ۲ میں اس شخص کا نام ترقی لکھا ہے۔ اس کے قرض میں فروخت کیا پھر یہ حکم منسوخ

ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے ساتھ کہ اگر مذکور تنگست ہو تو فراخی تک اس کو بہت دی جائے۔

تو ثابت ہوا کہ منسون ہو جانے کے بعد مذکور کی بیع کے جواز کی اس حدیث میں کوئی دللت نہیں۔

### تيسرا جواب

اجارہ کو اہل مین کی لعنت میں بیع کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عینی نے تصریح کی ہے۔ اجارہ میں بھی منفعت کی بیع ہوتی ہے۔ تو حدیث بیع مذکور میں احتمال ہے کہ اس کی خدمت یعنی منفعت کو بیع کیا ہو یعنی اس کو اجارہ دیا ہوا اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں۔

وَيُوَيْدَهُ مَا ذُكِرَهُ أَبْنَ حَزْمَ فَقَالَ وَرَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنِ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَلًا إِنَّهُ بَاعَ خَدْمَةَ الْمَدْبُرِ  
قَالَ أَبْنُ سَيْرِينَ لِابْنِ سَيْرِينَ بِبَيْعِ خَدْمَةِ الْمَدْبُرِ وَكَذَّا قَالَهُ أَبْنُ  
الْمَسِيبِ وَذَكَرَ أَبْوَ الْوَلِيدِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
بَاعَ خَدْمَةَ الْمَدْبُرِ۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ ابو الحسن محمد بن علی نے مسلا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے مذکور کی خدمت کو فروخت کیا ہے (مذکور کو نہیں فروخت کیا) ابن سیرین کہتے ہیں کہ مذکور کی خدمت کا یہ چنانکوئی ذرہ نہیں ہے۔ ابن مسیب نے ایسا ہی کہا ہے۔ ابوالولید نے حابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مذکور کی خدمت کو فروخت کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ مذکور کو فروخت نہیں کیا بلکہ اس کو اجارہ پر دیا اور اجارہ پر دینا منع نہیں ہے۔

## پچھا جواب

ہم پچھے لکھ آئے ہیں کہ مدبر مقید کی بیع جائز ہے۔  
علامہ زلیع نصب الارای جلد ۴۰ میں فرماتے ہیں:  
ولناعن ذالک جواب ان احدهما انا خملہ علی المدبر المقید  
والمدبر المقید عندنا یجوز بیعہ الا ان یثبتوا انه کان  
مدبر امطلق او هم لا یقدرون علی ذلك۔

یعنی ہم اس حدیث کے دو جواب دیتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم اس کو مدبر مقید پر  
حمل کرتے ہیں اور مدبر مقید کی بیع ہمارے آئندہ کے نزدیک جائز ہے۔ ہاں اگر یہ ثابت  
کریں۔ کہ وہ مدبر متعلق تھا رتو البتہ ان کی ولیل ہو سکتی ہے (لیکن وہ اس پر قادر نہیں یعنی  
ہرگز ثابت نہیں کر سکتے)۔

دوسرے جواب علامہ زلیع نے وہی لکھا ہے جو ہم اور پر لکھ آئے ہیں۔ یعنی بیع  
خدمت مراد ہے نبیع رقبہ۔ اور بیع خدمت جائز ہے۔ واللہ اعلم

## اعتراض

ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے چند حدیثیں اس بارہ میں لکھی ہیں کہ رسول خدا  
صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام نے نماشی  
کا جنازہ پڑھا۔ پھر لکھا۔ کہ امام ابوحنیفہ سے مذکور ہے۔ کہ میت پر دوبار نماز نہ پڑھی  
جائے۔

جواب میں لکھتا ہوں۔ امام عظیم رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ حب و لی نماز جنازہ پڑھ  
لے یا اس کے اذن سے پڑھا جائے تو پھر دوبارہ نہ پڑھا جائے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے  
امام عظیم رحمۃ اللہ کا مذہب لکھنے میں تفصیل نہیں کی۔ مطلقًا منع لکھنا یا حالانکہ امام  
صاحب کے مذہب میں ولی کو اعادہ کرنے کا حق ہے۔ وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔

در محنتار میں ہے :

فان صلی علیہ ای الولی ممن لیس له حق التقدم على الولي ولم  
یتابعه الولی اعاده الولی ولو على قبره -

یعنی اگر ولی کے سوا کسی دوسرے نے جنازہ کی نماز پڑھی۔ ولی نے نہ پڑھی ہو تو۔  
ولی اعادہ کر سکتا ہے گواس کی قبر پر پڑھے۔  
مختصر الحالی حاشیہ بحر الرائق میں ہے ،

لاتفاق الصلة على الميّت الا ان يكون الولی هو الذی حضر فان  
الحق له وليس لغيره ولا شرط اسقاط حقه -

یعنی کسی میت پر دو و فتح نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر ولی آئے تو اس کا حق  
ہے دوسراؤ کوئی اس کا حق ساقط نہیں کر سکتا۔

و جو اس کی یہ ہے کہ میت کا حق ایک دفعہ نماز پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ اور جو فرض  
تحاوہ ساقط ہو گیا اب دوبارہ پڑھیں تو نفل ہو گا۔ اور جنازہ کی نماز نفلًا مشرع نہیں۔  
کافی جو شہرہ۔ نیرو بحر الرائق کبیری میں ہے :

الفرض يتادى بالاول والتنفل بما ہمیر مشروع -

بحر العلوم رسائل الارکان میں فرماتے ہیں :

لوصلوا لزم التنفل بصلة الجنارة وذا غير جائز -

شامی فرماتے ہیں :

بخلاف الولی لانہ صاحب الحق -

یعنی نماز جنازہ کا اعادہ ہر طرح نفل ہو گا۔ اور یہ جائز نہیں بخلاف ولی کے کروہ  
صاحب حق ہے اس کو اعادہ جائز ہے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز جنازہ پڑھ کر پھر دوبارہ کسی کا جنازہ نہیں

پڑھا۔ اگر اس نماز کا تکرار جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی تو کسی صحابی کا دوبارہ جنازہ پڑھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس نے نہ پڑھا ہو وہ پڑھ سکتا ہے تو صحابہ میں سے کسی ایک کا ہی ایسا فعل دکھانا چاہیتے۔ کہ سو ز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی پر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا ہوا تو کسی دوسرے صحابی غیر ولی نے جو شامل جنازہ ہنہیں ہوا اگر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہو اگر تکرار مشترکہ ہوتا تو صحابہ کرام میں کوئی ایسا واقعہ ملتا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد کسی صحابی غیر ولی نے کسی قبر پر جنازہ کی نماز پڑھی ہو بلکہ اس کا خلاف ملتا ہے۔

جوہر النقی ص ۲۷ جلد اول میں لکھا ہے:

ذکر عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن نافع ان ابن عمر قدم  
بعد توفي عاصم اخوه فسأل عنه فقال اين تبراخى فدلوه عليه  
فأقامه فدعالله قال عبد الرزاق وبه ناخذ قال وانا عبد الله  
بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلى  
عليه دعا وصرف ولم يعيد الصلوة . قال ابو عمرو  
التمهيد هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر  
من غير مارجد عن نافع وقد يحتمل ان يكون معنى رواية  
من روی انه صلی عليه انه دعا له لان الصلوة دعاء فلا  
يكون مخالف الرواية من روی انه دعا ولو يصل .

عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عاصم کی وفات کے بعد آئے اور پوچھا کہ ان کی قبر کیا ہے۔ لوگوں نے قبر کا پتہ دیا آپ قبر پر آئے اور اس کے لیے دعا کی۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ہم اُسی پر عمل کرتے ہیں پھر نافع سے روایت کی کہ ابن سلم رضی اللہ عنہ میت پر نماز ہو جانے کے بعد آتے تو صرف

دعا کرتے اور واپس چلے جاتے۔ نماز جنازہ کا اعادہ نہ کرتے۔ ابو عمر نے تمہید میں لکھا ہے کہ ابن عکر کا مذہب یہی صحیح اور معروف ہے۔ اور جس روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مراقبی دعا ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ بھی دعا ہے۔

شمس الامم سخنی رحمہ اللہ نے مبسوط ص ۷ جلد دوم میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر آئے۔ نماز ہو چکی تھی تو آپ نے فرمایا ان سبقتمنی بالصلوٰۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء له۔

اگر تم نماز جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ پکے ہو تو اب دعا تو مجھ سے پہلے نہ کرو۔ مجھے دعا میں تو ملنے دو۔

معلوم ہوا کہ دوبارہ نماز جنازہ اس زمانہ میں مردوج نہ تھی ورنہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مکرر نماز جنازہ پڑھ لیتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ جس میں شمولیت کے واسطے عبد اللہ بن سلام نے خواہش ظاہر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ ولی تھے اور ہم پچھے لکھ آئئے میں کو ولی کو نماز جنازہ کا اعادہ جائز ہے اگرچہ قبر پر اعادہ کرے اور یہی مذہب امام رحمہ اللہ کا ہے۔ جو ہر الفی ص ۲۶۷ ج ۱ میں لکھا ہے:

و انما صلی علیہ السلام علی القبر لانہ کان الولی۔

کہ حضور علیہ السلام نے قبر پر نماز جنازہ اس لیے پڑھی کہ آپ ولی تھے۔ اور ولی نماز جنازہ میں اگر شرک کیے نہ ہو تو اعادہ کر سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قبر پر نماز پڑھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ الشعۃ اللمعات ص ۴۶، میں فرماتے ہیں بعض از علماء برائے رفتہ انذ کہ نماز پر قبر مطلقاً از خصائص حضرت بنت استصلی اللہ علیہ وسلم چنانکہ از حدیث ان اللہ ینورہ الہم بصلوٰتی علیہم مفہوم میگردد۔ کہ قبر پر مطلقاً نماز پڑھنا حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے اور حدیث ان اللہ ینورہ الہم الح سے مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھنے سے ان کی قبروں کو روشن کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا نور تھا۔ اس لیے حضور کمال شفقت و مہربانی سے قبر پر بھی جنازہ کی نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ ان کی قبور روشن ہو جائیں اور کسی کے نماز پڑھنے میں یہ خصوصیت نہیں آئی۔

علامہ علی قاری مرقاۃ تشریح مشکوٰۃ ص ۲۵ جلد ۲ میں لکھتے ہیں۔

هذا الحديث ذهب الشافعی الى جواز تکرار الصلوة على  
الميت قلنا صلاتة صلى الله عليه وسلم كانت لتنوير القبر  
وذا الايدى وجده في صلوة عيوف لا يكون التكرار مشروع  
فيها لأن الفرض منها يودى مرة۔

امام شافعی رحمہ اللہ نماز جنازہ کے تکرار کے لیے اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی نماز قبر کے روشن کرنے کے لیے تھی اور یہ تنوری کسی دوسرے کی نماز پڑھنے میں پائی نہیں جاتی۔ (اس لیے آپ کا خاصہ مہوا) اس سے نماز جنازہ کا تکرار مشروع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ فرض ایک بار پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ (اور نفل اس نماز کا مشروع نہیں۔)

امام محمد علیہ الرحمۃ مؤٹا میں فرماتے ہیں:

ولیس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أکغیرہ

کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اس امر میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں پھر فرماتے ہیں:  
 فضلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکۃ و طہور  
 فلیست کغیرہا من الصلوات وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ  
 کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برکت و طہور ہے دوسرے لوگوں کی  
 نماز کی طرح نہیں اور بھی قول ابو حنیفہ کا ہے۔

### اکی احتجاز

چونکہ صحابہ کرام نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدام  
 میں قبر پر نماز پڑھی اس لیے قبر پر نماز پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہ ہوا۔  
 اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کی نماز تبعاً مختیٰ اور تبعاً پڑھنا اصلاحت کے لیے  
 ولیل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد الحیی لکھنؤی تعلیق المجد ص ۱۲ میں لکھتے ہیں:  
 وتعقب بالذی یقع بالتبعیة لا ینهض دلیلاً للاصالة  
 کذا قال ابن عبد البر والرزقانی والعینی وغيرہم۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری  
 ص ۶۹۱ جز ۵ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

### نجاشی کا جنازہ

حضور علیہ السلام نے جو نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں  
 تکرار پایا ہی نہیں گیا این ابی شیبہ رحمۃ اللہ پر ہے کسی روایت سے نجاشی پر بخش میں  
 جنازہ کی نماز کا پڑھا جانا ثابت کرتے تو پھر تکرار کے ثبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم کا اس پر نماز پڑھنا لکھتے تو البتہ ایک بات مخفی لیکن کسی روایت میں نہیں آیا کہ  
 نجاشی پر سپہلے بھی نماز پڑھی گئی مخفی۔

ابن تیمیہ مہناج السنۃ ص ۲۷ میں لکھتے ہیں:

کذلک النجاشی هو و ان كان ملك النصاری فلم يطعنه قومه

فِي الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بَلْ أَنْمَا دُخُولُهُ نَفْرَمِنْهُمْ وَلَهُذَا  
لَمَّا ماتَ لَمْ يَكُنْ هُنَّاكَ أَحَدٌ يَصْلِي عَلَيْهِ فَصَلَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ -

کرنے خاشی اگرچہ نصاریٰ کا بادشاہ تھا۔ اس کی قوم نے اسلام میں داخل ہونے  
میں اس کی اطاعت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ ایک جماعت ان میں سے داخل  
ہوئی اس لیے جب وہ مر گیا تو اس جگہ کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اس کے جنازہ کی نماز  
پڑھتے تو حضور علیہ السلام نے مدینہ میں اس پر نماز جنازہ پڑھی۔  
علام رزقانی شرح مؤطرا ص ۱۱ میں لکھتے ہیں :

أَحَبِيبَ إِيْضَا بَانَهُ كَانَ بَارِضَ لَمْ يَصْلِي عَلَيْهِ بِهَا أَحَدٌ  
فَتَعَيَّنَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ فَانَّهُ لَمْ يَصْلِي عَلَيْهِ  
أَحْدَامَ غَايَّاً مِنَ الصَّاحِبَةِ وَبِهَذَا جَزْمُ أَبُوداؤْدُ وَسَخْنَهُ  
الرَّوِيَانِ -

یعنی خاشی ایسے ملک میں تھا کہ اس پر وہاں کسی نے نماز نہ پڑھی اس لیے  
یہ نماز ان پر متین ہوئی۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی پر  
غایب نماز نہیں پڑھی۔ ابو داؤد نے اسی پر جزم کیا رویانی نے اسی کو اچھا سمجھا۔

عن المعبود ص ۱۹۹ جلد ۳ میں بحوالہ زاد المعاد ابن قیم لکھا ہے :  
وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيهِ وَسَنَتِهِ الصَّلَاةُ كُلُّ مِيتٍ غَايَّ  
فَقَدْمَاتُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غَيْبٌ فَلَمْ  
يَصْلِي عَلَيْهِمْ -

یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہ تھا کہ میت غائب پر  
آپ نماز پڑھتے بہت مسلمان فوت ہوئے آپ نے کسی پر غایبانہ نماز نہیں پڑھی

پھر آگے لکھتے میں:

قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ الصواب ان الغائب  
ان مات ببدل لم يصل عليه فیہ صلی علیہ صلوة  
الغائب مکاصلی البنی صلی اللہ علیہ وسلم علی البخاری  
لانه مات بین الکفار ولم يصل علیہ وان صلی  
علیہ حيث مات لم يصل علیہ صلاة الغائب لأن  
الفرض قد سقط لصلوة المسلمين علیہ۔

یعنی غائب اگر ایسے شہر میں فوت ہو کہ اس پر کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو اس  
پر غائبانہ نماز پڑھی جائے جیسے حضور علیہ السلام نے بخاری پر پڑھی کوہ کافروں  
میں فوت ہوا اس پر کسی نے نماز نہ پڑھی تھی۔ اگر اس غائب کو نماز جنازہ پڑھکر  
دفن کر دیا جائے تو اس پر غائبانہ نماز پڑھی جائے کیونکہ مسلمانوں کے پڑھنے سے  
فرض ساقط ہو گیا۔ اور نقل مشرع نہیں۔

ابن قیم و ابن تیمیہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ میں جو غائب پر نماز جنازہ اُس  
صورت میں جائز فرماتے ہیں جس صورت میں غائب بغیر نماز جنازہ دفن کیا جائے۔  
لیکن اگر اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی ہو تو پھر غائبانہ نماز پڑھنے کوہ بھی منع فرماتے  
ہیں۔ لیکن غیر مقلدین نماذ اپنے میشواؤں کی بھی نہیں ملتے اور بلاشبہ غائبانہ جنازہ  
کی نماز پڑھتے پڑھتے ہیں۔ اگر سبی بخاری کے جنازہ کی نماز دلیل ہو تو اس میں بچنے  
و درجہ فرق ہے۔

- ۱ - ابن تیمیہ وغیرہ تصریح کرتے ہیں کہ اس پر نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ لیکن
- آپ جس غائب کا جنازہ پڑھتے ہیں اس پر پہلے نماز پڑھی گئی ہوتی ہے۔
- ۳ - بخاری پر اُسی دن نماز پڑھی گئی جس روز وہ فوت ہوا لیکن آپ کی میتوں کا

- پہلے اعلان ہوتا ہے۔ پھر کئی دن کے بعد غائبانہ جنازہ پڑھا جاتا ہے۔
- ۳۔ سجاشی کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں نکل کر پڑھی تھا۔ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ یعنی مصلی میں مگر آپ مسجد وہ میں پڑھ لیتے ہیں۔
- ۴۔ سجاشی کا جنازہ حضور پر مکشوف تھا۔ مگر آپ پر جنازہ مکشوف نہیں ہوتا۔
- ۵۔ حدیث میں تصریح ہے۔ کہ حضور نے سجاشی کی نماز جانب جلسہ پڑھی رواہ الطبرانی عن حذیفۃ۔ اور جلسہ مدینہ متورہ سے جانب جنوب ہے۔ مدینہ طیبہ کا قبلہ بھی جانب جنوب ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور نے جس مسیت پر نماز غائبانہ پڑھی وہ جہت قبلہ میں تھی۔ لیکن آپ کی میت خواہ مشرق میں ہو اور آپ مغرب میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا عمل بالکل بے دلیل ہے۔

### اعتزاز

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ و مسیع بن حزمہ و مروان و عائشہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کو پاچھو دیا اور ابو حینیفہ کہتا ہیں کہ ہدی کو پاچھنا یعنی زخم کرنا مشکل ہے۔

### جواب

میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام ابو حینیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب لکھنے میں غلطی کی امام اعظم رحمہ اللہ اشعار مسلمون کو مشکلہ نہیں فرماتے ز منع کرتے ہیں بلکہ اس پاچھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ جو چھڑے سے گذر کر گوشت کو کاٹ دے اور یہ مسلمون نہیں مسمون صرف چھڑ کا کاشا ہے۔ یہ امام صاحب کے نزدیک چائز بلکہ مسخب ہے۔ درختار میں ہے:

فاما من احسنه بان قطع الجلد فقط فلا باس به۔

یعنی جو شخص اشعار کو عمدہ طور پر کر سکتا ہو یعنی صرف چھڑے کو قطع کرنے تو

اس کا کوئی ڈر نہیں جائز ہے۔

طحاوی شرح در مختار میں ہے۔

قولہ فلا باس به ارادانہ مستحب لما قدمنا۔

کہ لا باس بہ سے مصنف نے ارادہ کیا کہ مستحب ہے۔ فدق کی کسی کتاب میں اشعار مسنون کو مثلہ نہیں کہا گیا۔

علامہ علینی شرح بدایہ میں لکھتے ہیں:

ابوحنیفة رضی اللہ عنہ مأکره اصل الاشعار و یکف  
یکرہ ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار و قال الطحاوی  
انماکرہ ابوحنیفة اشعار اهل زمانہ لانہ را ہم پستقصون  
فی ذلك على وجه يناف منه هلاك البدن لسراسته

خصوصاً فی حرالحجاج۔

کہ ابوحنیفر رحمہ اللہ نے اصل اشعار کو مکروہ نہیں جانا اور وہ کیسے مکروہ جان سکتے تھے کہ اس میں آثار مشہورہ وارد ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے زمانہ کے لوگوں کا اشعار مکروہ فرمایا۔ اس لیے کہ ان کو آپ نے دیکھا کہ ایسا زیادہ کامیتے ہیں جس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتا تھا جخصوصاً ملک حجاز کی گرمی میں۔

معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے اشعار مسنون کو منوع یا مکروہ نہیں فرمایا حافظ ابن حجر فتح الباری جزء ص ۱۵۱ میں لکھتے ہیں کہ طحاوی فرماتے ہیں۔

لہیکرہ ابوحنیفة اصل الاشعار انماکرہ مایفعت علی  
وجه یناف منه هلاک البدن کسرایۃ الجرح اسیام  
الطعن بالشفرۃ فابدا سد الباب عن العامة لانہم لا یراعون

الحدف في ذلك وأمام من كان عالما بالسنة في ذلك فلا  
اس عبارت كاترجمة وهي هي جو پچھے گذا اس کے آگے ابن حجر ملتے ہیں:  
ويتعين الرجوع الى ما قال الطحاوى فإنه اعلم من عنده  
باقوالاصحابه۔

یعنی امام طحاوی چونکہ اپنے مذہب کا زیادہ واقع تھے اس لیے امام  
صاحب کا مذہب جو اس نے نقل کیا ہے اسی کی طرف رجوع متین ہو گا۔

علامہ علینی عحدۃ القاری جلد ۲ ص ۱۲، میں لکھتے ہیں:  
وذكر الکرمانی صاحب المناسک عنہ استحسانہ۔ یعنی کرمانی  
صاحب مناسک نے امام اعظم رحمۃ اللہ سے اشعار کا استحسن ہونا ذکر کیا ہے  
اور کہا ہے کہ یہی اصح ہے۔

مرقاۃ مشرح مشکوۃ جلد ۳ ص ۲۳۲ میں ہے:  
وقد ذکر ابوحنیفة الاشعار واولوه بانہ انما ذکرہ اشعار  
أهل زمانہ فانهم كانوا يابالعون فيه حتى خاف السراية منه  
کہ امام اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے اشعار کو مکروہ فرمایا کہ وہ لوگ اس  
میں مبالغہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ زخم کے سرایت کر جانے سے ہلاکت کا خوف  
پیدا ہو جاتا تھا۔

بجز الرائق شرح کنز الدقائق جلد ۲ ص ۳۶ میں لکھا ہے:  
واختاره في غائثة البيان وصححة وفي فتح القدیر  
انه الاولى۔

یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ نے مطلق اشعار کو مکروہ نہیں کہا۔ اسی کو صاحب  
غائثة البيان نے پسند کیا ہے۔ اور فتح القدیر میں بھی یہی اولی لکھا ہے۔

اشعار کچھ ایسا نکید ہی امر نہیں کہ اس کا ترک گناہ ہو۔  
علامہ زرقانی شرح موطایمین لکھتے ہیں :

وقد ثبت عن عائشہ وابن عباس التخیر فی الاشعار  
وتركه فدل على انه ليس بجنسك لكنه غير مکروه للثبوت  
 فعله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم .

یعنی حضرت عائشہ وابن عباس صنی اللہ عنہما سے اشعار کے کرنے کے  
کرنے میں اختیار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں۔ اور مکروہ بھی نہیں۔  
علامہ علینی بعده القاری ص ۲۱۷ میں فرماتے ہیں :

وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه باسانيد جيدة عن  
عاشرة وابن عباس ان شئت فاشعر وان شئت فلا  
کر ابن أبي شيبة رحمه اللہ نے مصنف میں حضرت عائشہ وابن عباس صنی  
اللہ عنہما سے قوی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اگر تو چاہے تو اشعار کر اگر  
چاہے تو نہ کر۔

اس سے معلوم ہوا کہ اشعار کوئی ضروری امر نہیں کرے یا نہ کرے اختیار ہے  
البته مکروہ بھی نہیں۔

کہتے ہیں کہ امام عظیم رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں کوئی سلف نہیں ہیں کہتا ہوں  
جس اشعار کو امام صاحب نے مکروہ فرمایا ہے۔ اس کو سلف میں سے کوئی بھی مسوؤں  
نہیں کہتا۔ پھر یہ کہنا کوئی سلف نہیں کہا تک صحیح ہو سکتا ہے۔ علاوه اس کے  
ابراہیم بن حنفی رحمہ اللہ سے کراہت مروی ہے۔ تو یہ اعتراض غلط ہوا۔ فلیذ الحمد۔

اعتراض ابن أبي شيبة رحمہ اللہ نے والبصہ بن معبد کی ایک حدیث لکھی

ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے صفت کے پیچے تہنا نماز پڑھی تو آپ نے اس کو اعادہ کا حکم فرمایا۔ ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ صفوں کے پیچے نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پاس بھیرے رہتے۔ جب وہ پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ صفت کے پیچے اکیلے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

یہ حدیث لکھ کر ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ ابو حیفہ رحمہ اللہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نمازوں جاتی ہے۔

## جواب

میں کہتا ہوں نہ صرف امام عظیم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جاتی ہے بلکہ جہوں علیاً امام مالک و شافعی و اوزاعی و حسن لبیری بھی اسی طرف ہیں۔ امام عظیم رحمہ اللہ کے مذہب میں اگر صفت اول میں فرج ہو تو صفت کے پیچے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز مکروہ ہوتی ہے اگر فرج نہ ہو اور کسی دوسرے نمازی کے ملنے کی امید ہو تو اس کا انتہا کر سے ورنہ صفت اول سے اکیل آدمی کو پیچے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے تاکہ کراہت سے بچ جائے۔ اگر جہالت کے سبب مجدوب پیچے نہ ہے تو اکیلے کھڑا ہو جائے۔ اس کی نماز ہو جاتی گی۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام عظیم رحمہ اللہ کا مذہب نقل کرنے میں اتنی کوتاہی ضرور کی کہ کراہت کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام کے نزدیک صفت کے پیچے منفرد کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب قایم مکروہات میں لکھتے ہیں:

والقيام خلف صفت وجد فيه فرجة۔

کہ جس صفت میں جگہ ہو اس کے پیچے اکیل آدمی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔  
اسی طرح منیہ میں ہے:

ویکرہ للمقتدی ان یقوم خلف الصفت وحدہ الا اذالو

یجد فرجة۔

کہ مقتدی کے لیے مکروہ ہے صفت کے پیچے اکیلے کھڑا ہونا مگر اس وقت  
کہ صفت میں جگہ نہ ہو۔

امام اعظم محمد البشیر کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ  
عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ اس حال میں آئے۔ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
رکوع میں تھے تو صفت میں مٹنے سے پہلے رکوع کر کے اسی حالت میں صفت میں مل  
گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، زادک اللہ حرصا  
ولا تعد۔ خدا تجھے حرص زیادہ کرے پھر ایسا نہ کرنا۔ اگر الفزار نماز کا مفسدہ ہوتا تو  
ابو بکر کی یہ نماز جائز نہ ہوتی۔ کیونکہ تحریری کے وقت مفسدہ نماز پایا گیا۔ یعنی الفزار  
خلفت الصفت۔ جب اس کو نماز کے اعادہ کا آپ نے حکم نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ نماز  
ہو گئی۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ پھر ایسا نہ کرنا دلیل کراہت ہے۔ نیز اس لیے بھی مکروہ ہوتی  
کہ اس نے حکم سدوا اللخلل کا خلاف کیا۔

ملک علی فاری مرقاۃ ص ۲۴ جلد دوم میں فرماتے ہیں:

ظاهرہ عدم لزوم الاعادة لعدم امرہ بہا۔

کہ اس حدیث کا ظاہر ہر سی ہے کہ اعادہ لازم نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے  
اس کو نماز دہراتے کا حکم نہیں فرمایا۔

عون المعبود ص ۲۵ جلد اول میں لکھا ہے:

قال الخطابی فیه دلالة على ان صلاة المنفرد خلفت الصفت  
حيائنة لأن جزءا من الصلوة اذا جاز على حال الانفراد جاز  
ساتراجزانها وقوله عليه السلام ولا تعد ارشاد له في  
المستقبل الى ما هو افضل ولو لم يكن مجرزا بالامر بالاعادة۔

یعنی خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ صفت کے پیچے اکیلے کی نماز جائز ہے۔ کیونکہ حب اکیلا ہونے کی حالت میں نماز کا ایک حصہ جائز ہے۔ تو اس کے باقی حصے بھی جائز ہوں گے اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ پھر ایسا نماز کرنا آئندہ کے لیے جو افضل ہے۔ اس کی ہدایت کا ارشاد ہے۔ اگر اس کی نماز ناجائز ہوتی تو حضور اس کو نماز دہرانے کا حکم فرماتے۔

امام طحا وی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں:

فلو کان من صلی خلف الصفت لا تجزیہ صلوة لكان من دخل  
فی الصلوة خلف الصفت لا يکون داخل فيها۔

یعنی اگر صفت کے پیچے نماز پڑھنے والے کی نماز ناجائز ہوتی تو وہ شخص صفت کے پیچے نماز میں داخل ہوا ہے چاہیئے کہ اس میں داخل نہ ہوتا۔ تو حب ایسی حالت میں ابو بکرہ کا دخول فی الصلوة صحیح ہوا تو نمازی کی سب نماز خلف الصفت صحیح ہوگی۔

تیز۔ اگر اپنی صفت میں جگہ ہو تو پھر اپنی صفت کا ایک آدمی اپنی صفت سے نکل کر اس صفت میں جا سکتا ہے جس میں جگہ خالی ہو۔ ایسا شخص حب اپنی صفت سے نکلے گا اور دونوں صفوں کے درمیان پوچھے گا۔ تو اس وقت وہ اکیلا خلف الصفت ہو گا۔ اگر اکیلا خلف الصفت ہو نماز کا مفسد ہو تو چاہیئے کہ اس شخص کی نماز نہ ہو کیونکہ وہ دونوں صفوں کے درمیان اکیلا ہوا ہے جب اس شخص کی بالاتفاق نماز ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ اکیلے کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے اکیلے جزو میں اکیلا رہنا مفسد ہنہیں تو سارے اجزاء میں بھی مفسد نہ ہو گا۔

قال الطحا وی رحمه اللہ فی شرح معانی الآثار۔

حدیث والبصیر بن معبد رضی اللہ عنہ میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

نمایا اس کے اعادہ کا حکم فرمایا امام طحا وی رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے میں کہ نماز  
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جائز ہے ک صفت کے تبیخے اکیلے نماز پڑھنے کے سبب ہو۔ اور  
جائز ہے کہ کوئی اور نقص اس کی نماز میں ہو۔ جس کے لیے آپ نے اعادہ کا حکم فرمایا  
(میں کہتا ہوں اذ احتجاء الاحتمال بطل الاستدلال)۔

علاوه اس کے یہ امر استحبانی ہے زوجوی۔ مرقاۃ ص ۴۸ جلد دوم میں ہے

فامرہ ان یعید الصلة استحباب الازکابه المکراہة۔

پھر آگے فرماتے ہیں :

حمل اثمتنا الاول على التدب والثانى على نقى الحكماں۔

یعنی ہمارے آخر نے پہلی حدیث کو جس میں امر اعادہ کا ہے۔ ندب پر حمل کیا  
ہے۔ اور دوسری حدیث کو جس میں لفظی ہے۔ لفظی کمال پر۔ تاکہ یہ دونوں حدیثیں  
بخاری کی حدیث ابو بکرہ کے موافق ہو جائیں۔ نیز دوسری حدیث کے الفاظ میں  
فوقن علیہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم حتی النصرت۔

لہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا اس نے  
صفت کے تبیخے اپنی نماز اکیلے پڑھی ہو۔ جماعت میں شامل نہ ہو جو نکھل جماعت  
ہوتی ہو تو پاس کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے اس کو اعادہ کا حکم فرمایا ہو۔  
حدیث میں جو آپ کے انتشار کا آیا ہے کہ آپ اُس وقت تک کھڑے رہے جب  
تک وہ فارغ نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جماعت میں شامل نہ تھا۔  
ورنہ حضور کا فارغ ہو جانا اور اس کا نہ ہونا ایک جماعت میں کیسے متصور  
ہو سکتا ہے۔ ہاں سبوق کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ مگر حدیث میں اس  
کا ذکر نہیں ہوا۔

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے رہے حسب وہ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ پھر نماز پڑھ۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل نہ تھی۔ اگر باطل ہوتی تو آپ اس کو فوراً روک دیتے باطل پر رہنے نہ دیتے۔ اور اس کے فارغ ہونے تک انتظار کرتے لیکن آپ نے اس کو فوراً منیں روکا۔ وہ نماز پڑھتا رہا۔ جب فارغ ہوا تو فرمایا کہ پھر نماز پڑھ۔ چونکہ نماز مکروہ تھی اس لیے استحباب فرمایا کہ پھر پڑھ۔

علی قاری رحمۃ اللہ مرقاۃ میں فرماتے ہیں:

والیضا فہو علیہ السلام ترکہ حتی فرغ ولو كانت باطلة لما اقره على المضى فيها۔

علاوه اس کے ابن عبدالبرنے اس حدیث کو مضطرب کہا اور سیہقی نے ضعیف - مرقاۃ میں ہے۔

اعله ابن عبدالبر بانہ مضطرب وضعفہ البیهقی۔

اعتراض ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے عبد الدین مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کھنور علیہ السلام نے اکیل سیاں بی بی میں لعان کرایا اور فرمایا کہ شاید کالا گھنٹگریا لے بال والا کچھ جنے پس وہ ویسا ہی جنی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل میں لعان کرایا۔ (یعنی لعان کے وقت عورت حملہ تھی) اشبعی سے پوچھا گیا۔ کہ اکیل مرد اپنی بی بی کے سپیٹ میں جو کچھ ہے اس سے بیزاری خامہ کر کے تو انہوں نے فرمایا کہ لعان کر اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ سے مذکور سے کرو وہ حمل کے انکار سے لعان نہیں کرتے۔

جواب میں کہتا ہوں انکار حمل سے لعان کا ہونا کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں

اسی لیے امام اعظم رحمہ اللہ فقط انکار حمل سے لعان نہیں فرماتے۔ کیونکہ حمل کا لفظ نہیں ہوتا بعض وقت ایسے ہی سپیٹ پھوٹ جاتا ہے جس سے حمل معلوم موتا ہے اور حقیقت میں حمل نہیں موتا۔ چنانچہ علام ابن الہام منتج القدیر میں فرماتے ہیں

وقد اخبرنی بعض اہلی عن بعض خواصہا انها ظہرہا جبل  
واستمر الى تسعۃ اشهر ولم يشکننا فيه حتى هیئت له  
تفییہ اسباب المولود شرعا صابها طلق وحبست الدایة  
ختئما فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة ففکل  
عصرة تجد ما دامت قامت فارغة من غير ولد۔

کہ مجھے بعض میرے اہل نے جز درمی کہ اس کی لعین سیلی کو حمل ظاہر ہوا اور نوماہ تک رہا اور تھیں اس کے حمل میں کسی قسم کا شک نہ تھا۔ یہاں تک کہ سب سلامان ولادت کے تیار کئے گئے۔ میراں کو خون آغاز شروع ہوا دایہ پچھ جدائے کے لیے آئی مگر اس کے اندر سے محفوظ احتفظ پایی تکلیتا رہا۔ یہاں تک کہ یعنی پچھ جدائے کے فارغ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ یعنی کوئی پچھ نہ تھا۔ خون یا پانی تھا جو نکل گیا۔

معلوم ہوا کہ صرف حمل کے انکار سے قذف ثابت نہیں ہوتا۔ جب تک نہ کی تہمت زدگائی مسئلہ لا یوں کہے کہ تو نے زنا کیا اور یہ حمل اس زنا سے ہے تو امام صاحب کے نزد مکی لعان لازم ہوگا۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے:  
فَإِنْ قَالَ لَهَا ذَنَنْتٌ وَهَذَا الْجَبَلُ مِنَ الزَّنَاتِ لَا عَنَّا لَوْجُودٍ  
القذف حیث ذکر الزنا صریحا۔

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے جو حدیث ابن مسعود ابی عباس رضی اللہ عنہما نقل کی ہے ان دولوں حدیثوں میں یہ ذکر نہیں کہ حضور علیہ السلام نے صرف انکار حمل سے لعان کرایا غائبہ مافی الباب عورت کا حاملہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حمل کی

حالت میں لعان کرایا۔ نہ یہ کہ حمل کے انکار سے لعان ہوا بلکہ ان دونوں حدیثوں کے اصل واقعہ میں زنا کی تہمت لگانے کا ذکر آیا ہے۔

شیخ عبدالحی لکھنؤی تعلیق المجد میں لکھتے ہیں :

وقد وقع اللعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  
من صحابيin احد هماعمير بن أبيض وقيل ابن العارث  
الأنصارى العجلاني روى زوجة بشريك بن سحماء فتلا  
عنها كان ذلك سنة تسعة من الهجرة وثانية ما هلال  
ابن أمية بن عامر ألا نصارى وخبرها مروي في صحيح  
البخاري ومسلم وغيرهما.

کہ لعان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو صحابیوں سے واقع ہوا ایک تو عویم عجلانی جس نے اپنی زوجہ کو شرکیب بن سحماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تو ان دونوں نے لعان کیا اور یہ واقعہ فتح مکہ میں ہوا۔ دوسرا ہلال بن امیہ ان دونوں کی حدیثیں بخاری و مسلم وغیرہما میں مندرج ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابن ابی شیبہ نے جو ابن عباس و ابن مسعود سے دو حدیث نقل کی ہیں۔ ان میں عویم یا ہلال کی لعان کا ہی ذکر ہے اور ان دونوں نے اپنی اپنی عورت کو زنا کی تہمت لگائی تھی۔ صرف حمل کا انکار نہیں کیا تھا۔ چنانچہ ابن مسعود کی حدیث صحیح مسلم میں اس طرح آئی ہے۔

کہ ایک النصاری آیا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنی عورت کے پاس پائے را دراں کو ثابت ہو جائے کہ آں نے زنا کیا، پس کلام کرے تو اپ اس کو کوڑے لگاؤ گے یعنی حد قذف اور اگر قتل کرے تو اپ اس کو قتل کر دو گے اگر وہ چپ رہے تو مہایت غضب میں چپ کریگا۔ پھر وہ

کیا کرے جنور علیہ السلام دعا کرتے رہے میہان تک کر آیت لعان نازل ہوئی۔  
فابتلی بہ ذلك الرجل من بين الناس فباء هو و امرته  
الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتلها عنـا۔

بھروسہی شخص اس امر میں مبتلا ہوا یعنی جو اس نے سوال کیا وہی اس کو پیش آیا۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان دونوں نے لعان کیا۔

اس حدیث میں وجد معم امرتہ رجلا میں صاف تصریح ہے کہ اس نے زنا کی تہمت لگائی۔ انکار حمل کا ذکر نہیں۔ البتہ وہ عورت حاملہ تھی۔

امام طحاوی رحمہ اللہ یہی حدیث مفصل ذکر کر کے فرماتے ہیں :

فهذا هو اصل حدیث عبد اللہ رضي الله عنه في اللعان  
وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرته وهي حامل  
لام حملها -

کہ لعان میں عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا اصل یہ ہے اور یہ لعان زنا کی تہمت سے ہے جو اس مرد نے اپنی بی بی کو لگائی۔ اور وہ حاملہ تھی۔ یہ لعان حرف انکار حمل سے نہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے :

فاته رجل من قومه يشكوا اليه انه وجد مع امرته رجلا

طحاوی میں بھی ابن عباس کی روایت میں فوجدت مع امرتی رجلا آیا ہے۔ کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ (ایک مرد) زنا کرنا ہوا پایا جس سے معلوم ہوا کہ لعان زنا کی تہمت سے تھا زانکار حمل سے۔ واللہ اعلم۔

## اعتراض

ابن ابی شیبہ نے عمران بن حصین والبوہریہ رضی اللہ عنہما سے روشن  
کی ہے کہ ایک شخص کے چند غلام تھے۔ اُس نے موت کے وقت سب کو آزاد کر دیا۔ تو  
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا۔ دو کو آزاد کر دیا۔ چار کو غلام رہنے دیا۔ اور امام  
ابو حنیفہ سے مذکور ہے کہ وہ ایسی صورت میں قرعہ ڈالنا درست نہیں جانتے۔ اور کہتے  
ہیں کہ یہ کچھ نہیں۔

## جواب

میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام اعظم رحمہ اللہ کا پورا مذہب  
نقل نہیں کیا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسری جلد کے ص ۲۰۰ میں امام اعظم رحمہ اللہ کا  
مذہب یہ لکھا ہے کہ وہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک غلام کا ثلث آزاد ہو جائیگا  
اور وہ سب اپنے اپنے دو دھنلوں کی قیمت کی سعی کریں گے چنانچہ فرماتے ہیں  
شم تکم الناس بعد هذا فیمن اعتق ستة عبد الله عند  
موته لامال له غيرهم فابي الورثة ان يحيى وافقا  
قوم يعتق منهم ثلاثة ويسعون فيما باقى من قيمتهم ومن  
قال ذلك ابوحنيفة وابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى۔  
حاصل یہ کہ امام اعظم رحمہ اللہ اس صورت میں قرعہ کا حکم نہیں دیتے بلکہ  
فرماتے ہیں کہ ان سب غلاموں کا ثلث آزاد ہو جائے گا۔ باقی دو ثلث کے لیے  
سب سعی کریں گے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ شرح صحیح مسلم ص ۵ جلد دوم میں فرماتے ہیں:  
وقال ابوحنیفة القرعة باطلة لامدخل لها في ذلك

بل يعتق من كل واحد قطع ويستسعي في الباقي.  
اور فهو محبى فرملتے ہیں :

و قد قال يقول ابى حنيفة الشعبي والنخعى و شريح والحسن  
و حكى الصناع عن ابن المسib -

يعنى امام اعظم رحمه اللہ کے مذہب کے مطابق شعبي و نخعى و شريح و حسن بصري  
وابن مسib رحمهم اللہ نے فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ  
اس مسئلہ میں متفرد ہیں -

امام اعظم رحمه اللہ کی ولیل وہ حدیث ہے جس حافظ ابن حجر نے فتح الباری  
ص ۱۵ جلد ۱ میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

و قد اخرج عبد الرزاق باسناد رجاله ثقات عن ابى قلابة  
عن رجل من بني عذرة ان رجلاً منهم اعتق مملوكاً له  
عند موته وليس له مال غيره فاعتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عليه وسلم ثلثة وامرها ان يسعى في الشلتين -

کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے وقت آزاد کیا اُس کے پاس  
اُس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثلث تو آزاد  
فرمایا اور دو ثلث کا حکم دیا کہ سعی کرے۔

اسی طرح اگر ایک سے زیادہ غلام ہوں اور اس نے آزاد کر دیئے ہوں تو جس  
طرح ایک کا ثلث آزاد ہوا۔ اسی طرح ہر ایک کا ثلث آزاد ہو گا۔ اور ہر ایک اپنے  
دو ثلث کے لیے سعی کرے گا۔

امام طحا وادی علیہ الرحمۃ شرح معانی الآثار جلد دوم کے ص ۲۴۳ میں اس حدیث  
کے جواب میں فرماتے ہیں :

ان ما ذکر و امن القرعۃ المذکورۃ فی حدیث عمران منسخ  
 لان القرعۃ قد کانت فی بدأ الاسلام الم  
 کہ حدیث عمران میں جو قرعہ آیا ہے وہ منسخ ہے کیونکہ قرعہ ابتداء اسلام  
 میں تھا۔ پھر منسخ ہو گیا۔

امام طحاوی نے اس پر یہ دلیل بیان فرمائی ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے  
 پاس تین آدمی آئے۔ وہ ایک پچھہ کے متعلق جھگڑتے تھے۔ ایک عورت کے ساتھ  
 ان تینوں نے ایک طہر میں جماع کیا جس سے بچہ پیدا ہوا۔ وہ تینوں مدعا تھے حضرت  
 علی نے قرعہ ڈالا۔ اور جس کا نام نکلا اس کو پچھہ دے دیا۔ یہ فیصلہ رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ تو آپ ہنسنے اور کچھ نہ کہا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے قرعہ پر انکار نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت یہی حکم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ  
 عنہ کو پھر سیبی واقعہ پیش آیا۔ تو آپ نے وہ بچہ دعیوں کو دلوادیا۔ اور فرمایا ہو بین کما  
 یہ شکما و ترثانہ کہ یہ بچہ تم دلوں دعیوں کا ہے۔ یہ تمہارا دارث ہو گا۔ تم دلوں  
 اس کے وارث ہوئے۔ (طحاوی ص ۴۳ جلد ۲) یہاں آپ نے قرعہ کا حکم نہ دیا معلوم  
 ہوا کہ قرعہ منسخ ہو چکا تھا۔

شیخ محقق ابن الباجام رحمہ اللہ فتح القدير ص ۲۳ جلد ۲ میں فرماتے ہیں کہ  
 یہ حدیث (ظاہراً) صحیح ہے لیکن باطنًا صحیح نہیں جس حدیث کی سنیدھ صحیح ہو۔ ہو  
 سکتا ہے کہ وہ کسی علت قادر کے سبب ضعیف ہو۔ قرآن شریف و سنت مشہورہ  
 کی مخالفت بھی علل قادر ہے۔ اسی طرح عادات جو کہ اس کے خلاف پر قاضیہ  
 ہو اس کی مخالفت بھی ایک علت قادر ہے۔ اور یہ حدیث نفس قرآن کی مخالفت  
 ہے۔ قرآن شریف میں (میسر) جو کو حرام فرمایا گیا ہے۔ قرعہ بھی اسی جنس سے ہے  
 میسر میں ملک یا استحقاق کا خطر کے ساتھ متعلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے

ہے۔ اور حادث اس کے خلاف یہ ہے کہ ایسا شخص عادت کے خلاف ہے کہ اس کے چھ غلام تو ہوں اور ان کے سوا اس کے پاس کوئی درسم دینار کپڑا بتن وابہ غلہ گھروغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ نہ خنوڑی چیز ہونہ سبھت تو اس عالت باطنہ کے سبب یہ حدیث معتبر نہیں فاہم۔ علاوہ اس کے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث ایک حال کا واقعہ ہے۔ اور وہ عام نہیں ہوتا۔ والتداعلم۔

اعتراض ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے چند حدیثیں لکھی ہیں جن سے اس امر کی اجاز معلوم ہوتی ہے کہ آقا اپنے غلام کو حب کر دے زنا کرے حد لگا سکتا ہے۔ چھ امام ابو حیان فرمدیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا اپنے غلام کو جلد نہ کرے یعنی حد نہ لگائے۔

جواب میں کہتا ہوں امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سید اپنے غلام کو حد نہ لگائے بلکہ وہ امام کے پاس مراجعہ کرے اور وہ حد لگائے اس مشکلہ میں بھی امام اعظم رحمہ اللہ متفرد نہیں ہیں بلکہ ایک جماعت اہل علم کی آپ کے ساتھ ہے۔ ترمذی نے بھی اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔

ابن حجر منتج الباری میں فرماتے ہیں:

فقالت طائفہ لا يقيمه الا الامام او من ياذن له وهو قول الحنفیه۔ (الجزء ۲ ص ۳۴)

یعنی سلف کا اس مشکلہ میں اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ امام ہا جس کو امام اذن دے اس کے سوا دوسرا کوئی حد نہ لگائے۔ یہ قول حنفیہ کا ہے۔ علام علیٰ نے لکھا ہے کہ حسن بن حبی بھی اسی کے قائل ہیں۔

امام اعظم محمد اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں حسن عبد اللہ بن محیر بیز و عمر بن عبد العزیز سے نقل کیا ہے۔

انہم قالوا الجمعة والحدود والزکوة والفقی الى السلطان خاصة  
کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جمعہ اور حدود اور زکوٰۃ اور فقی سلطان سے متعلق ہیں۔

ابن الی شیبہ نے حسن بصری سے روایت کیا ہے:

قال اربعۃ الى السلطان الصلوٰۃ والزکوٰۃ والحدود والقصاص  
کچار چیزیں سلطان کے متعلق ہیں (جمعہ) کی نماز اور زکوٰۃ اور حدود اور قصاص۔

اسی طرح عبد اللہ بن محیر بیز سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

الجمعة والحدود والزکوٰۃ والفقی الى السلطان۔

اسی طرح عطا حمزہ اسافی سے بھی منقول ہے۔ (تعليق المجموع ۳۰۹ و نسب الراوي ۹۷ ص)

حافظ ابن حجر تلخیص ص ۳۵۳ میں فرماتے ہیں:

احرجه ابن ابی شیبۃ من طریق عبد اللہ بن محیر بیز قال  
الجمعة والحدود والزکوٰۃ والفقی الى السلطان۔  
ملاعلی قاری مرقاۃ میں بحوالہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔

ولنا ماروی الاصحاب فی کتبہم عن ابن مسعود وابن عباس  
وابن الزبیر موقوفاً ومرفوعاً باربع الى الولاة للحدود والصدقة  
والجماعات والفقی۔

کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو فقہاء علیہم الرحمۃ تے اپنی کتابوں میں ابن مسعود و  
ابن عباس و ابن زبیر سے موقوفاً و مرفوعاً راویت کیا ہے کہ چار چیزیں حکام سے متعلق  
ہیں۔ حدود و صدقات و جماعات و فقی۔

امام طحاوی نے مسلم بن یسار سے روایت کیا ہے،

كان أبو عبد الله رجل من الصناعة يقول الزكوة والمحدود  
والغنى والجمعة إلى السلطان -

ابو عبد الله صاحب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ وحدود غنی و محبرہ با شاہ متعلق ہیں

(فتح الباری ص ۱۳۷ ج ۲۸)

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ عام ہیں امام اور غیر امام کو شامل  
ہیں امام صاحب کے نزدیک ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ آفاحد لکانے کا سبب  
ہے۔ یعنی حاکم تک مرا فغم کرے اور حاکم حد لگائے -

علام علی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں :

قلت الصراحة ممنوعة لأن الخطاب عام لهذه الأمة و  
كذا الفظ أحدكم فيشمل الإمام وغيره ولا شك أنه  
الفرد الأكمل فينصرف المطلق إليه ولأنه العالم  
يتعلق بالحد من الشر و طوله ليس كل واحد من المطالبين  
له أهلية ذلك مع أن المطالب متهم في ضربه و قتلها أنه  
لذلك اولعنيه ولاشك أنه لوجوز له على اطلاقه  
لتزب عليه فساد كثير -

یعنی یہ کہنا کہ یہ حدیثیں صریح و الامت کرتی ہیں۔ کہ مولی اپنے غلاموں پر حد  
قام کرے ممنوع ہے۔ کیونکہ خطاب اس امت کے لیے عام ہے۔ اسی طرح  
احد کو کا لفظ بھی عام ہے تو امام وغیر امام کو شامل ہے۔ اور اس میں کوئی  
شک نہیں کہ امام ہی فرد اکمل ہے۔ تو مطلق کو اسی فرد اکمل کے طرف پھیرا جائیگا  
اور اس لیے یہ خطاب امام کی طرف پھیرا جائیگا۔ کہ وہ حدود کے شرائط کا عالم ہے  
اور مالکوں میں سے ہر ایک اس کی اہلیت نہیں رکھتا علاوہ اس کے مالک اُس کے

مارنے اور قتل میں متهم بھی ہے کہ اس نے وہ حد زنا کے سبب لگائی ہے یا کسی اور قصور کے سبب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مطلق اس کی اجازت دی جائے کہ مالک خود حد لگائے۔ تو اس پر بہت فناد مترتب ہو گا۔

**شیخ عبدالحق محدث دھلوی اشتقہ اللمعات ص ۳۴، ۲ جلد ثالث میں فرمائیں۔**

استدلال کروہ اند شافعیہ بایں حدیث بر آنکہ مولیٰ رامیر سد کہ اقامۃ حد کند بر وادی خود و حنفیہ میکنند ایں را بہ تبییب یعنی سبب واسطہ حد و شود و پیش حاکم برد کہ حد زند۔

کہ شافعیہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ موالی کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنی کنیز ک یا غلام پر حد لگائے اور حنفیہ اس حدیث کو تبییب پر جمل کرتے ہیں کہ آقا حد کا سبب اور واسطہ بنے اور حاکم کے پاس لے جائے۔ تو حاکم اس پر حد لگائے۔

### اعتراض

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے حدیث پیر لصاغہ و حدیث قلتین و حدیث الماء لا یجنب لکھ کر ثابت کیا ہے۔ کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔

### جواب

میں کہتا ہوں امام عظیم رحمہ اللہ کے نزدیک تھوڑا پانی وقوع نجاست سے پلید ہو جاتا ہے۔ گواں کارنگ بو مزہ نہ بدلتے۔ امام صاحب کی دلیل و حدیث ہے جو امام سجاہی نے صحیح میں روایت کی۔

عن ابی هریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
لَا يبولنَّ احْدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّامُّ الَّذِي لَا يُجْرِی شَرِيفَتْلُ فِيهِ۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے تھیرے ہوئے پانی میں جو بہتا ہنہیں ہے بول نہ کر کے کچھ راسی میں غسل کر۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بول کرنے سے پانی پلید ہو جاتا ہے اسی واسطے پھر اس پانی سے غسل کرنے کی ممانعت فرمادی اور ظاہر ہے کہ تھوڑا پانی وقوع بول سے متغیر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وقوع نجاست سے تھوڑا پانی پلید ہو جاتا ہے کو متغیر نہ ہو۔

علی قاری رحمہ اللہ مرقاۃ میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :

و ترتیب الحکم علی ذلك يدل على ان الموجب للمنع انه يتجمس فلا يجوز الا غتسال به و تخصيصه بالدائم يفهم منه ان العجاري لا يتجمس الا بالتغيير.

یعنی اس حدیث میں ہنی کی علت یہی ہے کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے پھر اس سے غسل جائز نہیں اور دائم کی قید اس لیے ہے کہ جاری پانی ناپاک نہیں ہوتا، مگر اس وقت کہ وقوع نجاست سے اس کا نگہ بو مزہ بدلتا۔

علام ابن حجر فتح البدر میں فرماتے ہیں :

و کله مبني على ان الماء يتجمس بملائقة النجاستة۔  
اور اگر پانی بہت ہو تو اس میں بول کرنا مفضی الی النجاست ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بول کرنا شروع کر دیں گے تو پانی کیش رسمی متغیر ہو جائیگا۔  
(۲) صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في

الوناء حتى يغسلها شلاٹا فانه لا يدرى اين ما تيده (مسلم)

کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اُٹھے اس کو چاہیئے کہ جب تک اپنے ہاتھوں کو نیند بار دھونے لے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ اس کو یہ خبر نہیں کہ سوتے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہو۔

اس حدیث میں آپ نے احتیاط کے لیے ہاتھ دھونے کا ارشاد فرمایا کہ شاید اس کے ہاتھ کو استخفا کی جگہ سے کوئی سجاست لگی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ شبہ سے بچنے کا وہیں حکم کیا جاتا ہے جہاں یقین کے وقت پچا صفر وی ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر ہاتھ کو یقیناً سجاست لگی ہو تو ضروری ہو گا۔ کہ برتن میں نہ ڈالے اور اس سے بچے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پانی پلید ہو جاتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سجاست جو اس کے ہاتھ میں لگی ہو۔ پانی کو متغیر نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوا کہ پانی وقوع سجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ گو متغیر نہ ہو اگر یہ امر نہ ہو۔ یعنی پانی ناپاک نہ ہو تو اس احتیاطی حکم کے کوئی معنے نہ ہونگے۔ کیونکہ اگر پانی وقوع سجاست سے ناپاک نہیں ہوتا تو اس شبہ کے وقت جب کہ ہاتھ پر کوئی سجاست ظاہری نہ لگی ہو برتن میں ڈالنے کی مماعت بے معنی ہوگی۔

(۳۴) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الأناء أحدكم إذا ولع فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أوليهن بالتراب۔ (مسلم)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے برتن کا پاک ہونا جب کہ اس میں کتنا پانی پیٹھے یہ ہے کہ سات بار دھونے پہلی بار مٹی ملے۔ ترمذی میں اس آیا ہے:

يغسل الاناء اذا ولع فيه الكلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب۔

کر کتا جس برتن سے پانی پی جائے اسکو سات بار دھویا جائے مپلی باریا پھلی  
بامٹی کے ساتھ ہو۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پانی بخس ہو جانا ہے کتا کے پانی پینے سے  
پانی متغیر نہیں ہوتا پھر بھی حضور علیہ السلام نے اس کے دھونے کا حکم فرمایا اور اس  
کو طہور فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ پانی اور بتن دلوں بخس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آپ  
طہور اناء احد کہونہ فرماتے۔

(۴) عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر ابن الزبير  
فنزح ما هافجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين قحرى  
من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم -

(رواہ الطحاوی وابن ابی شیبہ)

عطاء سے روایت ہے کہ زمزم کے کنوں میں ایک جدشی گرا اور مر گیا تو ابن  
زبیر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کا پانی نکالا جائے جب پانی نکالا گیا تو پانی ختم نہ ہو  
اہنوں نے دیکھا کہ حجر اسود کی طرف سے ایک چشم اُبل رہا ہے۔ ابن زبیر نے فرمایا  
بس کافی ہے یعنی اب اور پانی نکالنے کی ضرورت نہیں۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پانی اگرچہ متغیر نہ ہو و قوع نجاست سے ناپاک ہو  
جاتا ہے۔ اگر زمزم کا پانی جدشی کے مر نے سے ناپاک نہ ہوتا تو ابن زبیر اس کا پانی نکلا کر  
دارقطنی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ اہنوں نے  
بھی پانی نکلوائے کا حکم فرمایا۔

(۵) امام طحاوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے  
فرمایا کہ کنوں میں اگر چوہا گر کر مر جائے تو اس کا پانی نکالا جائے۔  
(آثار السنن)

## حدیث پیر بضاعة

ابن ابی شیبہ نے جو بیر بضاعة کی حدیث لکھی ہے اس

حدیث میں کلام ہے اس کا ایک راوی عبد اللہ بن عبد اللہ بن رافع ہے جو محبول العین والمال ہے۔ ابن قطان فرماتے ہیں کہ بعض تو عبد اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں بعض عبد اللہ بن عبد اللہ بعض عبد اللہ بن عبد الرحمن۔ بعض عبد اللہ بن عبد الرحمن بعض عبد الرحمن بن رافع۔ پھر فرماتے ہیں:

وَكَيْفَ مَا كَانَ فَهُوَ لَا يَعْرِفُ لَهُ حَالٌ وَلَا عَيْنٌ۔

یعنی کچھ بھی ہواں راوی کا ذریحہ معلوم ہے نہ عین۔ یعنی یہ بھی پتہ نہیں کروہ کون ہے۔ اور اس کا کیا نام ہے۔ (آثار) جو ہر النّقْصَ صَرِیحاً ہے۔

مَعَ الاضطِرَابِ فِي اسْمِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ حَالٌ وَلَا عَيْنٌ وَلَهُذَا  
قَالَ أَبُو الْحَسْنِ بْنُ الْقَطَانَ الْحَدِيثُ إِذَا تَبَيَّنَ أَمْرُهُ تَبَيَّنَ  
صَنْفُهُ۔

یعنی اس راوی کے نام میں اضطراب ہے۔ اس لیے نہ اس کا حال معلوم ہے نہ اس کا عین۔ اسی واسطے ابن قطان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جب حال کھلے گا اس کا صفت ہی ظاہر ہو گا۔

علاوہ اس کے اس حدیث میں الف لام عہد کے لیے ہے۔ استغراق کے لیے مہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہواليعنی بیر بضاعة کا پانی پاک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پانی کثیر تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص صریح میں امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کانت بیر بضاعة کبیرة واسعة۔

کے بیرونی صناعہ سبھت بڑا اور کھلا تھا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم راجح طبیبہ کو پسند فرماتے تھے۔ آپ یہاں تک نہ رہتے پسند تھے کہ آپ نے پانی میں بخوبی ناک جھاڑنے سے منع فرمادیا تھا۔ تو ایسا کنوں حس میں جیض کے جیتھے اور کتوں کا گوشہ دیا۔ جذماً ہو عقل سلیم کبھی ماننے کو تیار نہیں۔ کہ آپ ایسے کنوں سے وضو کرتے ہوں یا آپ نے وضو کر لئے کی اجازت فرمائی ہو۔ مسلمان تو درکار کافر بھی اپنے کنوں میں ایسی اشیاء نہیں ڈالتے۔ وہ بھی پانی کو نجاست سے بچاتے ہیں۔ بھر عرب میں جہاں پانی کی قلت ہے تو لامعاں رہنا پڑیا کہ یا تو یہ حدیث ضعیف قابل جست نہیں کہا بینا۔ یا اس کنوں میں بارش کے سبب میدان یا الگیوں کا پانی بہتا ہوا آتا ہو گا۔ اور سیلاں کے ساتھ ایسی اشیاء بھی گرفتی ہوں گی۔ اور بسب کثرت پانی کے یا بسب جاری ہونے کے وہ پانی متغیر نہ ہوتا ہو گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے یا اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے جیسے کہ صاحب آثار السنن نے ص ۱۶ میں لکھا ہے کہ

پانی پاک ہے یعنی اس کی طبع طہارت سے زائل نہیں ہوتی۔ اور اس کو کوئی شے پلید نہیں کرتی کہ نجاست کے زائل ہو جانے سے بھی وہ پلید ہے یعنی پانی اپنے اصل میں پاک ہے جب اس میں نجاست پڑ جائے تو پلید ہو جاتا ہے۔ نجاست نکال دی جائے اور پاک کر لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نجاست پڑنے سے بھی پلید نہیں ہوتا۔ جس طرح حدیث ان لا ارض لا بخش میں ہے کہ زمین پلید نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر پلید ہو تو بھی پلید نہیں ہوتی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نجاست کے زائل ہونے کے بعد وہ پلید نہیں رہتی۔ اسی طرح بیرونی صناعہ کا مستلزم ہے کہ جب قوم نے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنوائیں کا مسئلہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ان لوجواب دیا کہ یہ کنوائیں واقعی ایسا ہی تھا۔ جیسے کہ تم نے سوال میں بیان کیا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں بلکہ سجاست زائل ہو چکی ہے اس کا پانی پاک ہے۔ معلوم ہوا کہ جاپلیت میں کنوائیں میں ایسی اشیاء گرتی تھیں۔ اس لیے لوگوں کو اس کے پانی میں شک تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ باوجود کثرت نزح کے اس وقت ان اشیاء کا کچھ اثر نہیں اس کا پانی پاک ہے۔

ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے جو حدیث قلتین لکھی ہے اس کو مہت علماء نے ضعیف فرمایا ہے اسماعیل قاضی اور ابو بکر بن عرنی و ابن عبد البر و ابن نیمیہ وغيرہ من نے اسے ضعیف کہا (آثار السنن) اس حدیث کی سند اور متن اور معنوں میں ضطرب ہے اور اضطراب حدیث کو ضعیف کر دیتا ہے کہا ہو میرہن فی الاصول۔ علاوہ اس کے حدیث بیرضاعہ میں کوئی حد متعین نہیں لیکن قلتین میں تحدید ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ قلتین سے اگر پانی کم ہو تو وقوع سجاست سے ناپاک ہو جانا ہے۔ اور وہ جو فقرہ علیہم الرحمہ نے دہ دردہ کی تحدید لکھی ہے حد قلتین اس کے خلاف نہیں بلکہ پانی جو بمقدار دو قلم کے ہو اگر ایسے حوض میں ڈاجائے جو دہ دردہ ہو تو اتنا ہو سکتا ہے کہ دونوں لپیں سمجھ کر اٹھانے سے زمین ننگی نہ ہو تو معلوم ہوا کہ قلتین کا مقدار آپ کیسر ہے۔ نیز قل ایک مشترک لفظ ہے جس کے کئی معنے ہیں اور اس حدیث میں کوئی معنے متعین نہیں۔ واللہ اعلم

تیسرا حدیث جو کہ ابن ابی شیبہ نے لکھی ہے اس کو اگرچہ ترمذی نے صحیح کہا ہے لیکن اس میں سماک بن حرب ہے جو عکرہ مہ سے روایت کرتا ہے اور اس کی عکرہ مہ سے جو روایت ہو وہ بالخصوص مضطرب ہوتی ہے کما فی التقریب۔ نیز سماک اخیر عمر میں متغیر ہو گیا تھا۔ اور اس کو تلقین کیا جانا تھا اس لیے اس کی صحت میں کلام ہے۔

علاوہ اس کے اس حدیث کا مطلب بھی صاف ہے۔ کہ ایک لگن میں ایک بی بی صاحبہ نے عنل کیا حضور علیہ السلام اس سے عنل یا وضو کرنے لگے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ناپاک بھتی۔ میں نے اس پانی سے عنل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پانی جبکہ نہیں ہوا۔ یعنی پلید نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ تمہارے عنل کرنے سے پانی پلید نہیں ہوا اس کا یہ معنی نہیں کہ پانی و قوع سنجاست سے بھی ناپاک نہیں ہوتا یہ ز کہا جائے کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ بی بی صاحبہ نے لگن میں عنل نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس سے چلو بھر بھر کر مبن پرڈا تھتھے۔ تو اس صورت میں پانی مستعمل بھی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

اعتراض ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام اعظم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آفتاب کے نکلنے یا ڈوبنے کے وقت نیند سے جا گئے اور اسی وقت نماز پڑھ تو جائز نہیں اور اس کو حدیث من نبی صلواۃ اونام عنہا اور حدیث لیسلۃ التعریف کے خلاف قرار دیا ہے۔

جواب میں کہتا ہوں امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل اس مسئلہ میں وہ حدیث ہے جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ثلات ساعات کا ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس باز غہ حتى ترتفع و حین یقوم قائم الظہیرۃ حتى تمیل الشمس و حین تضییف الشمس للغرب و حتى تغرب کرتین ساعتیں ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور

مردہ دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک سورج نکلنے کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو ایک دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ ایک غروب ہونے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔  
بخاری و مسلم کی روایت میں ہے :

اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى تبرز فإذا

غاب حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى تغيب (متقد عليه)

یعنی جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے۔ اور جب کنارہ آفتاب کا غائب ہو تو نماز چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ غائب ہو جائے۔ اسی طرح اور بہت احادیث میں آیا ہے۔

معلوم ہوا کہ حدیث من نبی صلواۃ او نام عنہا کے عموم اوقات میں سے حدیث عقبہ کے ساتھ اوقات ثلثہ کی تخصیص ہو گئی یعنی مستيقظ یا ناسی جب اُٹھے یا یاد کرے نماز ادا کرے لیکن اوقات ہنی میں مسبب حدیث عقبہ ادا نہ کرے۔ علاوہ اس کے حدیث عقبہ حرام ہے تو اوقات ثلثہ کا اخراج حدیث تذکرے کے عموم سے اولی ہے کما تھہ العلامۃ المحقق فی فتح القدریہ۔ علاوہ اس کے حدیث تعریس میں تصریح ہے کہ آپ نے اُٹھتے ہی نماز ادا نہیں کی بلکہ اس منزل سے کوچ کیا۔ جب آفتاب بلند ہوا تو نماز پڑھی۔ طحا وی میں ہے کہ حکم و حماد سے شعبہ نے پوچھا کہ کوئی شخص جاگے اس وقت محفوظ اس آفتاب نکلا ہو تو کیا نماز پڑھے آپ نے فرمایا نہ یہاں تک کہ آفتاب اچھا کھل جائے۔ واللہ اعلم۔

اعتراض ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے پکڑا ہی پر مسح کرنے کی حدیث لفتل کر کے امام اعظم رحمہ اللہ سے اس کا عدم جواز نقل کیا ہے۔

**جواب** میں کہتا ہوں۔ حدیث میغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ناصیہ پر کامیح کر کے باقی کو پگڑا ہی پر تکمیل کرے امام صاحب اس صورت میں منع نہیں فرماتے صرف پگڑا ہی پر صح کرنا اور سر کے کسی حصہ کا منع نہ کرنا نہ صرف امام اعظم بلکہ امام مالک و امام شافعی و جہور علماء کے نزدیک جائز نہیں جن احادیث میں پگڑا ہی پر صح کرنا آیا ہے ان میں یہ دلالت نہیں کہ سر کا منع نہیں کیا اور صح عمامہ پر اتفاق کیا بلکہ بعض روایات میں صح عمامہ کے ساتھ صح ناصیہ کی تصریح ہے۔ ابن الیشیہ کے حدیث میغیرہ والوں مسلم میں صح ناصیہ موجود ہے۔

موطأ امام محمد کے صدر میں جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنہ سے آیا ہے۔

انہ سئل عن العماۃ فقال لاحقی یمس الشعرا ما۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ یہیں جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنہ سے پہنچا ہے کہ ان کو پگڑا ہی کے صح کا حکم پوچھا گیا تو اپنے فرمایا کہ جائز نہیں یہاں تک کہ بالوں کو پانی پہنچے۔ یعنی جب تک سر کے کسی حصہ کا منع نہ کیا جائے صرف پگڑا ہی پر جائز نہیں۔  
امام محمد فرماتے ہیں:

وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله۔

کہ یہاں اعمل اسی پر ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔

معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ اکتفا بمنع عمامہ کے قائل نہیں۔ الگر کچھ حصہ سر کا بھی منع کیا جائے تو باقی سر کے لیے پگڑا ہی پر صح کر لینا جائز سمجھتے ہیں اور یہی حق ہے  
مجموع البخاری ص ۲۷ جلد اول میں فرماتے ہیں:

انہ یحتاج الى منع قليل من الرأس ثم يمسح على العامة

بدل الاستیعاب۔

یعنی پچھلے پر مسح کرنے میں تھوڑے سے سر کا مسح کرنے کی حاجت ہے یعنی تھوڑا سا سر کا مسح کر کے پھر پچھلے پر مسح کرے تو یہ پچھلے کا مسح سارے سر کے مسح کرنے کے بدل میں ہو جائے گا اور سنت کی تکمیل ہو جائے گی۔

علاوہ اس کے علی فاری رحمہ اللہ نے مرقاۃ ص ۱۱۳ جلد اول میں بعض شرح حدیث سے نقل کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناصیہ پر مسح کر کے پچھلے کو ٹھہرایا۔ درست کیا ہو تو راوی نے اسے مسح گمان کر لیا ہو۔ اس مسئلہ کی معفصل تحقیق ہم نے نماز مدلل میں بیان کی ہے۔

### اعتراض

ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پارچ رکعت بھول کر پڑھی صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پارچ رکعت نماز پڑھی تو آپ نے بعد سلام کے دو سجدے کیے۔ ابو حینہ کہتے ہیں اگر چوچھی رکعت میں قعده نہ بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرے۔

### جواب

میں کہتا ہوں قعده اخیرہ بالاجماع فرض ہے۔ اگر چوچھی رکعت میں قعده نہ ہو تو ترک فرض لازم آتا ہے جس سے نماز کا اعادہ لازم۔ حدیث مذکور یہ ذکر نہیں کہ آپ نے چوچھی رکعت کا قعده ترک کیا اگر اس حدیث میں ترک قعده کا ذکر ہوتا۔ تو امام حب کا یہ قول کہ نماز کا اعادہ لازم ہے۔ حدیث کے خلاف ہوتا۔ لیکن حدیث تو ساکت ہے۔ صرف ترک کا احتمال ہے اور احتمال سے استدلال تمام نہیں ہوتا۔ علام عینی حدیث کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے اور ظہر نماز کے جمیع اركان کا نام ہے اور قعده اخیرہ بھی رکن ہے جس سے معلوم ہوا کہ قعده اخیرہ بیٹھ

کر اُس کو قده او لی سمجھ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رکعت سادسہ کا ضم اس لیے  
نہیں کیا کہ اس کا ضم لازم نہیں وہ بہر حال نفل میں اس لیے آپ نے بیان الگجا ضم  
کو ترک کیا۔ هذ املتقط ما افادہ الشیخ المحقق فی صریح الحماۃ۔

(التعليق المجلب)

### اعتراف

ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے ابن عباس و جابر و ابن عمر رضی اللہ عنہم  
سے حدیثیں نقل کی میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر حرم کے پاس  
تہ بند نہ ہو تو پا جامہ پہن لے۔ نعلین نہ ہوں تو موزے پہن لے۔ ایک روایت  
میں ہے کہ نعلین نہ ہوں تو موزے شخصوں سے نیچے پہنے امام ابو حیفہ نے کہا کہ ایسا  
نہ کرے اگر کریگا تو اُس پر دم لازم آتے گا۔

### جواب

میں کہتا ہوں امام ابو حیفہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صورت کے  
وقت بھی ایسا نہ کرے البتہ یہ فرمایا ہے کہ کرے تو دم لازم ہے۔ اب ابی شیبہ نے  
جو حدیثیں نقل کی میں ان میں یہ ذکر نہیں کہ اس پر کفارہ بھی نہیں ان میں تو صرف  
یہی ذکر ہے کہ جو شخص تہ بند نہ پائے تو پا جامہ پہن لے پاپوش نہ پائے تو موزے  
جو شخصوں کے نیچے ہوں وہ پہن لے۔ امام صاحب مجھی یہی فرماتے ہیں کہ نہ پائے تو پہن  
لے پھر ان کا یہ قول حدیث کے برخلاف کیسے ہوا البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اُس پر دم  
لازم ہے۔ آپ کا یہ فرمان اسکی حدیث کے خلاف نہیں۔  
علامہ علی قاری رحمہ اللہ مرقاۃ میں فرماتے ہیں:

اما قول ابن حجر رحمہ اللہ و عن ابی حنیفة و مالک

امتناع لبس السراويل علی هیئتہ مطلقاً فغير صحیح عنہما

کہ ابن حجر نے جو کہا ہے کہ امام ابو حیفہ و امام مالک کے نزدیک مطلقاً پا جامہ

کو اپنی ہیئت پر پہننا منع ہے یہ ان دونوں اماموں سے صحیح نہیں ہوا یعنی یہ دونوں امام بوقت نہ پانے ازار و نعلین کے پا جامہ و موزہ کا پہننا جائز کہتے ہیں یا موزوں میں اگر قطع ہوتا کہ لٹخنے نکلے ہو جائیں اور پا جامہ کو کھول کر ازار بنایا جائے تو اس صورت میں پہن لینے سے کفارہ نہیں اگر موزے قطع نہ کرے اور پا جامہ نہ کھولے اسی طرح بنایا پہنے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔

علی فاری رحمہ اللہ مرقاۃ ص ۲۵ میں رازی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ازار کے نہ پائے جانے کے وقت پا جامہ کا پہن لینا بغیر کھولنے کے جائز ہے اور یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر دم لازم نہیں کیونکہ کبھی وہ کام جو حرام میں منسوخ ہے لبسب ضرورت کے اس کا ارتکاب جائز ہوتا ہے۔ لیکن کفارہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے سر کا منڈانا حجہ کہ ایذا نہ ہو کفارہ کے ساتھ جائز ہے اسی طرح سیاہ اپڑا کسی عذر کے سبب پہننا کفارہ کے ساتھ جائز ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ میں حدیثیں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ وہی ان احادیث کی طرف گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص ازار و نعلین نہ پائے وہ پا جامہ و موزہ پہن لے اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ رسول نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم بھی بوقت ضرورت پا جامہ و موزہ پہن لینا جائز جانتے ہیں لیکن ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں اور ان احادیث میں کفارہ کی نظر نہیں۔ تو ان احادیث میں اور ہمارے قول میں کوئی خلاف نہیں کیونکہ ہم اگر یہ کہیں کہ اگر ازار و نعلین نہ پائے تو بھی پا جامہ و موزے بالکل نہ پہننے تو بے شک ہمارا قول حدیث کے خلاف ہوتا لیکن ہم تو جائز کہتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے اس کو جائز فرمایا۔ ہم اس پر کفارہ لازم کرتے ہیں جو دوسرے دلائل سے اس کا لازم ثابت ہے۔ مچھرا امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی قول امام ابوحنیف و محمد و ابو یوسف کا ہے۔ انتہی

اور یہ بات کہ پا جامہ کا پہننا احرام میں منوع ہے۔ حدیث ابن عمر سے ثابت ہے تو احرام کے مختروقات میں سے جس کی ضرورت کے وقت اجازت ہوئی ہے کفارہ کے سانحہ ہوئی ہے تو پا جامہ و موزوہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ ہوگی۔ یا پا جامہ بھی کھو لاجائے۔ تو کفارہ لازم نہیں آتا اس میں پا جامہ کو موزوں پر قیاس کیا گیا ہے جس طرح موزوں کے متعلق حدیث ابن عمر میں قطع کا حکم آیا ہے اسی طرح پا جامہ کو ان پر قیاس کر کے اس کی بھی ہیئت بدل کر یعنی کھول کر استعمال کرنے سے کوئی کفارہ نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

اعتراف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ فیہ چند حدیثیں جمع بین الصلوٰتین کے متعلق روایت کر کے فرمایا کہ امام صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ دو نمازوں میں جمع نہ کیا جائے۔

جواب میں کہتا ہوں امام عظیم علیہ الرحمۃ نے جو فرمایا ہے وہی حق اور صواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتباباً موقوتاً  
كـهـنـاـزـ مـسـلـاـنـوـلـ پـرـ فـرـضـ ہـےـ وـقـتـ باـنـدـھـاـ ہـوـاـ۔ وـقـتـ کـےـ پـہـلـےـ صـحـیـحـ زـوـقـتـ  
کـےـ بـعـدـ تـاخـیـرـ رـوـاـبـلـکـہـ فـرـضـ ہـےـ کـہـنـاـزـ اـپـنـےـ وـقـتـ پـرـ اـسـہـواـ۔  
۱) حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى۔

سب نمازوں کی محافظت کرو اور خاص نیچ والی نماز کی محافظت کرو یعنی کوئی نماز اپنے وقت سے ادھر ادھرنے ہوئے پائے۔ بیضا وی اور مارک میں ایسا ہی لکھا ہے۔

(۳) والذین هم على صلاتهم يحافظون۔

یعنی وہ لوگ کہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں کہ اُسے وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے وہی سچے وارث ہیں جنت کی وراثت پائیں گے۔

(۲) فخلفت من بعدهم خلف اصحاب الصلوة  
پھر آئے ان کے بعد وہ بُرے پسندے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں۔  
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:  
اخروہا عن مواقيتها وصلوها الفیر وقتها۔

یہ لوگ جن کی مذمت اس آیت میں ہے وہ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹاتے ہیں۔ اور غیر وقت پر پڑھتے ہیں۔ (عمدة التزكي و معالم النبوة)

(۵) امام مالک والبوداود ونسانی وابن حبان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے:

خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وصنوُهن  
وصلاهن لوقتهن واتِّم رکوعهن وخشوعهن كان له على  
الله عهداً يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد  
ان شاء غفرله وان شاء عذبه۔

پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیں جو ان کا صنو اچھی طرح کرے اور انہیں ان کے وقت پر پڑھے۔ اور ان کا رکوع و خشوع پورا کرے اُس کے لیے اللہ عز وجل پر عہد ہے کہ اسے بخشدے اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کچھ عہد نہیں چلہے بخشنے چاہتے عذاب کرے۔

اس حدیث سے وقت کی محافظت اور ترغیب اور اس کے ترک سے ترسیب،  
ہے۔ اس مضمون کی اہمیت احادیث ہیں جو "رسالہ حاجز البحرين" مولفہ علی الحسن  
بریلوی قدس سرہ میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ من شاء فلینظر ثمہ۔

ر۴) ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے ان کا وضو قیام خشوع رکوع سجود پورا کرے وہ نماز سفید رکشن ہو کر یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نگہداں نی کرے جس طرح تو نے میری حافظت کی اور جو غیر وقت پر پڑھے اور وضو خشوع رکوع سجود پورا نہ کرے وہ نماز سیاہ تاریک ہو کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جس تو نے مجھے ضائع کیا (طرابی)

نیز کئی حدیثیں اس مضمون کی آئی میں جس میں حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ وقت گزار کر نماز پڑھیں گے۔ تم ان کا اتباع نہ کرنا اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا۔ اسے مطلق فرمایا سفر حضرت کی کوئی تخصیص ارشاد نہ ہوئی۔

(۵) ابو قاتاہ النصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے:

لیس فی النوم تغريب انما التغريب في اليقظة ان تؤخر صلوة

حتى يدخل وقت صلوة أخرى.

کہ سوتے میں کچھ تقصیر نہیں تقصیر تو جاگتے میں ہے کہ تو ایک نماز کو اتنا پچھے ہٹائے کہ دوسرا نماز کا وقت آجائے۔  
یہ حدیث بعض صریح ہے کہ ایک نماز کی بیان تک تاخیر کرنا کہ دوسرا کا وقت آجائے گناہ ہے۔

ر۶) عن عبد الله رضي الله عنه قال مارأيت النبي صلي الله عليه وسلم صلي صلوة لغير ميقاتها الاصلاتين جمع بين

الغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها.

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو مگر و نمازوں کہ

ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزادلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا اور وہاں فجر بھی روز کے معمولی وقت سے پیشتر تاریخی میں پڑھی یہ حدیث بخاری و مسلم ابو داؤد نسافی میں ہے:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سابقین اولین فی الاسلام تھے اور ابو جہر کمال قرب بارگاہ الہبیت رسالت سے سمجھ جاتے تھے اور سفر حضرت میں لبستر گستردی و مساوک و مطہرہ داری و کفتش بداری محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم سے معززہ و ممتاز رہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو۔ مگر دو نمازیں ایک مغرب ہو مزادلفہ میں عشاء کے وقت پڑھی۔

(۱۹) اسی طرح سنن ابو داؤد میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مغرب و عشاء پر لا کر نہیں پڑھی بلکہ ایک بار کے وہ ایک بار وہی سفر حجۃ الوداع ہے کہ شب ہم ذی الحجه مزادلفہ میں جمع فرمائی گیں پرسب کا الفاق ہے۔

(۲۰) مؤٹا امام محمد میں ہے:

قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب في الأفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلوة واحبرهم ان الجمع بين الصلوتيين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الشقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول.

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام آفاق میں فرمان واجب الاذعان نافذ فرمائے کہ کوئی شخص دونمازیں جمع کرنے پائے اور فرمایا کہ ایک وقت میں دونمازیں ملانا لگناہ کبیرہ ہے۔

ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ جمع بین الصلاتین میں حدیث ابن عباس نقل کی ہے جس میں جمع صوری کی تصریح ہے۔ یعنی ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں اور دوسری کو اول وقت میں پڑھنا جو صورتًا جمع میں اور حقیقاً اپنے اپنے وقت پر ادا ہوئی میں چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

اظنه اخر الظہر و عجل العصر و آخر المغرب و عجل العشاء  
شوکافی نیل الا و طار میں کہتے ہیں

مما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصوري  
ما اخرجه النسائي عن ابن عباس روا ذكر لفظه قال، فهذا  
ابن عباس روى حديث الباب قد صرخ بان مارواه من الجمع  
المذكور هو الجمع الصوري -

امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک کسی عذر کے سبب جمع صوری منع نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ جمع کی کیفیت بیان کر کے لکھتے ہیں۔

وجميع ما ذهبنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين فتول  
ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله -

کر نمازین جمع کرنے کا یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ سب امام اعظم رحمۃ اللہ و امام ابو يوسف و امام محمد رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔

ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نے دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے وہ بھی جمع صوری ہے۔ ابواؤد وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث معاذ بن جبل سے اور ایک جابر رضی اللہ عنہما سے عزوفہ تبوک میں جمع نمازوں کی نقل کی ہے وہ بھی جمع صوری ہے بلکہ حبقدر مددشون میں مطلق جمع بین الصلاتین وارد ہے سب اس سے صوری پہلوں ہوں گی۔

ابن عمر رضي اللہ عنہ کی نسبت الودا و دمین آیا ہے کہ آپ کے مٹوں نے نماز کا  
تفاضا کیا فرمایا چلو یہاں تک کہ شفق ڈوبنے سے پہلے آئر کم غرب پڑھی پھر انتظار فرمایا  
یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی۔ اس وقت عشاء پڑھی پھر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
کو حب کوئی جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے۔ جیسے میں نے کیا ہے۔ اسی طرح نمازی و صحیح  
نمازی میں آیا ہے۔ الغرض جمع صوری کے بہت دلائل میں بخشش اس مسئلہ کو  
مبسوط دیکھنا چاہیے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کا "رجال الحاجز البحرين" مطالعہ  
کرے۔ جمع صوری جسکو جمع فعلی کہتے ہیں ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ بھی اس کی  
رضخت دیتے ہیں روا المختار میں ہے:

للمسافر والمریض تاخیر المغرب الجمع بینهما وبين العشاء  
فعلاً كما في الحليه وغيرها ای ان يصلی في آخر وقتها  
والعشاء في اول وقتها - نیز کتاب الحجج میں ہے۔

قال ابوحنیفہ رحمہ اللہ الجموع بین الصلاتین فی السفر  
فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء سواء يوخر الظہر  
الی آخر وقتها ثم يصلی ويعجل العصر فی اول وقتها فیصلی  
فی اول وقتها و كذلك المغرب والعشاء يوخر المغرب الی  
آخر وقتها فیصلی قبل ان یغیب الشفق و ذلك اخر وقتها  
ولیصلی العشاء فی اول وقتها حين یغیب الشفق فهذا الجموع  
بینهما۔ اسی میں ہے

قال ابوحنیفہ رحمہ اللہ من اراد ان یجمع بین الصلاتین  
بمطر او سفر او غيره فلیوخر الاولی منهم حتى تكون  
فی اخر وقتها ويعجل الثانية حتى يصلیها فی اول وقتها

فی جمیع بینہما فی کون کل واحد منہما فی وقتہما۔  
 جمیں وقتی وو قسم ہے جس کی تقدیم یعنی مشائلاً ظہر یا مغرب پڑھ کر اس کے ساتھ ہی  
 عصر یا عشا پڑھ لینا۔ اس کے متعلق تو کوئی حدیث صحیح نہیں۔ دوسری جمیں تاخیر یعنی  
 نماز ظہر یا مغرب کو قصد ایسا ہے کہ دیر کرنا کہ وقت نکل جائے پھر عصر یا عشا کے  
 وقت دونوں نمازوں کا پڑھنا اس بارہ میں جو احادیث آئی ہیں یا تو ان میں صراحتاً  
 جمیں صورتی مذکور ہے یا محبل محمل۔ اسی صریح مفصل پر مجموع۔ البتہ عرف میں جمیں  
 تقدیم اور مزدلفہ میں جمیں تاخیر۔ بو جہ نک ا بالتفاق انت جائز ہے۔ اور کسی موقعہ  
 پر جائز نہیں والبسط فی حاجزاً البحرين شاء فلینظر ثم۔ واللہ اعلم۔

## تھریط

فاضلِ اجل عالم بے بدِ استاذ العلماء رئیس الفضلاء  
حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ  
بسم اللہ و حامدًا ومصلیاً

حضرت فاضل جلیل عالم بنیل حامی سنن ماجی فقتن مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب  
نے حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ کی کتاب "الرد علی ابی حنیفہ" کا نہایت نفیں  
محققانہ جواب تحریر فرمایا ہے۔ میں نے اس کے اکثر مقامات کو دیکھا۔ ما شاء اللہ  
نہایت محققانہ شان سے، کمال متأنیت کے ساتھ جواب تحریر فرمایا ہے۔ جواب  
کیا ہے؟ دراصل چہرۂ حقیقت سے کشفِ حجاب و رفعِ نقاب ہے۔ اہل علم  
کے لیے مولانا کی یہ تحریر یہ میرہ بہت دل پسند و دل پذیر ہے۔ جزاہ اللہ احسن الجزاء۔  
حافظ ابن ابی شیبہ اگر آج ہوتے تو اس تحریر کی ضرور قدر کرتے اور اس کو اپنی  
مصنفوں کا جزو بناتے یا کتاب الرد کو اپنی مصنفوں سے خارج کرتے۔  
والحمد للہ رب العالمین، کتبہ العبد المعتصم بحبلہ المتین

محمد نعیم الدین غفرلہ

# نقریط

فرید العصر و حبید الدهر تاج المحدثین سراج المفقودین  
 حضرت مولانا ابوالعلاء محمد علی عظیمی رحمۃ اللہ علیہ  
 الحمد لواہب المراد املک الکریم الجواد والسلام  
 علی حنیر العباد شفیع یوم التناد و علی الہ الاسیاد  
 واصحابہ الامجاد۔ اما بعد

فیقر نے یہ رسالہ مولفہ حامی سنت ناصر ملت کا سر بدبعت وافع نجد سیت  
 جناب مولانا مولوی ابوالیوسف محمد شریعت صاحب، از اوں تا آخر دیکھا۔ نہایت  
 تدقیق و تحقیق پر پایا۔ ان جوابات کے دیکھنے سے ایجھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ  
 حضرت امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی حق و صواب ہے۔ اس کو خلاف حدیث  
 بنانے والا احتلاط کار و مرتاب ہے۔ حق یہ ہے کہ امام عظیم رحمۃ اللہ پر اعتراض کرنے والے  
 یا حاسدین میں یا امام کے ارشاد سے ناواقف یا احادیث سے غافل یا معافی آثار  
 سے جاہل میں۔ اتر ایمان و دیانت کی نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو  
 ظاہر ہو جائے گا کہ حضرت امام عظیم کا مذہب قرآن و حدیث کے عین مطابق  
 ہے۔

واللہ الموفق فیقر ابوالعلاء محمد مجید علی عظیمی عفی عنہ

## تیسرا باب

### فقہ وہابیہ

- ♦ فتاویٰ اشنازیہ
  - ♦ فقہ وہابیہ کے چند مسائل
-

# فتاویٰ شناختیہ

(مشتمل از خروارے)

## پیغمبر ایسے آغاز

اخبار اہل حدیث اور تفسیر سے مولوی شناہ اللہ صاحب کے چند فتاویٰ پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ مدعا و عیانِ عمل بالحدیث کے مذہب کا صحیح نقشہ اور ترکِ تقليید کی حرزاً ری روز روشن کی طرح عیان ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر غیر مقلدین کے پاس ایک ہی جواب ہو گا کہ

‘شناہ اللہ بھارا پیغمبر نہیں، اور یہ کہ ‘ہم اس کے مقلد نہیں’

بے شک ہم مانتے ہیں کہ وہ ان کا پیغمبر نہیں لیکن اس کی تقليید سے وہ انکار نہیں کر سکتے کیوں کہ اس کے اخبار میں اکثر فتاویٰ بے دلیل ہوا کرتے تھے جنہیں غیر مقلدین بغیر دریافت اور معرفت دلیل کے مانتے تھے۔ اور یہی تقليید ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر مقلد تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر تسلیم کرتے ہیں تو ان کا وہی مذہب ہوا جو شناہ اللہ کا مذہب تھا۔ تو خور طلب بات یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو دلائل کے ساتھ مانتے ہیں یا بغیر دلیل کے؟ اگر دلیل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں تو وہ دلائل کیا ہیں؟ اگر غیر مقلدین محض مولوی شناہ اللہ کے علم و فضل پر اعتبار کر کے مانتے ہیں تو اسی کا نام تقليید ہے۔

اگر غیر مقلدین ان مسائل میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں تو ان کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہوتی جس میں مولوی شناہ اللہ کے اغلاظ و خطاء کی ایک فہرست ہوتی۔

کیا امام ابو حنیفہ نے ہی ان لوگوں کا کچھ نقصان کیا ہے کہ وہ ان کا تختہ مشق

بنے ہوئے ہیں؟ کیا غیر مقلدین کے علماء کسی مسئلہ میں خطاء نہیں کر سکتے؟ اگر  
مجتہدین تو خطاؤ کریں، امام اعظم تو خطاؤ کریں لیکن مولوی ثناء اللہ سے کوئی خطاؤ  
سرزد نہیں ہو سکتی۔ کیا وحید الزمان یا نواب بھوپالوی خطاؤ سے متبر ہیں؟ اگر نہیں  
تو کیا وجہ ہے کہ امام اعظم کی خطاؤں کی تلاش کی جائے لیکن اپنے اکابر کی خطاؤں  
سے صرف نظر کیا جائے؟

فقیر ابو یوسف محمد شریف

## فتاویٰ نمبر ۱

منی پاک ہے۔

اہل حدیث ۲۹ فروری ۱۹۴۲ء، ۱۰ نومبر ۱۹۴۲ء ۲۱ جولائی ۱۹۴۲ء

## فتاویٰ نمبر ۲

رطوبت فرج اور مذی کی ناپاکی کا کوئی ثبوت نہیں۔

اہل حدیث ۱۶ جولائی ۱۹۰۹ء، ۱۴ ستمبر ۱۹۱۹ء ۱۰ نومبر ۱۹۴۲ء

## فتاویٰ نمبر ۳

کنوں میں چوہا گر کر جانے تو دیکھ لے اگر رنگ بُو مزہ نہیں بدلا تو کنوں پاک ہے۔

اہل حدیث ۷ فروری ۱۹۴۵ء صفحہ ۱

## فتاویٰ نمبر ۴

دودھ کی کڑا ہی میں اگر بچپن کے پیشاب کے قطرے گر جائیں تو دودھ پاک ہے۔

اہل حدیث ۱۳ جون ۱۹۱۹ء

## فتاویٰ نمبر ۵

خنزیر کا چمڑہ رنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔

اہل حدیث ۱ نومبر ۱۹۴۲ء

## فتاویٰ نمبر ۶

خنزیر کے پیشاب کے سوا باقی سب حیوانوں کا پیشاب پاک ہے۔

اہل حدیث ۱۰ نومبر ۱۹۴۲ء صفحہ ۳

فتویٰ نمبر ۷

شراب پاک ہے۔

اہل حدیث ۸ ستمبر ۱۹۷۲ء صفحہ ۷

فتویٰ نمبر ۸

کنویں سے مردہ کتا برآمد ہوا۔ اور پانی کا زنگ بومزہ نہ بدے تو کنوں پاک ہے۔

اہل حدیث ۲۹ نومبر ۱۹۷۹ء صفحہ ۱۷

فتویٰ نمبر ۹

جمشکار کیسے ہوئے جانور کی کچی کھال دباعت سے پاک ہو جاتی ہے۔

اہل حدیث ۶ جنوری ۱۹۷۳ء

فتویٰ نمبر ۱۰

مرداری کھال دباعت سے پاک ہو جاتی ہے۔

اہل حدیث ۸ ستمبر ۱۹۷۲ء

فتویٰ نمبر ۱۱

حیض اور نفاس کے خون کے سواباقی سب خون پاک ہیں۔

اہل حدیث ۱۰ نومبر ۱۹۷۲ء صفحہ ۷

فتویٰ نمبر ۱۲

مردہ جانور پاک ہے۔

اہل حدیث ۱۴ ستمبر ۱۹۷۳ء صفحہ ۱۷، ۱۸

فتویٰ نمبر ۱۳

پانی کتنا ہی قلیل ہو نجاست پڑھانے سے اگر زنگ بومزہ نہ بدے تو پاک ہے۔

اہل حدیث ۱۸ ستمبر ۱۹۷۳ء

**فتویٰ نمبر ۱۴**  
سماں نہ کر لے اکی حرمت کی دلیل میرے علم میں نہیں  
اہل حدیث ۱۶ اپریل ۱۹۲۹ء

**فتویٰ نمبر ۱۵**  
کچھوا، کوکرا، گھونکا حلال ہیں  
اہل حدیث ۲۷ نومبر ۱۹۱۸ء

**فتویٰ نمبر ۱۶**  
مچھلی جو دریا یا تالاب میں خود بخود مری ہو، حلال ہے۔  
اہل حدیث ۶ ستمبر ۱۹۱۸ء

**فتویٰ نمبر ۱۷**  
طاں مچھلی کے سوا دریا کے سب جانور حلال ہیں  
اہل حدیث ۳ ستمبر ۱۹۱۳ء، ۱۱ دسمبر ۱۹۱۳ء

**فتویٰ نمبر ۱۸**  
کافر کا ذبحہ حلال ہے۔  
اہل حدیث ۹ منی ۱۹۱۹ء، ۲۸ جولائی ۱۹۲۲ء

**فتویٰ نمبر ۱۹**  
قرآن کریم کا پیٹھو پیچھے ہونا کوئی گناہ نہیں۔  
اہل حدیث ۱۳ ستمبر ۱۹۲۹ء

**فتویٰ نمبر ۲۰**  
جنکی چار عیسائی وغیرہ غیر مسلموں کے گھر کا پکا ہوا کھانا جائز ہے  
اہل حدیث ۲ دسمبر ۱۹۲۸ء

فتویٰ نمبر ۲۱

ڈاک خانہ میں بجروپیہ بغرض حفاظت رکھا جاتا ہے، اس کے سود کا جواز بغیر تردید کے نقل کیا۔

اہل حدیث ۱۶ اگست ۱۹۲۹ء

فتویٰ نمبر ۲۲

زمیندارہ بنک کے سود کا جواز

اہل حدیث ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ء، ۲۲ اپریل ۱۹۲۹ء

فتویٰ نمبر ۲۳

جنگی ضرورت کے لیے سینما دیکھنا جائز ہے۔

اہل حدیث ۸ مارچ ۱۹۲۹ء

فتویٰ نمبر ۲۴

ہار مونیم گراموفون کا گانا، باجہ بجوانا، سُنسانا اگر مضمون

بُرا ہے تو بُرا ہے، مضمون اچھا ہے تو اچھا ہے۔

اہل حدیث ۸ مارچ ۱۹۲۹ء

فتویٰ نمبر ۲۵

تحییر کا گانا سُنسانا اگر گانا بُرا ہے ہوا درگانے والوں کی صورت

زنادرنہ ہو تو جائز ہے۔

اہل حدیث ۸ مارچ ۱۹۲۹ء

فتویٰ نمبر ۲۶

بیوہ عورتوں کو بال کٹوانے کا اختیار ہے۔

اہل حدیث، امنی ۱۹۲۹ء

## فتویٰ نمبر ۲۷

رآن واجب الستر نہیں بلے شک نماز میں کھلی رکھے۔

اہل حدیث ۱۷ اپریل ۱۹۲۹ء

## فتویٰ نمبر ۲۸

شادی میں گانا بجانا جائز - گانا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ انگریزی باج کے سوال کے جواب میں لکھا۔ الفاظ حدیث سامنے ہیں اللہو اور عرس۔ یعنی شادی میں ہو و لعب جائز ہے۔

غیر شادی میں نہیں۔

اہل حدیث ۳۱ مئی ۱۹۲۹ء

## فتویٰ نمبر ۲۹

مردہ عورت یا چار پائے کے ساتھ یا قبیل دبر کے علاوہ کسی اور عضو میں ذکر داخل کیا اور انزال نہ ہوا تو وہ فاسد نہ ہو گا مگر فعل مذکور گناہ ہے۔

اہل حدیث ۳ اگست ۱۹۲۹ء

## فتویٰ نمبر ۳۰

اگر خاوند عورت کو تنگ کرے اور نان نفقة زدے تو عورت بذریعہ حاکم اپنا نکاح فتح کرائے۔ اگر حاکم تمک نہ جاسکے تو برادری کی پنچاہیت میں نکاح فتح کرائے اگر پنج پس و پیش کریں تو خود فتح نکاح کا اعلان کر دے۔

اہل حدیث ۲۶ فروری ۱۹۲۹ء

## فتویٰ نمبر ۳۱

نماز کی قضا مخصوص نہیں۔ کوئی روز دل پر قیاس کرے تو اختیار ہے۔

اہل حدیث ۳ مارچ ۱۹۲۸ء

### فتویٰ نمبر ۳۲

شراب و قمار و سود کا پسیہ بعد تو بہ نزد بعض حلال ہو جاتا ہے۔  
(اس کو تردید کے بغیر درج کیا بلکہ تائید میں آیت پیش کی)

اہل حدیث ۲۱ ستمبر ۱۹۲۸ء

### فتویٰ نمبر ۳۳

عورت اُستار سے ناپاکی کے باال صاف کر سکتی ہے۔

اہل حدیث ۲۰ جولائی ۱۹۲۸ء

### فتویٰ نمبر ۳۴

کسی عورت کا خاوند بیس برس قید ہو گیا تو اس کی عورت بنتی کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دے کہ میں نکاح فتح کرتی ہوں۔ پھر ایک چیز مدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے۔

اہل حدیث ۵ اکتوبر ۱۹۲۸ء

### فتویٰ نمبر ۳۵

مال زکوٰۃ سے کسی غریب کو اخبار اہل حدیث خرید کر دینا جائز ہے۔

اہل حدیث ۲۶ فروری ۱۹۲۹ء

### فتویٰ نمبر ۳۶

زمین مرہونہ کا نفع بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔

اہل حدیث ۳ مئی ۱۹۲۹ء

### فتویٰ نمبر ۳۷

ناٹک کا دیکھنا بطور عبرت جائز

اہل حدیث ۷ اپریل ۱۹۲۹ء

**فتویٰ نمبر ۳۸** روزہ کے افطار اور نماز قصر کی کوئی حد نہیں بعض محدثین  
۳ میل بعض ۹ میل کے قائل ہیں۔  
اہل حدیث ۹ مئی ۱۹۱۹ء

**فتویٰ نمبر ۳۹** خائضہ کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے  
اہل حدیث ۱۳ جون ۱۹۱۹ء

فِتْرَةُ الْبَيْكَ



چند مسائل



## حضرت فقہاء کا امت پر احسان | فقہاء کا امت پر احسان

نہیں۔ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے فقہ کی بنیاد ڈالی اور ہر باب کی جزئیات کے حکام کو، جن کی قرآن و حدیث سے تصریح نہ مل سکی۔ اچھی طرح چھان بین کر کے، مفصل لکھ دیا۔ انہوں نے مذاہب اربعہ کے مقلدین کے لیے فقہ کی ایسی کتابیں مدقون فرمائیں جن میں ہر قسم کے ضروری مسائل جزئیات کی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے تاکہ ان میں ہر سائل کا جواب مل سکے۔ فقہاء کا مقصد یہ تھا کہ مقلدین اپنے مذاہب کے صحیح اور مضتی بہ سائلہ پر عمل کر کے قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔

### فقہ وہابیہ | لیکن غیر مقلدین کے لیے فقہ کی کوئی ایسی کتب نہ تھی جو کتب فقہ اہل سنت کی طرح مسائل میں فیصلہ کرن ہو۔ صحیح بخاری بھی کتب فقہ کی طرح فیصلہ کرن نہیں ہے بلکہ بعض مسائل میں توصاف حکم ہی نہیں ملتا، بعض مسائل میں خود امام بخاری علیہ الرحمۃ کو تردید رہا اور بعض مسائل کو دوسرے محدثین نے تسلیم نہ کیا۔

پس اس کمی کو دور کرنے کے لیے غیر مقلدین کے پیشواعلام و حید الزمان نے اپنی جماعت کے لیے فقہ کی ایک مبسوط کتاب تیار کی جس کا نام،

نزل الابرار من فقه البنی المختار

رکھا۔ یہ کتاب مولوی ابو تقاسیم بنarsi کے انتظام سے مطبع سعید المطابع بنارس سے تین جلدیں میں شائع کی گئیں۔

## مولف کا دیباچہ

مولوی وحید الزمان دیباچہ کتاب میں لکھتے ہیں :

میں نے اس فقہ کی جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "ہدیۃ المہدی من فقہ محمدی" رکھا ہے اس میں مسائل کے ساتھ دلائل بھی بیان کئے ہیں۔

لیکن بعض اخوان کی درخواست پر میں نے اس کتاب نزول الابرار، میں صرف مسائل ہی ذکر کیے ہیں، دلائل ذکر نہیں کیتے تاکہ یہ کتاب فقہ کامتن بن جائے اور شافعیہ و حنفیہ کی فقہی کتابوں کی نظر سے اور قاضی النظر لوگ اس کتاب کو حفظ کر کے ماحفظہ ہو جائیں۔

مندرجہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ مولف نزول الابرار نے کتب فقہ کی نظر بنانے میں کوشش کی۔ اسے یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی گہ اس کے اپنے گمان میں اہل سنت و جماعت کی فقہ قرآن و حدیث سے مستنبط رکھی اور اس لیے بھی کہ وہابیہ کے پاس فقہ کی کوئی ایسی کتاب نہ تھی جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو اور جس پر وہ بے کھلکھلے عمل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولف نزول الابرار نے اپنی جماعت پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے فقہ کی ایک کتاب تیار کر دی اور ہر یا ب میں جزئیات غیر منصوصہ کے احکام بیان کر دیئے۔

## نَزْلُ الْأَبْرَارِ كَكَچْنَدِ مَسَائِلٍ

اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ بیان کی گئی ہے۔ ہم قاریین کو اس کتاب کے مضایں سے محروم نہیں رکھنا چاہتے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ غیر مقلدین اپنی ہوائی فقہ کی سیر کریں۔ تاکہ وہ اہل سنت و جماعت کے ائمہ ارجعہ پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی فقہ پیش نظر کھیں ملاحظہ فرمائیے:

**مسَلَّمٌ نَّبِيرٌ** كُتُّتَةٌ كَابُولٌ أَوْ رُغْوَهٌ پاک ہے :

وَلَذِ الْكَلْبُ فِي بُولِ الْكَلْبِ وَخَرْدَهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلِيلٌ فِي النِّجَاسَةِ  
رَنْزُلُ الْأَبْرَارِ جَلْد١ ص: ۵

**مسَلَّمٌ نَّبِيرٌ** كُتُّتَةٌ اور خنزیر کا لعاب اور ان کا جو ٹھپھا پاک ہے :

اختلفوا فی لعاب الكلب والخنزير و سورهما والابح  
طهارتہما۔ (رس ۳۹ جلد ۱ ، ص ۳۳ جلد ۱)

**مسَلَّمٌ نَّبِيرٌ** منی پاک ہے .

وَالْمُنِي طَاهِر سواء کان رطباً او یا بسا مغلظاً او غیر مغلظ .  
(رس ۳۹ ، جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۴** فرج کی طوبت، شراب اور حلال و حرام حیوانات کا بول پاک ہے۔

وَكَذَا لِكَ رطوبة الفرج وَكَذَا لِكَ الْخُمُرُ وَبُولٌ مَا يُوكِلُ لَهُ  
وَمَا لَيُؤْكَلُ لَهُمْ مِنَ الْحَيَّانَاتِ۔ (رس ۳۹ جلد ۱)  
والخمر ليس بجنس (رس ۸ جلد ۳)

**مسئلہ نمبر ۵** خمر کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں

لَا دَلِيلٌ عَلَى نِجَاسَةِ الْخُمُرِ۔ (رس ۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۶** کُتے کے بال پاک ہیں۔

وَلَا حِلَافَ فِي طَهَارَةِ شَعْرِهِ  
رس ۳۰ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۷** کُتے اٹھا کر نماز پڑھنا، مفسد نماز نہیں

وَلَا تَفْسِدُ صَلَاةَ حَامِلِهِ  
رس ۳۰، جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۸** کُتے کے لعاب سے کپڑا پیدا نہیں ہوتا

وَكَذَا الثُّوبُ لَا يَنْجِسُ بِأَنْتِقَامِنَهُ وَلَا بُعْضُهُ وَلَا الْعَضُو  
ولَوْ أَصَابَهُ رِيقَةً۔ (رس ۳۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۹** کتنا پانی میں گر جاتے، تو پانی پلید نہیں ہوتا

لو سقطی الماء ولو يتغير لا يفسد الماء وان اصاب

فمه الماء

(ص ۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۱۰** کتے کے چپڑے کا جانماز اور بُوکا بنا لینا درست ہے

ويتخد جلدہ مصلی و دلوا

(ص ۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۱۱** کتا اور اس کا لعاب پاک ہے۔

دم السمك ظاهر و كذا الكلب و ريقه عند المحققيين

من اصحابنا

(ص ۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۱۲** مردار اور خنزیر کے بال پاک ہیں۔

شعر الميٰة والخنزير ظاهر

(ص ۳ جلد ۱)

**مسئلہ نمبر ۱۳** جس روٹی کے خمیر میں شراب کی میل ڈالی جاتی ہے

وہ پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ کیونکہ خمر کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں

وَكَذَا الْخِبْرُ الَّذِي تَلَقَّى فِي عَجَيْنِهِ وَرَدَى الْخَمْرَ  
طَاهِرٌ وَحَلَالٌ أَكْلَهُ أَذْلَالٌ لِلْدِلْلَى عَلَى بُخَاسَةِ الْخَمْرِ  
(ص ۲۰ جلد ا)

**مسئلہ نمبر ۱۷** حنفی کا چڑھہ بھی دباعت سے پاک ہو جاتا ہے۔  
ایسا اہاب دُبغ فقد طہر و مثله المثانہ والکرش  
و استثنی بعض اصحابنا حبد الحنفی والصحیح  
عدم الاستثناء  
(ص ۲۹، جلد ا)

**مسئلہ نمبر ۱۸** پانی میں بخاست پڑ جائے تو اگر پانی کا رنگ بویا مرا۔  
نہ بدلا ہو تو پانی پاک ہے۔ خواہ پانی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔  
وَكَذَا لَكَ بِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدًا وَصَافَهُ بِوَقْعِ الْخَاصَّةِ  
فِيهِ وَإِنْ كَانَ قَدِيلًا۔  
(ص ۲۹ جلد ا)

**مسئلہ نمبر ۱۹** اپنی عورت سے مشت زنی کرنا جائز ہے۔  
وله الاستمناء بیدها لا الاستمناء بیده  
(ص ۴۴ جلد ا)

**مسئلہ نمبر ۲۰** صحابہ میں فاسق بھی تھے۔

ومنه يعلم ان من الصحابة من هو فاسق كالوليد ومثله  
يقال في حق معاوية وعمرو مغيرة وسميره -

(ص ۹۲، جلد ۲)

### مسئلہ نمبر ۱۸ اہل حدیث شیعہ ہیں۔

واهل الحديث شیعۃ علی رضی اللہ عنہ

(ص ۷ جلد ۱)

### مسئلہ نمبر ۱۹ عامی کے واسطے مجتہد یا مفتی کی تقلید ضروری ہے۔ ولا بد للعامی من تقلید مجتهد او مفتی

(ص ۷ جلد ۱)

### مسئلہ نمبر ۲۰ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایسی باتیں اور ایسے کام ہوتے جن سے ان کی عدالت میں خلل آگیا۔

فاما معاویة فليس قوله و فعله بحجۃ حيث صدرت منه  
اقوال و افعال تخلل بعدالٰت و عدالٰت عمرو بن العاص  
وزیره و مشیره -

(رهیۃ المہدی جلد ۵ ص ۲۴)

### مسئلہ نمبر ۲۱ نکاح کا اعلان و فوف، مزامیر اور غناء سے منتخب ہے بلکہ واجب ہے۔

ندب اعلان النکاح ولو بضرب الدفوف واستعمال المزامير  
واللتفتی .....  
بل الظاهر يقتضى وجوب ضرب الدفوف اذا قادر عليه

(رص ۳۰ جلد ۲)

### مسئلہ نمبر ۲۱ طلاق فی الدبر کی حرمت طبقی ہے۔

بخلاف حرمۃ الاول فانها ظنیۃ مکان الاختلاف فيه

(رص ۴۷، جلد ۲)

### مسئلہ نمبر ۲۲ کافر کا ذبیحہ حلال ہے

وکذا لک ذبیحۃ الكافر ایضاً حلال

(رص ۸، جلد ۳)

### مسئلہ نمبر ۲۳ گدھا یا خنزیر اگر کاں نمک میں گزر نمک ہو جائے

تو پاک ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔

فالملح الذى كان حمارا او خنزيرا الطاهر حيل اكله

(رص ۵۰ جلد ۱)

### مقام فکر قارئین کرام! مقام غور ہے کہ دنیا میں جتنی چیزوں نیاپاک ہیں، تقریباً وہ سب غیر مقلدین کے یہاں پاک ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے اکہ فقہائی امت کا وامن چھوڑ کر یہ لوگ کیسے بھٹکے، تعجب تو یہ ہے کہ غیر مقلدین

وہید الزمان کے غلط مسائل کو غلط تسلیم کرنے کی بجائے ان مسائل کو اخاف کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## کیا یہ مسائل اہل سنت جماعت کی فقہ کے ہیں؟

آئندہ سطور میں ہم ان میں سے چند کو دوبارہ تفصیل سے تحریر کر رہے ہیں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ اہل سنت و جماعت کی فقہ ان حزفات سے پاک ہے۔

## مردار اور خنزیر کے بال پاک ہیں

### حنفی

نzel الابرار میں لکھا ہے کہ خنزیر اور مردار کے بال پاک ہیں۔

### غیر مقلد

یہ تمہارے ہاں کا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث کے سر لگانا بہتان ہے۔

### حنفی

سوز تمہارے گروہ کے نزدیک بخس عین نہیں۔ مردار کا پلید ہونا بھی تمہارے نزدیک ثابت نہیں، جب سوڈ اور مردار تمہارے نزدیک پلید ہی نہیں تو ان کے بال کس طرح پلید ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ مسائل واقعی تمہارے ہی گھر کے ہیں۔ اگر سوز اور مردار کے بالوں کا ناپاک ہونا، تمہارے مذہب میں ہوتا تو تم اپنی کسی بھی کتاب میں سے ان کا ناپاک ہونا لکھتے۔ جیسے ہم نے تمہاری کتاب سے ان کا ناپاک ہونا لکھا ہے۔

### غیر مقلد

ہدایتہ میں ہے کہ اگر تھوڑے پانی میں سوز کا بال گر پڑے تو امام محمد کے

نزوکیک پانی خراب نہ ہوگا۔

حنفی افسوس کے غیر مقلد کو حنفی مذہب کی کوئی روایت مل جاتے، اگرچہ وہ روایت مذہب میں صحیح نہ ہو یا اس پر عمل نہ ہو اگرچہ وہ مفتی اپنے ہو اگرچہ فقہاء کتب فقہ میں اس کا جواب لکھ دیا ہو مگر تم اس کو مذہب کی صحیح روایت سمجھ کر عوام کو دعو کا دینے کے لیے لکھ دیتے ہو۔

اس مقام پر بھی تم نے امام محمد کا ایسا قول بیان کیا ہے جس کو فقہاء نے صحیح قرار نہیں دیا اسی ہدایہ میں اسی قول کے پہلے لکھا ہے:

ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين فلا يجوز

بيع اهانتة

خنزیر کے بال کی بیع درست نہیں اس لیے کہ وہ نجس عین ہے لپس اس کی اہانت کے لیے اس کی بیع درست نہیں۔

پھر غیر مقلد کی پیش کردہ عبارت میں  
لو وقع فی الماء القليل کے آگے

افسده عند ابی یوسف بھی تو لکھا ہوا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ خنزیر کا بال اگر تھوڑے پانی میں پڑا تو امام ابو یوسف کے نزدیک پانی کو فاسد (پلید) کر دے گا۔ شیخ عبدالحی لکھنؤی ہدایہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

والصحيح قول ابی یوسف

ابو یوسف کا قول صحیح ہے رکہ پانی پلید ہو جائے گا)

بحر الرائق جلد ۶ ص ۱۴ میں اسی قول کو صحیح لکھا ہے۔

در مختار میں بھی اسی قول کو صحیح لکھا ہے چنانچہ فرمایا ہے:

الصحيح انها نجسة لان نجاسة الخنزير ليست

بما فيه من الرطوبة بل لعيته

صحح يحيى ہے کہ ہڈی اور خنزیر کا بال پلید ہے۔ کیونکہ خنزیر کی نجاست اس لیے نہیں کہ اس میں رطوبت ہے۔ بلکہ وہ نجس عین ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ حنفی مذہب میں صحح یہی ہے کہ خنزیر کا بال پلید ہے اور پانی میں گرے تو پانی پلید ہو جائے گا۔ لیکن وہابی مذہب میں صحح یہی ہے کہ پاک ہے اس لیے کہ تمہارے نزد کیک سورجخس عین نہیں اور پانی تو ہر حال میں تمہارے نزد کیک پلید نہیں ہوتا۔ پانی مختواڑا ہو یا بہت۔ سورج کا بال گرے یا کوئی اور پلید نہیں۔ جب تک پلیدی کے ساتھ پانی کا زنگ، بُو یا مزانہ بد لے، ان کے ہاں پلیدی نہیں ہوتا۔ تو سورج کے بال گرنے سے جو پانی کو پلید کرتا ہے وہ حنفی مذہب کے صحیح مسئلہ پر عمل کرتا ہے۔ اس کا اپنا یہ مذہب نہیں ہے۔

### غير مقلد مختار الفتاوى میں ہے:

جس نے نماز پڑھی، اگر اس کی آستین میں سورج کے بال دہم سے بہت نیادہ ہوں تو نماز ہو جائے گی۔

### حنفی

یہ مسئلہ بھی اسی غیر صحیح روایت پر متفرع ہے۔

علامہ شامی ح م ص ۱۲۵ میں اس روایت کے آگے لکھتے ہیں:

یعنی ان یخرج علی القول بظہارتہ فی حقہہ اماما علی

قول ابی یوسف فلا و هو الوجه

علامہ شامی و ابن الہمام اس روایت کو اسی غیر صحیح روایت پر متفرع فرمائے

لکھتے ہیں کہ مطابق قول ابی یوسف اس شخص کی نماز ناجائز ہو گی جو خنزیر کے بال اٹھا کر نماز پڑھے اور سبھی مفتی پر ہے۔

مولانا وصی احمد مرحوم مینہ کے حاشیہ پر صحیط صنی الدین سے نقل کرتے ہیں کہ ظاہر الروایت میں اس شخص کی نماز ناجائز ہو گی جو سور کے بال اٹھا کر نماز پڑھے اب ہم غیر مقلد سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہو؟ اپنا مذہب بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں اس کی نماز ہو گی یا نہیں؟ اب تو آپ فرکل میں پڑ گئے یونکہ آپ کی کتاب نزل الابرار میں لکھتا ہے کہ،  
مردار اور خنزیر کے بال پاک ہیں۔

خنزیر کے گوشت کے سوا جو دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، ذبح سے پاک ہو جاتا ہے

حنفی مولوی وجید الزمان نزل الابرار میں لکھتے ہیں:  
خنزیر کے گوشت کے سوا، جو دباغت سے پاک ہو جاتا ہے ذبح سے پاک ہو جاتا ہے۔

غیر مقلد یہ بھی فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے۔

حنفی افسوس کرتھسب غیر مقلد کو فقہ حنفیہ پر نظر نہیں ہے۔ یا تعصب کے سبب حق بات کو چھپانے کی عادت ہے۔ فقہاء علیہم الرحمۃ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ غیر ناکول اللہم کا گوشت ذبح سے پاک ہو جاتا ہے

بعض کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوتا۔ یہی صحیح ہے۔

نور الایضاح، اس کی شرح مرأۃ الفلاح اور مواہب الرحمن میں ایسا ہی لکھا ہے اور اسی کو صاحب نہایہ اور عنایہ نے اختیار کیا ہے۔

شیخ عبدالحی لکھنؤی حاشیہ بہایہ صد ۲۵ میں اور علامہ ابن ہلقم فتح القید ج ۱ ص ۳۹ میں فرماتے ہیں:

قالَ كثيرونَ من المذاخِنَ أَنَّهُ يَطْهُرُ جَلْدَهُ لِالْحَمَّةِ وَهُوَ لاصِحٌ  
كَمَا اخْتَارَ الشَّارِحُونَ كَصَاحِبِ الْعَنَاءِ وَالنَّهَايَةِ وَغَيْرِ  
هَمَا لَأَنَّ سُورَةَ الْجَنْسِ وَبِنَاسَةَ السُّورَيْنِ بِنَاسَةَ الْدَّحْمِ  
مَذَاخِنَ كَيْ أَكْثَرُتُ بَنَى فَرِمَايَا ہے کہ چمڑا تو پاک ہو جاتا ہے، گوشت  
پاک نہیں ہوتا۔ اور یہی صحیح ہے جیسا کہ شارعین نے پسند کیا ہے  
مثل صاحب عنایہ و نہایہ وغیرہما کے۔ کیونکہ اس کا جو تمہا پلید ہے  
اور جو مٹھے کا پلید ہونا گوشت کے پلید ہونے کی وجہ سے ہے۔  
اوی عبد الحمی موصوف حاشیہ ص ۲۴ میں لکھتے ہیں:

مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ نُجْسٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْ دُنَا  
لِبعضِ كہتے ہیں کہ گوشت پلید ہے اور ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے۔  
علامہ جلبی کبیری شرح معینہ ص ۱۲۷ میں لکھتے ہیں:  
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَمَّةَ لَا يَطْهُرُ بِالذَّاكَةِ  
صَحِحٌ يَبْيَسٌ ہے کہ گوشت ذبح سے پاک نہیں ہوتا  
پھر آگے فرماتے ہیں:

وَلِحِمَهَا نُجْسٌ فِي الصَّحِيحِ  
اس کا گوشت صحیح مذہب میں پلید ہے۔

در مختار ص ۲۲۴ میں ہے :

لایطہر لحمدہ علی قول الاکثران کاں غیر مکول هذ

اصح ما یفتی ابہ

غیر مکول مذبوح کا گوشت اکثر کے نزدیک پاک نہیں ہوتا یہ اصح ہے  
جس کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے۔

غایتہ الابرار میں بحوالہ المراج الدرازیہ محققین کا قول عدم طہارت لکھا ہے اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حنفی مذہب میں اصح اور مفتی بھی ہے کہ غیر مکول اللحم کا گوشت ذبح سے پاک نہیں ہوتا۔ پس مفتی بر کو چھوڑ کر انہماں اکیپ ایسا قول پیش کرنا غیر مقلد ہی کا کام ہے۔ دیکھا آپ نے کہ حنفیہ کے نزدیک تو غیر مکول اللحم کا گوشت ذبح سے ناپاک لکھا ہے۔ لیکن آپ کی نزل الابرار میں پاک لکھا ہے معلوم ہوا کہ یعنی مذہب کا مسئلہ نہیں بلکہ تمہارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔

جس روٹی کے خمیر میں شراب کی میل ڈالی جائے،

پاک ہے اس کا کھانا حلال ہے۔

حنفی نزل الابرار میں ہے:

وَلَذَا الْخَبْزُ الَّذِي تَلْقَى فِي سَعْيِنَه در دری الحمر طاہر و

حلال اَكْلَه اَذْلَاد لِلْيَلِ عَلَى النَّجَاسَةِ الْخَمْرِ

وَهُرُوفُهُ جس کے خمیر میں شراب کی میل ڈالی جائے، پاک ہے اور

اس کا کھانا حلال ہے اس لیے کہ شراب کے بخس ہونے پر

کوئی دلیل نہیں۔

## غیر مقلد

اس مسئلہ کی اصل بھی فقہ حنفیہ ہی ہے۔

**حنفی** ہر مسئلہ جو وحید الزمان نے لطور نزل پیش کیا ہے آپ اسے فقہ حنفیہ کے ذمہ لگادیتے ہیں۔ لیکن ایسا صریح کذب کب چھپ سکتا ہے؟ دیکھئے فقہ حنفیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔

ہدایہ شریعت جلد ۴ ص ۹۶ میں صاف لکھا ہے:

ویکرہ اكل خبز عجن عجینہ بالخمر لفیام اجزاء الخمر فیہ۔

وہ روٹی جس کا خمیر شراب کے ساتھ گونڈھا ہو، اس کا کھانا منع ہے اس لیے کہ اس میں شراب کے اجزاء موجود ہیں۔

عبد الحمی اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

فهذا الخبر بحسب حکماً هو عجن بالبول  
یہ روٹی اسی طرح بحسب ہے جس طرح پیش اب کے ساتھ آٹا گونڈھا جائے  
مالکیگری ص ۱۸۳ میں ہے:

اذا عجن الدقيق بالخمر و خبزه لا يؤكل  
جو شراب کے ساتھ آٹا گونڈھو کر روٹی پکانی جائے اس کا کھانا درست نہیں۔

دیکھو کیا صاف مسئلہ ہے کہ وہ روٹی پلید ہے۔ پھر بھی متعدد غیر مقلد اس کو فقہ حنفیہ کا مسئلہ کہتا ہے۔ فقہ حنفیہ کا مسئلہ تو یہی ہے جس کی ہم نے وضاحت کروی۔ رہی بات آپ غیر مقلدین کی فقرہ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے

مکل کھلانے جا رہے ہیں !

جو مسئلہ آپ درمختار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ ہی اور ہے جس کا اس مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ انقلاب عین کامنہ ہے۔ وہ جو گیروں کا شراب میں گزنا ہے اس میں صاف تصریح موجود ہے کہ:

### لَا تؤكِلْ قَبْلَ الْغَسْلِ

کہ وہ ہوتے بغیر نہ کھایا جائے۔

اور یہ بھی اس وقت ہے جب گیروں پھول نہ جائے اگرچہوں جدائے تو امام محمدؐ کے نزد مکیب پاک ہی نہیں ہوتا۔

درمختار م ۹ میں لکھا ہے:

حنطة طخت في الخمر لا يظهر أبدا وبه يفتى

گیروں کا شراب میں پکایا جائے کبھی پاک نہیں ہوتا اور اسی پر فتویٰ ہے۔

اب ربی بات آپ کے وحید الزمان صاحب کی وہ تو شراب کے بارے میں لکھتے ہیں:

اذ لَا دليل على نجاستة الخمر

شراب کے بخس ہونے پر کوئی دلیل نہیں

فقہاء حلقیہ تو شراب کو پیدا فرماتے ہیں، جوروٹی شراب میں پکائی جائے اس کو بھی پیدا فرماتے ہیں اور غیر مقلدین کا فیقہ شراب کو بھی پاک اور اس میں پکائی جائے والی روٹی کو بھی پاک کہہ رہا ہے۔

دیکھا ! فقر حلقیہ سے منہ موڑ نے کا انجام !

# اہل حدیث شیعہ ہیں

حنفی

وجید الزمان نزل الابرار جلد اصر، میں لکھتا ہے:  
واہل الحدیث شیعہ علی رضی اللہ عنہ  
اہل حدیث حضرت علی کے شیعہ ہیں

غیر مقلد

یہ بالکل غلط اور سراسر بہتان ہے۔

حنفی

میں نے آپ کے جلیل القدر عالم کی عبارت پیش کی ہے۔ وہی  
وجید الزمان جو صحاح کا مترجم ہے جس نے تمہارے لیے فتویٰ مدون کی ہے۔ اگر یہ  
بہتان ہے تو آپ ہی کے عالم نے آپ پر باندھا ہے۔ وجید الزمان نے تاریخ کے  
آئینے میں یہ بات کہی ہے چنانچہ!  
محمد بن اسحاق صاحب المغازی جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث مانتے ہو، ابن  
حجر نے اس کو دعی بالتشیع لکھا ہے۔

جبریل بن عبد الرحیم کیا اہل حدیث نہ تھا؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو  
گالیاں دیا کرتا تھا۔ (تہذیب التہذیب)

امام بخاری کا استاد اعمیل بن ابان کون تھا؟ جسے تہذیب التہذیب میں  
سخت شیعہ لکھا گیا ہے۔

عبد بن یعقوب شیخ بخاری حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا (میزان)  
حاکم صاحب مستدرک جس کو امام فی الحدیث کہتے ہیں، مشہور شیعہ تھا۔

عبدالرازق ابن همام کیا اہل حدیث شیعہ نہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کے ذکر کرنے والے کو کہا :

لا تقدر مجلسنا یزکرو لدابی سفیان

جعید اللہ بن موسیٰ شیخ بخاری، غالد بن مخلد اور ابونعیم شیعہ تھے

عدی بن ثابت غالی شیعہ تھا۔

صاحب نائی مائل بر قشیع تھے۔ صدیق حسن نے اتحاف ص ۱۹۰ میں ان کا مائل بر شیع ہونا لکھا ہے۔ ابن خلکان نے ان کے حق میں کان یت شیع لکھا ہے۔ صحاب میں شیعہ روایات کی اس قدر کثرت ہے کہ یہ ضمنوں تفصیل کا تحمل نہیں۔

غیر مقلد حنفیہ میں البتہ بعض شیعہ ہیں۔ جیسے مولوی عبد الحمی الرافع و التکیل میں لکھتے ہیں :

حنفی اگر شیع عبد الحمی کی پوری عبارت نقل کرتے تو حال کھل جاتا۔ وہ فرماتے ہیں :

ان الحنفية عبارة عن فرقة تقلد الإمام ابا حنيفة في المسائل الفرعية وتسلك مسلكه في الاعمال الشرعية سواء وافقته في اصول العقائد ام خالفته فان وافقته يقال لها الحنفية اكاملة وان لم تتوافق يقال لها الحنفية مع قيد يوضع مسلكه في العقائد الكامنة۔ حنفی وہ فرقہ ہے جو مسائل فرعیہ میں امام اعظم کا مقلد ہو۔ اور اعمال

شرعیہ میں اسی کے مسلک پر چلے۔ اصول عقائد میں امام موافق ہو یا مخالف اگر موافق ہو تو اس کو کامل حنفی کہا جائے گا۔ اگر اصول عقائد میں امام کا مخالف ہو تو اسے صرف حنفی نہ کہا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ کوئی ایسی قید زائد کی جائے گی جو اس کے عقائد کے مسلک کو ظاہر کرے۔

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ کامل حنفی وہ شخص ہے جو اصول عقائد و مسائل فرعیہ میں امام صاحب کا مقلد ہو اور ایسا حنفی سمجھ دے تعالیٰ کوئی شیدعہ نہیں۔ البتہ بعض بدعتنی اپنے آپ کو فروع میں حنفی ظاہر کرتے تھے۔ جیسا کہ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسے لوگ حنفی ہی نہیں تھے۔

### غیر مقلد

فقہ حنفی میں یہ اختراض کی گئی ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے، کافر

نہ ہوگا۔

### حنفی

یہ فقہ حنفی کی اختراض نہیں۔ اہل حدیث نے صحابہ کو گالی دینا کہا تو سے لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔

نحوی رج ۲ ص ۳۴ میں قاضی عیاض فرماتے ہیں:

و سب احدهم من المعاصي الکبائر و مذهبنا و مذهب  
انه يعزز ولا يقتل۔

کسی صحابی کو گالی دینا کہا تو سے ہے جبکہ رکاذ مذہب یہ ہے کہ اسے تعزیر لگانی جائے قتل نہ کیا جائے۔

حضرات فقہاء علیہم الرحمہ نے تو سب شیخین کو بھی کفر لکھا ہے۔ خلاصہ میں ہے، الرافضی اذا كان ليسب الشیخین العیاذ بالله تعالیٰ فهو کافر ۔

رافضی جو شیخین کو گالیاں بکھڑتے ہے، کافر ہے۔

غذیہ شرح منیہ کے ص ۱۲۵ میں ہے :

امالوکان مودیا الى الکفر فلا یجوز اصلاح الغلة من  
الروا فضل الذين يدعون الالوهية لعلی رضی اللہ عنہ  
او ان النبوة كانت لـه فغلط جبریل ونحو ذالک مما  
هو کفر و كذلك من يقذف الصدیقة او ينکر صحبت  
الصدیق او خلافته او لیس ب الشیخین -

بد نہ سب کا عقیدہ اگر کفر تک پہنچ جائے تو اس کی اقتداء اصلًا  
جائز نہیں جیسے غالی رافضی کہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں یا یہ کہ نبوت  
علی کے لیے تھی جبریل کو غلطی لگ گئی اور اسی طرح کی اور باقیں کہ  
کفر ہیں اور اسی طرح جو حضرت صدیقہ کو تہمت ملعونة کی طرف نسبت  
کر سے یا صدیق کی صحابیت کا منکر ہو یا خلافت کا انکار کرے یا  
شیخین کو گالیاں بکے۔

مرائق الفلاح کی شرح طحطاوی کے ص ۱۹۸ میں ہے :  
لات جوز الصلة خلف من لیس ب الشیخین

او یقذف الصدیقة

جو شخص شیخین کو گالیاں بکے یا حضرت صدیقہ کو تہمت ملعونة کی طرف  
نسبت کرے اس کے پیچے نماز جائز نہیں۔

عقود الدریۃ مطبوعہ مصر حلید اول ص ۹۲-۹۳ میں ہے :  
الروا فضل کافر جمعوا بین اصناف الکفر منها انہم  
• ینکرون خلافۃ الشیخین و منہما انہم یسبون

الشیخین سود الله وجوههم فی الدارین فمن  
انتصف بوحد من هذه الامور فهو کافر۔  
روافض کافر ہیں اور ان میں کئی قسم کے کفر جمع ہیں ان میں سے  
کچھ تو شیخین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور کچھ شیخین کو  
گالیاں بکتے ہیں۔ اللہ ان کو دو جہاں میں رو سیاہ کرے اور  
جوان امور میں سے ایک کے ساتھ بھی متصف ہے، کافر ہے  
اسی طرح تنور الابصار اور درخشار میں لکھا ہے۔ البتہ بعض نے اختیاط سے  
کام لیا ہے اور کفر کا فتویٰ نہیں لکھایا۔ لیکن اس کے کبیر اور حرام ہونے سے  
کسی نے انکار نہیں کیا۔

غير مقلد ثابت ہوا کہ وحید الزمان مصنف نزل الابرار شیعہ حنفی ہے۔

### حنفی

نہیں بلکہ غير مقلد شیعہ ہے۔ وہ تو حنفیوں کو سخت برا جانتا ہے۔  
و تو نزل الابرار ج ۲ ص ۲۷ میں اہل حدیثوں کی تعریف میں لکھتا ہے:  
لَا يرصنون بِاَيْقَالِ لَهُمُ الْاحْنَافُ اَوَالشَّوَافِعُ اَلْخَ  
بَلْ اذَا سَئَلُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ مَذَهِبُكُمْ يَقُولُونَ اَنَّهُمْ  
مُحَمَّدِيُونَ۔

اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلي  
کہلانا پسند نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟  
تو وہ کہتے ہیں، ہم محمدی ہیں۔

معلوم ہوا کہ وحید الزمان حنفی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے آپ کو

محمدی لکھا ہے۔ اہنہا وہ شیعہ حنفی مہنیں بلکہ شیعہ وہابی ہے۔

## عامی کے واسطے تقلید ضروری ہے

**حنفی** وحید الزمان نے نزل الابرار میں لکھا ہے کہ عامی کے واسطے تقلید ضروری ہے۔

**غیر مقلد** اہل حدیث تو کہتے ہیں التقلید فی دین اللہ حرام کہ اللہ کے دین میں تقلید حرام ہے۔

**حنفی** مولوی نذیر حسین دہلوی کو اہل حدیث سمجھتے ہو کہ مہنیں؟ وہ اپنی کتاب معیار الحق میں لکھتے ہیں:

باقی رہی تقلید وقت لا علمی کے سو یہ چار قسم ہے قسم اول واجب اور دوسرے مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی مجتہد اہل سنت کے سے لا علی التعیین جس کو مولانا شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں کہا ہے کریم تقلید واجب ہے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی فی اشاعت السنن میں صاف لکھا ہے:

جو لوگ قرآن حدیث سے خبر نہ رکھتے ہوں۔ علوم عربیہ ادبیہ سے جو حادم قرآن و حدیث میں محسن نا آشنا ہوں۔ صرف اردو فارسی تراجم پڑھ کر یا لوگوں سے سن کر یا لٹوئی یہ ہوئی عربی جان کر مجتہد اور مربات میں تارک التقلید بن بیٹھیں۔ ان کے حق میں ترک تقلید بجز ضلالت کی

ثمرہ کی توقع نہیں ہو سکتی۔ ۲۵ برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق کی تقليید کے تارک بن جائتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر دیجتے ہیں۔

(رائعت السنج (النمبر ۱۷ و نمبر ۱۸))

محدث دہلوی حجۃ اللہ بالفقیہ فرماتے ہیں:

ان هذہ المذاہب الاربعة المدونۃ المحررة فتد  
اجتمعت الامم او من يعتد به منها على جواز  
تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح مالا  
يخفي لاسيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمم  
 جدا و اشربت النفوس الهوا و اعجب كل ذي رأى برأيه  
ان چار مذاہب کی تقليید کے جواز پر آج تک امت کا اجماع ہے اور  
اس میں کئی مصلحتیں ہیں جو پوشیدہ نہیں خصوصاً اس زمانہ میں کہ  
ہم تینیں بہت فاصلہ ہیں اور لوگوں کے دلؤں میں ہوا ٹے نفسانی بھری  
ہوئی ہے اور ہر ایک اپنی بھی رائے کو پسند کرتا ہے  
سیز الفضاف اور عقد الجید میں لکھتے ہیں:

لما اندرست المذاہب الحقة الاهذہ الاربعة كان  
اتباعها اتباعا للسوداد الاعظم والخروج عنها خروجا  
عن السوداد الاعظم۔

جب ان چار مذاہب کے سواباقی مذہب محدث گئے تو ان کا  
اتباع سواد اعظم کا اتباع اور ان سے خروج سواد اعظم سے  
خروج ہے۔

صدقی حسن بھوپالی سراج الہاج جلد ۷ ص ۲۰۶ میں حدیث الدین  
النیحہ کی شرح میں لکھتا ہے :

وقد تیناول علی الانئمۃ الذین هم علماء الدین وان من  
نصیحتهم قبول مارفوہ وتقليدهم فی الاحکام  
حدیث میں انہرہ المصلیین سے مراد علمائے دین بھی ہو سکتا ہے  
اور ان کی نصیحت میں سے یہ ہے کہ ان کی روایت قبول کی جائے  
اور احکام میں ان کی تقليید کی جائے ۔

ابن قیم اعلام الموقعین جلد اصم میں فرماتے ہیں :

فقهاء الاسلام وہن دارت الفتیا علی اقوالہم بین الانام  
الذین خصوا باستنباط الاحکام و عنوی ضبط و قواعد  
الحلال والحرام فهو فی الارض بمنزلة النجوم فی السما  
بهم یهتدی الحیران فی الظلماء وحاجة الناس یلم  
اعظم من حاجتهم الی الطعام والشراب وطاعتھم فرض  
علیھم من طاعة الامم و الایاء بنص الكتاب الخ  
اسلام کے فقیہا اور وہ علماء جن کے اقوال پر لوگوں کے فتوؤں کا  
دار ہے احکام کے استنباط کرنے کے لیے خاص کئے گئے اور  
حلال و حرام کے قواعد ضبط کرنے میں منتخب ہوتے وہ دنیا میں  
آسمان کے ستاروں کی طرح میں جن سے لوگ اندر ہوں میں راہ  
پاتے ہیں لوگوں کو ان کی حاجت کھانے پینے کی حاجت سے  
بڑی ہے اور نص کتاب سے ثابت ہے کہ ان کی اطاعت مال باب  
کی اطاعت سے بھی زیادہ فرض ہے ۔

معلوم ہوا کہ وحید الزمان نے جو کچھ لکھا ہے یہی دمابیوں کے اکابر کا بھی مذهب ہے رہی بات کہ التقليد فی دین اللہ حرام یہ ابن حزم کاظماہری قول ہے لیکن شاہ صاحب نے حجۃ البالغۃ کے ص ۲۷۸ میں اس کی نسبت لکھا ہے :

انما یتم فی مم لہ ضرب من الاجتهاد  
یہ قول اس شخص کے حق میں ہو سکتا ہے جو مجتہد ہو (کو ایک ہی مشکل میں کیون ہوا)  
پس اے عین مقلدو ! اپنے اکابر کی تحریروں پر تو ایمان لاو۔ اور کسی ایک امام  
کے حلقة تقليد میں آجائو۔ لیکن ٹسلکل تو یہ ہے کہ آپ میں سے ہر اکیب بزرگ خویش  
مجتہد بنای بیٹھا ہے۔

## امیر معاویہؓ کی عدا میں خلل آگیا

حنفی وحید الزمان نے المشرب الوردي من الفقه المحمدي میں جو کہ ہدیۃ المہدی کی پانچوں جلدیت کے حکایت کے حضرت امیر معاویہ سے ایسی باتیں اور ایسے کام سرزد ہوئے کہ ان کی عدالت میں فرق آگیا۔

عین مقلد حفظی بھی تو بعض صحابہ کو عدول نہیں مانتے۔ تو ضیح تلویح میں ہے  
الجزم بالعدالة مختص ممن اشتهر بذالك والباقيون  
کسائر الناس فيهم عدول وغير عدول۔

حنفی جمہور اصولیوں کے نزد کیب صحابی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں بہت عرصہ رہا ہو بعض نے چھ ماہ بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے

چنانچہ سعید بن المیب فرماتے ہیں :

لَا يَعْدُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْأَمْنَ إِقَامَ الرَّسُولَ سَنَةً وَ  
سَنَتَيْنِ وَغَزَّا مَعَهُ عَزْوَةً أَوْ عَزْوَتَيْنِ .

صحابہ میں وہ شخص شمار ہو گا جو حضور کے ساتھ سال دو سال رہا ہو اور  
حضور کے ساتھ اکیپ دولڑائیوں میں بھی شامل ہوا ہو۔

عاصم احوال کہتے ہیں :

عبد اللہ بن سرجیں رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن  
ان کو صحبت نہ تھی (لیعنی صحابی نہ تھا)  
ابن حجر فستخ الباری میں لکھتے ہیں :

مَنْ اشْرَطَ الصَّاحِبَةَ الْعَرْفِيَّةَ اخْرَجَ مِنْ لَهْرَوَيَّةٍ أَوْ مِنْ  
اجْتَمَعَ بِهِ لَكِنْ فَارْقَتْهُ عَنْ قُرْبِ كَمَا جَاءَ عَنِ النَّاسِ إِنَّهُ  
قَيْلٌ لَهُ هَلْ بَقَى مِنْ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْكَ قَالَ لَامِعٌ إِنَّهُ كَانَ فِي ذَالِكَ الْوَقْتِ عَدْ كَثِيرٌ  
مِنْ لَقِيَّةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ .

فتح الباری جزء ۱ ص ۳۵۲

رحمانی ہونے میں اجنبیوں نے صحبت عرفی شرط رکھی ہے وہ اس شخص  
کو صحابی نہیں جانتے جس کو حضور کی روایت ہو یا وہ حضور کی محفل میں  
بلیخا ہو لیکن جلدی جدا ہو گیا ہو۔ جیسے حضرت انس سے آیا ہے جب  
ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے سوا صحابہ رسول میں سے کوئی باقی ہے؟  
آپ نے فرمایا نہیں۔ حالانکہ اس وقت ان اعراب کی کثیر تعداد موجود  
تھی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ اصولیوں کے نزدیک طوال صحبت، شرعاً صحابیت ہے اس لیے انہوں نے ان صحابہ کرام کو جو طوال صحبت میں مشہور تھے قطعاً و تیناً عدول مانا۔ اور جن کو صرف رؤیت حاصل تھی، صحبت طویل میسر نہیں ہوتی۔ ان کی صحابیت میں چونکہ اختلاف تھا۔ اس لیے ان کی عدالت پر جزم نہیں فرمایا۔

آپ نے تلویح کی عبارت نقل تو کر دی لیکن اگر پوری عبارت نقل کرتے تو بات صاف تھی۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیئے تلویح کی پوری عبارت:

ذکر بعض ان الصحابي اسوه من اشتهر بطول صحبة النبي  
صلى الله عليه وسلم سواء طالت صحبتة ام لا۔ ان المجزم  
بابعدالة مختص من اشتهر بذالك والباقيون كسائر  
الناس فيهم عدول وغير عدول۔

بعض نے ذکر کیا ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت میں مشہور ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ صحابی وہ مورمن ہے جس نے حضور کو دیکھا اور بس وہ مثل دوسرے لوگوں کے میں جن میں عدول بھی ہیں اور غیر عدول بھی۔

چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طول صحبت میں مشہور صحابی تھے۔ اس لیے علمائے اصول کے نزدیک آپ بھی عدول تھے۔ لیکن وجید الزبان نے ان کو عدول نہیں مانا۔ لہذا غیر مقلد کا یہ کہنا کہ یہ سئٹھے اصول حنفیہ سے مخذل ہے۔ سراسر غلط ہے۔

### غیر مقلد

اہل حدیث حضرت امیر معاویہ کی منقبت کے قائل ہیں۔

حنفی غلط ہے جو وجید الزبان کا قول تو شن چکے آگے سُئیٹے!

احق بن راہویہ کہتا ہے :

لہو یصحح فی فضائل معاویہ شیعی (فتح الباری جزء ۱ ص ۲۷)

معاویہ کی فضیلت میں کوئی شیعی صحیح نہیں۔

امام سجارتی نے فضائل یامناقب کی سجلاتے ذکر معاویہ کا باب کیوں باندھا؟

امام فناٹی سے حبیب کہا گیا کہ معاویہ کے فضائل میں بھی کتاب لکھوں طرح

آپ نے مناقب علی میں لکھی ہے۔ تو اس وقت آپ نے کیا جواب دیا تھا؟

عبد الرزاق بن ہمام جو پاپ کا حدث تھا۔ حبیب اس کے سامنے حضرت امیر

معاویہ کا ذکر ہوا تو اس نے کہا تھا :

لَا تقدِّمْ مَحْلِسَنَا بِذِكْرِ وَلِدِ أَبِي سَفِيَّانٍ

ابو سفیان کے بیٹے کا ذکر کر کے ہماری مجلس پلید نہ کرو۔ (دیکھو میزان فہمی)

## غیر مقلد تمہاری شامی میں ہے :

کان علی و من تبعه من اهل العدل و خصمہ من اهل البُنی

علی اور ان کے متبوع اہل عدل تھے حبیب کہ ان کے دشمن باعث تھے۔

## حنفی تمہارا نواب بدیرۃ المسائل کے مراد پر لکھا ہے :

خاد جین بر علی مرتضی و محاربین او و مصربین بر آن کہ توبہ شان ثابت

نہ شدہ لغات اند و علی محنت بود ایشان مبطل۔

حضرت علی پر حز و حج کرنے والے اور ان سے لیٹنے والے اور لڑائی

پر اصرار کرنے والے جن کی توبہ ثابت نہیں، باعث تھے علی حق پر

تھے یہ لوگ باطل پر تھے۔

یہی نواب صاحب السراج الهاج ص ۱۹، میں قاضی شوکانی کی فتح الربانی سے  
نقل کرتے ہیں :

ان الخارجین علی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ  
المحاربین لہ المدرسین علی ذالک الذین لم تصح  
توبتهم بغاۃ وانہ الحق وہم المبطلوں ۔

حضرت علی پر حزوج کرنے والے، ان سے لڑنے والے اور لڑائی  
پر اصرار کرنے والے جن کی توبہ صحیح نہیں، سب باعثی تھے۔ علی حق  
پر تھے اور وہ سب باطل پر ۔

پھر نواب صاحب اسی صفحہ پر لکھتے ہیں :

قال اهل العلم هذالحادیث حجۃ ظاہرۃ فی ان علیا  
کرم اللہ وجہہ کان محقق مصیبا و الطائفۃ  
الاخیری بغاۃ ۔

اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس بات میں ظاہر دلیل ہے کہ حضرت  
علی حق پر تھے اور دوسرا گروہ (یعنی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی)  
باعثی تھے۔

دیکھا آپ نے ! کہ نواب صدیق اور قاضی شوکانی جو تمہارے فرقہ کے مسلم  
پیشوامیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ کو باعثی قرار کر رہے ہیں۔ پھر کس ڈھنڈاٹی سے یہ  
مسئلہ حنفیہ کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ حنفیہ اس میں اجتہادی خطاب سمجھتے  
ہیں۔ جس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں خلل  
آتا ہے۔

غیر مقلد      شرح عقائد نسفی میں ہے :

## غاية امرهم البغى والخروج

**حنفى** صاحب کتاب نے 'غاية امرهم' فرایا ہے نہیں کہ وہ حضرت معاویہ کے حزوج و بناؤت کا قائل ہے بلکہ علی سبیل التنزیل لکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے بُنیٰ و حزوج کا طعن ہے جو موجب لعن ہمیں بلکہ وہ تصریح کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو محاربات واقع ہوتے ہیں وہ اجتہادی خطا میں۔ (شرح حقائقہ ص ۲۱۶)

**غير مقلد** صدر الشريعة نے توحضرت معاویہ کو بدعتی بنا دیا۔ دیکھو شرح وقایہ و توضیح -

**حنفى** شرح وقایہ اور توضیح میں ہے:

ان القضاۃ بیشانہ دویمین بدعة و اول من قضابه معاویۃ  
ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کردا، بدعت ہے اور معاویۃ وہ پہلا شخص  
ہے جس نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔  
آپ نے صرف اس قول سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدعتی سمجھ لیا لیکن یہ  
نمیجہ کے صحابی کافل بدعت شرعی نہیں ہو سکتا خصوصاً جب کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم سے بھی مردی ہے۔ تو یہاں بدعت سے بدعت ضلالت مراد نہیں۔  
صاحب تلویح فرماتے ہیں :

لیس المراد ان ذالک امرا بتدعاً معاویۃ فی الدین بناء  
علی خطائہ كالبغى فی الاسلام ومحاربة الامام وقتله

الصحابۃ لانه قد ورد فیہ الحدیث الصیح بـ  
المراد انہ امر مبدع لـ هریق العمل به الی زمان  
معاویة لعدم الحاجة الیه .

اس بدعت سے یہ مراد نہیں کہ معاویہ کی خطاء کی بنای پر دین میں  
ایک نئی بدعت پیدا ہو گئی ہے جیسے اسلام میں لبی، محاربہ بالامام  
اور قتل صحابہ۔ کیوں کہ اس میں صحیح حدیث آپکی ہے۔ (جس امر میں صحیح  
حدیث آپکی ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتا) بکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ  
امر نیا ہے۔ معاویہ کے زمانہ تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ کیونکہ معاویہ  
کے دور سے پہلے اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی۔

رہی بات صدر الشریعہ کے قول کی، جس کو غیر متقلد نے حنفیہ کے ذمہ لکھا ہے  
توجہاب! یہ قول صدر الشریعہ کا نہیں اہل حدیث کے امام و محدث زہری کا ہے جسے  
صدر الشریعہ نے نقل فرمایا ہے۔

ملاظل فڑیشے جوہر النفق جلد دوم ص ۲۲۹ :

قال ابن ابی شیبة مثنا حماد بن خالد عن ابن ابی زبب  
عن الزہری قال هی بـ دعـة وـ اول من قـضـاء بـ هـا مـعـاوـیـه  
وـ هـذـا السـنـد عـلـی شـرـط مـسـلمـ.

یعنی زہری کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور سب سے پہلا شخص جس نے  
اس کے ساتھ فیصلہ کیا، معاویہ تھا۔

شیخ عبد الحمیک الحسنی نے بھی تعلیق المجد میں اس قول کو جواہر ابن ابی شیبة  
نقل کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مؤٹا میں ذکر کیا ہے۔  
پس حضرت امیر معاویہ کو اگر بدعتی بنایا ہے تو آپ کے اہل حدیث نے نہ۔

حنفیہ نے فما هو جوابكم فهو جوابنا۔

اور یہ جو لکھا ہے کہ صاحب تلویح نے ان کو قاتل صحابہ باعنی محارب لکھا ہے تو جناب اس میں صاحب تلویح نے خود تصریح کر دی ہے کہ یہ آپ کی اجتہادی غلطی تھی اور خطأ نئے اجتہادی پر موافق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی عدالت میں فرق آتا ہے۔

## اعلان نکاح دفوف اور مزامیر و غنائم سے مستحب ہے بلکہ واجب ہے

حنفی مولوی وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے کہ نکاح کا اعلان دفون مزامیر اور غنائم سے مستحب ہے۔ بلکہ واجب ہے۔

ملاحظہ فرمائی شے نزل الابرار جلد ۲ ص ۳۰۰ :

نَدَبَ اعْلَانُ النِّكَاحِ وَلَوْ يُضْرِبَ الدَّفُوفُ وَاسْتِعْمَالُ  
الْمَزَامِيرِ وَالْتَّغْنَىٰ وَمَنْ حَرَمَهُ فِي النِّكَاحِ وَالْأَعْيَادِ وَ  
مَرَاسِيمِ الْفَرْحَ كَالْخَتَانِ وَعِنْيهِ فَقَدْ أَخْطَاءَ

وَالصَّحِيحُ هُوَ أَنْ تَقَاسِ المَزَامِيرُ الْمَرْسُومَةُ فِي كُلِّ  
الْبَلَدِ عَلَى الدَّفِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ بِلِ الظَّاهِرِ تَقْضِي  
وَجَوَبُ ضَرْبِ الدَّفُوفِ فِي النِّكَاحِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ -

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْبِينُ  
وَالْمُرْعِيْبُ اللَّهُ فِي النِّكَاحِ حِثَّ قَالَ فَهَلَا لِمَوْفَاتِ  
الْأَنْصَارِ يَعْجِبُهُمُ اللَّهُ وَقَدْ سَمِعَ الْغَنَاءِ فِي نِكَاحِ الرَّبِيعِ

بنت معاذ بن عضلاء (رواہ البخاری)

نکاح کا اعلان مستحب ہے اگرچہ دف بجانے، باجہ کے استعمال اور گانے سے ہو اور جو شخص نکاح، عید اور دیگر مراسم فرح مثل شادی ختنہ وغیرہ میں گانے بجلنے کو حرام سمجھتا ہے، اس نے خطاب کی ہے۔

اوی صحیح یہی ہے کہ ہر شہر کے مروجہ باجے اس پر قیاس کیے جائیں جو حدیث میں وارد ہے بلکہ حدیث کاظمہ دف بجانے کے وجوب کا مقتضی ہے جیکہ رشادی کرنے والا اس پر قادر ہو۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں لہو کی تریخیب و تحریف ثابت ہے۔ آپ نے ایک شادی میں فرمایا کہ اس میں لہو کیوں نہیں؟ الفصار کو تو لہو پسند ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بنت معاذ کے نکاح میں گانا شنا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا۔

اس مسئلہ میں وحید الزمان نے اپنا استدلال احادیث سے بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ اہل حدیث کا ہے۔

### غیر مقلد

درمختار میں ہے کہ بعض حنفیہ نے شادی میں گانے کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ شادی میں ڈفلہ بجانا جائز ہے اور بعض فقہاء نے مطلقاً گانا مباح قرار دیا ہے۔

### حنفی

افوس کہ غیر مقلد کو تعصب نے ایسا نہ کار دیا ہے کہ وہ دیدہ و انتہ حق سے اغراض کرتا ہے۔ جناب! درمختار میں گانے بجانے کا استحباب یا

وجوب کہاں ہے ؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے درمختار کی اگلی سطح کو پڑھا ہوتا تو  
سارا مسئلہ واضح ہو جاتا۔

صاحب درمختار لکھتے ہیں :

وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ مَطْلَقاً أَنْتَهِي

وَفِي الْبَحْرِ وَفِي الْمَذْهَبِ حِرْمَةٌ مَطْلَقاً فَإِنْ قَطَعَ الْأَخْلَافَ  
بَلْ ظَاهِرُ الْمَدَايَةِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَلَوْلَنْفَسِي

بعض فقیہا نے مطلقاً گائے کو مکروہ سمجھا ہے۔

اور بھر الرائق میں ہے کہ مذہب حنفی میں مطلقاً حرام ہے تو کوئی  
اختلاف نہ رہا بلکہ بدایہ کا ظاہریہ ہے کہ گانا کبیر ہے اگرچہ اپنے  
نفس کے لیے ہو۔

معلوم ہوا کہ صاحب درمختار نے اختلاف کو نقل کر کے اصل مذہب میں  
مطلقاً حرام لکھا ہے۔ اگر غیر مقلد میں الفاف ہوتا تو اصل مذہب کو نہ چھپاتا اور مٹا  
نقل کر دیتا۔

### غير مقلد بدایہ میں ہے:

طبل الغزا و الدف الذي يباح ضربه في العرس

حنفی اس عبارت میں بھی اباحت کا ذکر ہے نہ کہ وجوب و استحباب کا۔ اور وہ  
بھی صرف 'دف' کا نامہ کہ باجا کا۔  
لیکن آپ کے وحید الزمان نے تو غنا مع مزامیر و دفوف کا واجب لکھا ہے۔

### غير مقلد من دعى الى وليمة الخ

حنتی

اولاً اس میں گانے کا ذکر ہے بجانے کا نہیں۔  
ثانیاً ہدایہ میں اس کے متعلق چند قیود ہیں۔  
پہلی قید تو یہ ہے:

هذا اذا دلوكين مقتدى و ان كان ولو يقدر على منعهم  
يخرج ولا يقعد۔

یہ اس صورت میں ہے کہ مدعاً مقتدی ائے قوم نہ ہو اور اگر مقتدی ائے قوم ہے لیکن روکنے پر قادر نہیں تو نکل آئے اور نہ بیٹھے۔

دوسری قید یہ ہے:

کروه لعب وغنا اس مقام میں نہ ہو جہاں کھانا کھایا جائی ہے اگر اس مقام پر ہوتونہ بیٹھے اگرچہ مقتدی اونہ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

ولو كان ذالك على المائدہ لا ينبغي ان يقعد وان لم يكن  
مقتدی لقوله تعالى فلا تقد بعد الذكرى مع القوم  
الجاهلين۔

تیسراً قید یہ ہے:

کہ مدعاً کو حاضر ہونے سے پہلے پتہ نہ ہو کہ وہاں کھیل اور غنا ہے۔ اگر پہلے پتہ ہو تو بالکل نہ جائے۔ چنانچہ فرمایا:

هذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر  
علاوه ازيين 'لباس' ترك او لپر بولته بیس  
سچراً گے فرماتے میں:

و دلت المسئلة على ان الملاهي كلها حرام (ربداية)

اس سئلہ نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ ملاہی سب حرام ہیں۔

بھر الرائق جلد، ص ۸۸ میں ہے:

نقل البذازی فی المناقب الاجماع علی حرمۃ الغناء  
اذا كان على الله كالعود۔

بذازی نے حرمت غناء پر حجہ کہ آدھوں کے ساتھ ہو، اجماع نقل  
کیا ہے۔

پھر آگے فرماتے ہیں:

و في العناية والبنيان التغنى للهومعصية في جميع  
الاديان۔

عنایہ و بنایہ میں لکھا ہے کہ کھیل کے لیے گانسب ادیان میں گناہ ہے  
پھر اس سے آگے زیادات سے نقل کر کے فرماتے ہیں:

فقد ثبت نص المذهب على حرمۃ

لپس مذیب حنقی میں اس کی حرمت منصوص ہے۔

وجید الزمان نے نزل الابرار جلد ۲ ص ۹۲ میں یہی سئلہ لکھا ہے  
جس سے وہابیہ کا مذہب ظالم ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں:

قلت عندنا لاباس باللعبة واللهم و الغناء في النكاح

والختان و مراسع الفرج في مجلس ويأكل۔

میں کہتا ہوں ہمارے (غیر مقلدین کے) نزدیک شادی بیاہ، ختنہ  
اور دوسرے خوشی کے موقع پر، ہبہ و لعب و غناء درست ہے  
کوئی ڈر ہیں بیٹھتے اور کھانا کھلیتے۔

پھر آگے صاحب بذازیہ کا قول حرمت نقل کر کے لکھتے ہیں:

ای دلیل علی حرمتہا؟  
 اس کے حرام ہونے پر کون سی دلیل ہے؟  
 گویا وحید الزمان صاحب حرام ہونے کو بے دلیل کہہ رہے ہیں۔

## وہاپیوں غیر مقلد م سے ایک گزارش

دیکھئے! آپ کے وحید الزمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس مغل نکاح  
 میں گانا بجانا اور ہو و لعب ہو وہاں بے شک جائیئے، بیٹھئے اور کھانا تناول  
 کیجئے۔

افسوں تو اس بات پر ہے کہ جس مغل میں کھانے پر قرآن پڑھا جائے  
 وہاں جانے، بیٹھنے اور کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔

## غیر مقلد درمختار میں ہے: ولواخذ بلا شرط بیباح اگر اس نے بلا شرط لے لیا تو مباح ہے۔

حنفی حنفیہ کی تمام کتب فقہ میں گانے بجانے کی مزدوری منع لکھی ہوئی  
 ہے۔ البتہ بلا شرط، جو اصل میں مزدوری نہیں ہے، بعض نے مباح کھا ہے  
 مگر صحیح یہ ہے کہ یہ بھی مباح نہیں۔

علام شامی نے جلد ۵ مد ۳ میں لکھا ہے:  
 قال الامام الاستاذ لا يطيب والمعروف كالمشروط

قلت وهذا مما يتعين الاخذ به في زماننا يعلمهم  
انهم لا يذهبون الا باجر البتة.

امام استاذ فرنایا کر ر بلا شرط) بھی حلال نہیں کیوں کم معرفت  
مثل مشروطہ تو ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اسی پر فتویٰ ہے  
کیونکہ لوگ جانتے میں کہ (گانے بجائے والے) اجرت کے بغیر کہیں  
جاتے ہی نہیں۔

معلوم ہوا کہ بلا شرط بھی مباح نہیں ہے۔ غیر مقلد جتنے ہاتھ پاؤں مارے  
فقہ عنفیہ سے وہ بات ثابت نہیں کر سکتا۔ جو بات اس کے پیشواد نے لکھ دی  
ہے کہ گانا بجانا شادیوں میں سخب بلکہ واجب ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ  
یہ مسئلہ غیر مقلدوں کا ہے، عنفیہ کا نہیں۔ آپ فقہ عنفیہ کی کتابوں سے یہ مسئلہ  
ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا۔

غير مقلد  
ہدایہ میں ہے:  
بیع هذه الأشياء بجائز

حنفی  
اسی بدایہ شریعت میں مندرجہ بالاعبارت کے ساتھ صاحبین کا قول  
بھی موجود ہے کہ ان اشیاء کی بیع جائز نہیں۔  
در محابر میں لکھا ہے:

وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها و عليه الفتوى  
صاحبین نے فرنایا کہ ان کی بیع جائز نہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔  
پس حنفی مذہب کی مفتی بے عبارت کوچھ پانہ اور دوسری کو پیش کر کے اعتراض کرنا،

غیر مقلدین کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ چلئے اگر ان اشیاء کی بیع جائز ہی سمجھئے اس لیے کریہ مال ہے اور بجز لہو کے ان سے فائدہ بھی مٹھایا جا سکتا ہے تو بھی ان کا بجانا، ناجائز ہی رہتے گا زندگی کہ ان اشیاء کی بیع کے جواز سے گانجا بجانا بھی جائز ہو جائیں گا۔

غیر مقلد مدارج النبوة میں ہے کہ حضرت امام اعظم کا اکیف ہمسایہ گایا کرتا تھا اور آپ سننا کرتے تھے۔

حنفی آپ کے وحید الزمان نے تو لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننا۔ اگر امام اعظم نے سُن لیا تو کیا حرج ہوا؟ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ گانا جو امام اعظم نے سنامرا میر کے ساتھ دھکا۔ بات تو دوفت اور مرا میر کی بوری ہے مطلقاً گانے کی نہیں۔

غیر مقلد اسی کتاب نزل الابرار میں ہے:

اہل الحديث مختلفون الخ  
یعنی گانے بجانے کے مباح ہونے میں اہل حدیث کا اختلاف ہے۔  
اہل حدیث میں صرف ابن حزم (ظاہری) گانے بجانے کو مباح کہتے ہیں۔

حنفی ترجمہ میں صرف "ابن حزم" کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ صرف اپنے گھر سے ملا کر یہ نتیجہ سمجھ دیا کہ سوا ائے ابن حزم کے باقی تمام اہل حدیث منع کرتے ہیں اگر یہی بات ہوتی اور واقعی ابن حزم کے سوا کوئی جائز کہنے والا نہ ہوتا تو عبارت یوں ہوتی۔

اہل الحديث کالم متفقون علی حرمة الغناء والمزامير  
 الا بن حزم ولا عبرة به لانه من اهل الظاهر  
 ملاحظ فرمائے نزل الابرار کی عبارت، وحید الزمان کہتے ہیں:  
 لاباس بالغناه والمزامير في زواج او ختان (الا اخر ما قال)  
 وقد سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم غناء الجواری فی  
 زواج الربيع بنت معوذ بن عفراہ ومن اصحابنا من منع  
 عنه والذی یشدو فیہ هو مخطئ اوصال  
 شادی بیاہ اور ختنہ کی تقریبات میں، گانے بجلنے میں کوئی عرج  
 نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع کی شادی میں لوگوں کا  
 گانا سنا۔ ہمارے اصحاب (غیر مقلدین) میں سے بعض وہ ہیں جو  
 منع کرتے ہیں اور جو اس میں تشد و کرتا ہے وہ یا تو خطا کار ہے یا مگراہ۔

امام بخاری نے نکاح اور ولیمہ میں ضرب دوف کا باب باذ صاف ہے اور اس باب  
 میں ربع کی حدیث نقل کی ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری میں مہلب سے نقل کرتے ہیں:  
 فی هذا الحديث اعلان انكحاح بالدوف، والغناء المباح  
 اس حدیث میں نکاح کا اعلان دوف اور گانے کے ساتھ مباح ثابت  
 ہوتا ہے۔

ابن حجر نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں نکاح میں دوف بجانا حلال حرام  
 کے لیے فضل فرمایا ہے۔ اس کے باوجود غیر مقلد صاحب! آپ کہتے ہیں کہ تمام ایں  
 حدیث منع کرتے ہیں!

فَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْجَهَنَّمِ وَالْعَنَادِ

## وطی فی الدبر کی حرمت ظنی ہے

حنفی وحید الزمان نے نزل الابرار جلد ۲ ص ۴ میں لکھا ہے کہ حیض میں  
وطی کرنا حرام ہے اگر کوئی کرے تو اس کو تعزیر یا کٹائی جائے۔  
پھر اگے لکھتا ہے کہ حنابلہ و طی فی الدبر کو بھی فی الحیض کی طرح سمجھتے ہیں۔  
(رعینی حرام اور واطی کو تعزیر)  
پھر لکھتا ہے :

و عندنا لا يكون حكم الوطى في الدبر حكم الوطى في  
الحيض لأن حرمۃ الاخير قطعیة بخلاف حرمۃ الاول  
فانها طنیة لمكان الاختلاف فيه كما مر  
اور ہمارے راہل حدیث وہابیہ کے نزدیک و طی فی الدبر کا حکم و طی  
فی الحیض کے حکم کے مثل نہیں۔ کیوں کہ و طی فی الحیض کی حرمت  
قطعی ہے برخلاف اول (وطی فی الدبر) کے کریہ ظنی ہے۔ اس لیے  
کہ اس د کے جواز اور عدم جواز) میں اختلاف ہے۔ جیسے کہ گذرا۔  
اس سے معلوم ہوا کہ و طی فی الدبر میں وہابیہ کے نزدیک تعزیر بھی نہیں۔  
چھر نزل الابرار کے ص ۴ میں لکھا ہے :  
و لا يجوز اتيان المرأة في دبرها الا رواية عن عمر تدل  
على جوازه وهو قول الشافعی -

عورت کی دبر میں و طی کرنا جائز نہیں مگر ایک روایت عبد اللہ  
بن عمر کی اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے اور یہی قول شافعی کا ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس فعل کے جواز و عدم جواز میں دہاکہ کے باہم اختلاف ہے۔

### عین مقلد

حلفیہ کے باہم بھی اس پر حد نہیں

### حنفی

میں کہتا ہوں کہ جوبات و حید الزمان نے لکھی ہے وہ فقہ حلفیہ کی کسی کتاب سے ثابت کرو۔ رہی باستحدمه ہونے کی توجیہ الگ بات ہے اس کی وجہ نہیں کہ اس کی حرمت ظرفی ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام سے ایسے شخص کے حق میں جو یہ فعل کرنے والوں کا ثابت نہیں ہے۔

دروغدار کی عبارت ملاحظہ فرمائیئے ।

بَلْ يَعْذِرُ قَالَ فِي الدَّرِدِ خَوَالِ الْحَرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجَدَارِ  
وَالتَّنَكِيسِ مِنْ مَحَلٍ مُرْتَفَعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ وَفِي الْحَاوَىِ  
وَالْجَلْدِ أَصْحَى وَفِي الْفَتْحِ يَعْزِرُ وَلِيَسْعَى حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ  
وَلَوْا عَتَادُ الْلَّوَاطَةِ فَتَلَهُ الْإِمَامُ سِيَاسَتَهُ

راہیسا فعل کرنے والے کو تعزیر لگائی جائے۔ دروغدار میں ہے کہ اگلے میں جلا یا جائے یا اس پر دیوار گرانی جائے یا بلند مقام سے گرا کر اس پر پتھر بر ساتے جائیں۔ حاوی قدسی میں ہے کہ کوڑے لگانہ زیادہ صحیح ہے۔ فتح القدير میں ہے کہ تعزیر لگائی جائے جیاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے اور اگر لواطت کی عادت پکڑ لے تو امام اس کو سیاستہ قتل کر دے۔

افسوس کہ عین مقلد نے صرف یہ لکھ کر "اس پر حد نہیں" ناظرین کو دھوکا دیا

چاہا۔ حالاں کے صاحبین کے نزدیک یہاں تک ہے:

ان فعل بالاجانب حدٰ

اگر اجنبیہ کے ساتھ ایسا کرے تو اس پر حد ہے  
رطاخٹہ فرمائیئے درختار

درختار میں بھر الرائق سے منقول ہے:

حرمتها اشد من الزنا حرمتها عقلاء و شرعاً و طبعاً

والزنالیس بحرام طبعاً و تنزل حرمتها بتزوح و شراء

بخلافها وعدم الحد عنده لاختفتها بل للتغليظ لانه

مطہر على قول -

اور حموی شرح أشباه ص ۲۵۹ میں ہے:

فی شرح المشارق للاکمل ان اللواطۃ محرمۃ عقلاء

و شرعاً و طبعاً بخلاف الزنا فانه ليس بحرام طبعاً

فکانت اشد حرمۃ و انما الموجب الامام ابو حنیفۃ

الحدیفہ العدم الدلیل علیہ لاختفتها و انما عدم

وجوب العدیفہ للتغليظ علی الفاعل لأن الحد مطہر

على قول بعض العلماء انتہی

ان دونوں عبارتوں کا حاصل ترجیح یہ ہے کہ لواطت شرعاً، عقلاءً

اور طبعاً حرام ہے جب کہ زنا طبعاً حرام نہیں کیونکہ نکاح اور شراء

سے زنا کی حرمت زائل ہو جاتی ہے۔ لواطت زنا سے زیادہ حرام ہے

کیوں کہ طواطت کی حرمت نکاح اور شراء سے بھی زائل نہیں ہوتی۔

اور امام اعظم نے جو اس پر حداچب نہیں کی وہ اس لیے نہیں کریں

فعل ان کے نزدیک خفیف ہے بلکہ اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ حد بعض علماء کے نزدیک مطہر ہے یعنی جس پر حد لگانی جائے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو امام اعظم نے اس فعل کے مغلظت ہونے کے واسطے اس پر حد واجب نہیں کی۔

پس جب اس پر تعزیر لگانا، الگ میں جلانا، اس پر دیوار گرانا، اونچے محل سے گرانا قید کرنا یہاں تک کہ مر جائے یا نوپہ کرے اور سیاست قتل کرنا ہماری کتب فقة میں لکھا ہے تو پھر غیر مقلد کا یہ طامہ کرنا کہ "حنفیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں" دھوکا دہی نہیں تو اور کیا ہے؟ زنا کی حد رحم اور جلد ہے، جو کہ وطنی کے واسطے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ اس پر حد نہیں۔ البتہ تعزیر مذکورہ بالا سزا میں فقہاء کرام نے لکھی میں۔

غیر مقلد ہدایہ میں ہے کہ اگر رعذه کی حالت میں ایسا کرے تو اس پر کفارہ نہیں۔

حنفی کاش! آپ نے ہدایہ کی پوری عبارت پر نظر کی ہوتی تو آپ کو یہ عبارت بھی نظر آ جاتی۔

ہدایہ جلد ا ص ۱۹۹ میں ہے:

وَالاَصْحَاحُ اِنَّهَا تَحْبَبُ

اَصْحَاحٍ یہی ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے۔

غیر مقلد حنفیہ کے ایک قول میں ہے کہ جنت میں وطنی فی الدبر ہوا کرے گی۔

حنفی خدا کا کچھ تو خوف کچھ کہ جس قول کو فقہاء نے خود صیغہ تعریض میں بیان

کیا ہو۔ پھر اس کی تردید بھی کر دی ہو، آپ اس کو الزاماً کیوں کمپیش کر سکتے ہیں؟  
سینے! خود رہنمائیں ہے!

ولَا تَكُونُ الْلَّوَاطِةَ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ  
صَحِحٌ مِنْهُبٌ مِنْ يَهٗيٰ ہے کہ جنت میں لواطت نہیں ہوگی  
جموی شرح اشباه ص ۲۵۹ میں لکھا ہے:  
وَقَدْ صَحَ فِي الْفَتْحِ عَدْمُ وُجُودِهَا فِي الْجَنَّةِ  
اور فتح القدير میں اسی کو صحیح لکھا ہے کہ جنت میں لواطت کا وجود نہ ہوگا۔  
چھڑاگے جموی میں ہے:

وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَتوحَاتِ الْمَكِيَّةِ فِي صَفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ  
لَا إِدْبَارَ لَهُمْ لَأَنَّ الدِّيرَانِ مَالِخَلْقِ فِي الدِّينِ الْخَرْقُ الْغَائِطُ  
النَّجْسُ نَلِيَسْتُ الْجَنَّةَ مَحْلًا لِلْقَادِرِ لَتْ قَلْتَ فَعَلَى هَذَا لَا  
وُجُودُهَا فِي الْجَنَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَبِيرِ  
فتوحات مکیہ میں شیع مجی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ اہل جنت  
کی دبریں نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ دبر دنیا میں اس لیے پیدا کی گئی ہے  
کہ اس راستے سے نجس پاخانہ خارج ہو۔ اور جنت محل نجاسات نہیں ہے  
میں کہتا ہوں کہ اس کی بناء پر ثابت ہوا کہ جنت میں ہر حال لواطت کا  
وجود نہیں ہوگا۔ نَالْحَمْدُ لِلَّهِ!

غير مقلد  
اہل حدیث کے ہاں لواطت کی حرمت قطعی ہے۔

حنفی کیوں نہ ہو؟ آیت

ناتوا حرشکم اپنی شستم کا نزول اسی کی رخصت میں نقل کرتے ہیں۔  
دیکھو صحیح بخاری اور فتح الباری۔

جن آیت سے آپ نے حرمت لواطت سمجھی ہے ذرا وجد استدلال بھی  
نقل کر دیتے تو ہم بھی معلوم کرتے۔ آیت  
فمن ابْتَغَ وِرَاءَ ذَالِكَ فَإِلَيْكَ هُمُ الْعَاذُونَ سے تو غایت مافی  
الباب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازواج اور مملوک کے سوا کسی دوسرا وجہ سے اپنی خواہش  
پوری کرنے والا، حد سے گزرنے والا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی منکوح یا لوثی سے  
اپنی خواہش پوری کرتا ہے، خواہ ولی فی الدبر سے کرے، اس کی مخالفت اس آیت  
سے کس طرح نکلتے گی؟ ذرا بیان تو کیا ہوتا تاکہ ہمیں آپ کے طریق استدلال کا علم ہو جاتا۔

## کافر کا ذبیحہ حلال ہے

حنفی وحید الزمان نے نزل الابرار جلد ۲ ص ۸ میں لکھا ہے کہ 'کافر کا ذبیحہ  
حلال ہے' :

## غیر مقلد

کافر کا ذبیحہ اس شرط سے حلال ہے جب وہ بسم اللہ الٰہ اکبر کہہ  
کر ذبح کرے غیراللہ کے نام پر ذبح نہ کرے۔ ذبح سے خون بہائے اور جو گئیں شرعاً  
کاشنا چاہیئے ان کو ذبح میں قطع کرے تو حلال ہے۔

حنفی میں کتابوں کو وحید الزمان کے نزدیک مسلمان کے ذبیحہ میں بھی یہی شرائط  
ہیں۔ اگر مسلمان عمدًاً بسم اللہ چھوڑ دے یا غیراللہ کے نام پر ذبح کرے یا گئیں نہ کاٹے

تو اس کا ذیجہ بھی حلال نہیں پھر ان شرائط کی کافر کے ساتھ کیا خصوصیت ہے، کہ ان کے ذکر کرنے کی صورت ہوتی۔

تنازع تو ذایع کے کفر میں ہے۔ تمہارے نزدیک ذایع اگر کافر بھی ہو تو اس کا ذیجہ حلال ہے۔

### غیر مقلد

یہاں کافر سے مراد، بے نماز قبریہ اور تعزیہ پرست میں نہ کہ ہندو جو سی وغیرہ۔

### حنفی

یہ بات غلط ہے اور توجیہ القول بحال ایرضیٰ بر قائلہ کے قبیل سے ہے۔ خود وحید الزمان نے اس قول سے پہلے لکھا ہے،  
ذیجۃ المسلم علیٰ ای مذهب کا نفق ای بدعت و قبح ہی  
مما یزک را اسم اللہ علیہ۔

مسلمان کا ذیجہ، حزاہ وہ کسی مذهب سے ہوا اور حزاہ کسی بدعت میں  
مبتلہ ہو، اس قبیل سے ہے جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔  
پھر اس عبارت کے آگے کافر کے ذیجہ کا حکم لکھا ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ کافر سے اس کی مراد بھی ہندو جوہنی وغیرہ میں قبر پرست  
اور تعزیہ پرست نہیں۔

### غیر مقلد

تفسیر احمدی میں ابن میب سے ہے:

اذا كان المسلم مريضا ناما المرجوسي الخ

حنفی اس اثر کے آگے لفظ و قد اساد بھی ہے جس پر آپ نے نظر نہ کی۔

بہر حال ہمارے حنفیہ کے نزدیک مجوسی کا ذبیحہ حلال نہیں۔ بدایہ وغیرہ کتب  
فقہ میں صاف تصریح ہے۔ چنانچہ فرمایا:

و لا توکل ذبیحة المحوسي

مجوسی کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔

فت اولیٰ قاضی خان ص ۵۸، میں ہے۔

**ذبیحة المحوسي حرام**

مجوسی کا ذبیحہ حرام ہے۔

صاحب تفسیر احمدی نے جوابن میب سے روایت نقل کی ہے وہ حنفی  
مذہب کی روایت نہیں۔ ابن میب مجوسی کا ذبیحہ حلال سمجھتے ہوں گے لیکن امام  
اعظم کے نزدیک حلال نہیں۔

تفسیر احمدی میں ہے:

اما المحوسي فانه وان كان ملحقا بالكتابي في حق  
التقرير على الجزية لكنه غير ملحق به في حق الذبيحة

والنساء

مجوسی اگرچہ کتابی کے ساتھ جزیہ کے حق میں ملحتی ہے لیکن ذبیحہ اور  
عورتوں کے ساتھ حق نکاح میں ملحتی نہیں۔

### غیر مقلد بنو تغلب اہل کتاب نہیں

**حنفی** غلط ہے۔ بنو تغلب نصاریٰ عرب سے ایک قوم ہے۔

فتح القدر میں علامہ ابن ہبام نے ان کو نصاریٰ عرب لکھا ہے۔

بدایہ میں بھی ان کو کتاب پیوں میں شمار کیا ہے

قفسیہ احمدی میں بحوالہ کشاف لکھا ہے:  
عند ناالكتابی یشتمل التغلبی  
ہمارے نزد کیک تابی، تغلبی کو شامل ہے۔

غیر مقلد مغرب میں لکھا ہے:  
قوم من مشرکی العرب  
مشرکین العرب سے ایک قوم ہے۔

حنفی  
شرح وقاریہ میں بھی ایسا لکھا ہے لیکن  
شیخ عبد الحجی الحنفی نے عمدہ الرعاۃ جلد اصرار ۱۳ میں لکھا ہے:  
هذا خطاء من الشارح والصحيح انهم قومٌ من نصارى  
العرب -

شارح وقاریہ کی یہ خطا ہے صحیح یہی ہے کہ بنو تغلب لنصاری عرب  
کی ایک قوم ہے۔

غیر مقلد حضرت علی فرماتے ہیں:

بنو تغلب ليسوا على النصارانية

حنفی  
اس اثر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لنصاری نہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے  
کہ وہ نصاریت پر قائم نہیں۔  
حافظ ابن حجر نے فتح الباری جز ۲۴ کے ص ۲۰۳ میں حضرت علی سے نقل کیا ہے:

لَا أَكُلُوا ذِبَاحَ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا

مِنْ دِينِهِمُ الْأَبْشِرُ الْخَمْرُ -

نصاریٰ بنی تغلب کا ذیحہ نہ کھاؤ کیوں کہ انہوں نے نصاریٰ کے دین سے بجز شراب نوشی کے اور کسی چیز سے تسلک نہیں کیا۔

حضرت علیؑ کے اس قول میں صراحت ہے کہ بنی تغلب نصاریٰ میں لیکن وہ نصاریٰ پر قائم نہیں اس لیے آپ نے ان کے ذیحہ سے منع فرمایا۔ امام بخاری ر تعلیقاً حضرت علیؑ سے جواز ذبائح نصاریٰ عرب لکھا ہے فانظر رثہ۔

غير مقلد امام صاحبکے ہاں صابی کا ذیحہ حلال ہے۔

حنفی بے شک۔ لیکن صابی دو قسم پر ہیں  
اکیس قسم کافر ہیں۔ ان کا ذیحہ حلال نہیں

تفسیر احمدی میں ہے:

هُمْ حِنْفَانَ حِنْفَتْ يَقْرُؤُنَ الزَّبُورَ وَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ  
وَ حِنْفَتْ لَا يَقْرُؤُنَ كِتَابًا وَ يَعْبُدُونَ النَّجُومَ فَهُوَ لَا يُسَاوا

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ -

ان کی دو قسمیں ہیں۔ اکیس قسم تو وہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل کتاب نہیں۔

صدق حسن نے تفسیر شیعۃ البیان ص ۱۱۴ میں ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے،

فَان الصَّابِةُ نُوْعٌ اَن صَابِةٌ حَنْفَاءُ مُوْحَدُون  
وَصَابِةٌ مُشْرِكُونَ -

صَابِةُ کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو موحد ہیں اور ایک قسم مشرک۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی قسم کے صابی کا ذیجہ حلال قرار دیا ہے نہ کہ دوسرا  
قسم کا۔

فتاویٰ فاضلی خان ص ۸۵، ۸۶ میں ہے:

اَنْهُمْ صِنْفَانِ صِنْفٍ مِنْهُمْ يَقْرُونَ بِنَبْوَةِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ وَيَقْرُونَ الزَّبُورَ فَهُمْ صِنْفٌ مِنَ النَّصَارَىٰ وَ  
اَنَّمَا اجَابَ الْوَحِينِيَّةَ بِحَلِّ ذَبِيْحَةِ الصَّابِيِّ اذَا كَانَ  
مِنْ هَذَا الصِّنْفَ -

صابی دو قسم پرپیں ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ  
السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں لیس وہ  
تو نصاریٰ کی ایک قسم ہیں۔ اور الْوَحِينِيَّةَ نے جو نصاریٰ کے ذیجہ  
کی حلّت کا فتویٰ دیا ہے وہ اس وقت ہے جب صابی اس قسم کا ہو  
ہدایہ کتاب النکاح ص ۲۹۰ میں ہے:

وَيَجُوزُ تزوج الصَّابِيَّاتِ اَن كَانُوا يَوْمَ نُونَ بِدِينِ  
وَيَقْرُونَ بِكِتابٍ لَا نَهُمْ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ وَان كَانُوا  
يَعْبُدُونَ الْكَوَافِرَ وَلَا كِتابٌ لَهُمْ لَمْ تَجِنْ مِنَّا كَحْتَهُمْ  
لَا نَهُمْ مُشْرِكُونَ وَالْخِلَافُ الْمُنْقُولُ فِيهِ مَحْمُولٌ  
عَلَى اشتباهِ مَذَهِبِهِمْ فَكُلِ اجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عَنْهُ  
وَعَلَى هَذَا حَالٍ ذَبِيْحَةِهِمْ اَنْتَهَى

صحابی اگر دین رکھتے ہوں اور کتاب پڑھتے ہوں تو ان کی عورتوں سے نکاح درست ہے کیونکہ وہ اہل کتاب میں اور اگر ستاروں کی پوجا کرتے ہوں اور ان کے لیے کوئی کتاب نہ ہو تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں اور جو خلاف امام عظیم اور صحابین میں منقول ہے وہ ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر محمول ہے جس نے ان کو جیسا پایا ویسا حکم دے دیا اور اسی پر ان کے ذیبحہ کا حکم بھی محمول ہے۔

حضرت امام عظیم رضی اللہ عنہ نے صابیوں کی اس قسم کو پایا جو اہل کتاب تھے اور زبور پڑھتے تھے تو آپ نے ان کے ذیبحہ کی حللت کا فتویٰ دے دیا۔ صحابین نے صابیوں کی دوسری قسم کو پایا اور ممانعت کا حکم دے دیا۔ حقیقت میں اختلاف نہیں۔

**تفسیر الکلیل علی مدارک التنزیل ص ۲۱۹ میں بحوالہ تفسیر مظہری لکھا ہے:**

قال عمر بن عباس هم قوم من اهل الكتاب  
عمر و بن عباس نے فرمایا کہ صحابی ایک اہل کتاب قوم ہے۔

**تفسیر غازنی ص ۵۵ میں ہے:**

قال عمر ذبائهم ذبائهم اهل الكتاب

حضرت عمر و بن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا ذیبحہ اہل کتاب کا ذیبحہ ہے

**غیر مقلد**

**اہل حدیث کا مذہب ہے:**

**الاماذا کیتم**

اے مسلمانو! جس کو تم ذبح کرو وہ نہیں رے لیے حلال ہے اور بس!

تو پھر تمہارے نزدیک اہل کتاب نسلک لگئے۔ اگر تمہارا یہی مذہب ہے تو آیت:  
و طعام الذين اتوا الكتاب حل لكم کا کیا انکار نہیں ہے؟  
اور وہ جو صدیق حسن نے روضۃ الندیر میں ص ۲۰۹ پر اور عرف الجادی میں ص ۲۲۶  
میں لکھا ہے:

'کافر کا ذیجہ حلال ہے، یہ کس کا مذہب ہے؟'

گدھا اور خنزیر کا نمک میں گر کر اگر نمک ہو جائے

تو پاک ہے۔ سس کا لکھانا حلال ہے۔

حنفی و جید الزمان نے جلد اول ص ۵۰ میں ایسا یہی لکھا ہے۔

غیر مقلد یہ مسئلہ بھی تمہارے یہاں سے لیا گیا ہے۔

حنفی میں کہتا ہوں پھر کس فقہ کی کتاب میں اس کا لکھانا حلال لکھا ہے؟ کوئی ثبوت دو۔ فقہ کی کتابوں میں اس کا پاک ہونا لکھا ہے۔ نہ یہ کہ اس کا لکھانا بھی حلال ہے۔ چونکہ ہر بخش حرام ہے لیکن ہر حرام بخش نہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ اس کا لکھانا حرام ہو گوہ پاک ہو۔ پس تاو قتیکہ فقہ کی کتابوں سے اس کا لکھانا حلال ثابت نہ کرو۔ اس مسئلہ کو فقة حنفیہ کی طرف منسوب کرنا غلط ہو گا۔

غیر مقلد اہل حدیث کا دامن ان معائب سے پاک ہے۔

حنفی تعجب ہے کہ تمہاری کتابوں سے یہ معائب ثابت ہیں پھر بھی کہتے ہو کہ اہل حدیث کا دامن ان معائب سے پاک ہے۔ تمہارے گروہ کا دامن نہ صرف

ان معاشب میں بلکہ دیگر میسلیوں معاشب سے تاریخ ہے۔  
نئیتے! وحید الزمان اور قاضی شرکانی لکھتے ہیں :

الاستحال مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه  
استحال پاک کرنے والا ہے یعنی ایک شے جب دوسرا شے بن جائے گی  
تو پاک ہو جائے گی کیونکہ جس وصف پر حکم بخاست تھا وہ نہ رہا۔  
صدیق حسن روضۃ الندیر میں لکھتا ہے :

هذا هو الحق

بھی حق ہے

لیجئے! اب بھی اپنے مہب کا پتہ چلا یا انہیں؟  
وَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالنَّابُ

فیقہ اعظم حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث نویں کنھامی عطیہ

## دارفع الحشر

جس عورت کے ہال مردہ پچھ پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہو کر مر جاتے ہوں یا وقت سے پہلے حل ساقط ہو جاتا ہو یا روز کیاں بھی روکیاں پیدا ہوتی ہوں اسے مرض اٹھرا ہے اس ناماد مرض کے ازار کے لیے حضرت فیقہ اعظم گویاں اور ترمذیات نبی کرتے تھے جس سے ہزاروں عورتیں بامراہ ہو گئیں۔ اہلا حکما اور داڑھوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس رض کیتے

یہ روحانی علاج سو فیصد کامیاب ہے

الحمد لله : یہ ناص عیظہ والدگرانی مجھے عطا ذماغے ہیں مزدود مزدود اصحاب مجھے

آٹھ ماہ کے لیے ترمذیات اور گویاں طلب فرمائیں

نوٹ : یہ دو حمل کے پہلے دوسرے یا پھر تیر میں لے لے کم شروع کر دینا لازم ہے۔ پھر پچھ پیدا ہونے تک دلی جاری رکھی جاتی ہے۔ ترکیب استعمال ساتھ روانہ کی جائے گی:

بی غصہ نڈاک سیست - ۱۰۰

پتوں کے سوکڑے کا سو فیصد پیدا روحانی علاج

## شیئنی

بی اگر سر کو کرکانہ بن جپا ہو، اس میں خون یا سیلیشم کی کمی ہو تو اس کے لیے شیئنی ٹنکر اک قدرت کا کرثہ دیجیے جائے میں اُسے کا ایک ترمذیات اور ۲۳ عدد گویاں ہیں ہر روز ایک گولی پیس کر دی کچھ بھر پانی میں گھول کر پلاں جائیں گے پھر صفتہ بھر پیس ہی موٹا تارہ پسوں نظر آتا ہے آزمائش شروع ہے۔

بی غصہ نڈاک سیست - ۲۰۰ روپے

صاحبزادہ ابوالنور محمد شریف دربار شریفی کوٹی لوہاران  
صلیع سیاکوٹ

فقيہ عظیم مولانا ابو یوسف محمد شرفی محدث کو علموی حرمتہ اعلیٰ

کے تحقیقی رسائل کا حصین و جمیل مجموعہ

# دَلَالَلِ الْمَسَائِلُ

شیعہ مذہب کی ابتداء - مسائل شیعہ - نامک کا شرعی حکم  
 کتاب التراویح - کتاب التراویح پر اعتراضات کے جوابات  
 کتاب الجنائز - ختم یا فاتحہ مرد جسہ کے جواز میں دلائل  
 ندلائے یا رسول اللہ کے جواز میں دلائل - اربعین نبویہ  
 آنحضرت کی بندیوں نظرت - فتبیور مشائخ فیتبیول کا جواز  
 وہابیہ سے مناکحت - حضرت غوث عظیم کے ارشادات  
 وحدید الزمال کے اقوال - ابن قتیم کے اقوال

ناشر: فردیہ مکتبہ  
۳۸۵: آڈوبازار: لاہور

## (۵) حضرت بلاں کی بے مثال حاضری

عاشق رسول، موزن مقبول حضرت بلاں ہبھٹو نے ملک شام کی فتوحات کے بعد وہیں اقامت اختیار کر لی تھی، درود عاشق اور اس کے جانکا، صد مول نے اس پرکار عزم واستقلال اور کوہ حلم و قار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، انہوں نے درود کا درہ ماں اس چیز میں تلاش کیا کہ اس دیار پاک سے دور رہیں جس کے پیچے پیچے پر محظوظ کی یاد کے دائیٰ نقوش ثبت ہیں اور سامنے آ آ کر زخموں کو ہرا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عاشق کا یہ فیصلہ محظوظ کے دربار میں بے وقاری پر محظوظ کیا گیا۔

خواب میں حضرت بلاں ہبھٹو کو محظوظ کرم ملکہ ہبھٹو، حسن مجسم، پیر لطف و کرم ملکہ ہبھٹو کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا۔

ماہذہ الحفوہ یا بلاں! اما ان لکھ ان تزور نی  
اے بلاں ایہ کیا محبوبانہ جفا ہے؟ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کرو۔  
اس حسین خواب نے حضرت بلاں کا سکون و قرار لوٹ لیا، رات کی نیندیں اچھات  
ہو گئیں، درونماں میں شدت آگئی، اسی وقت رخت سفر باندھا اور دیار صبیب کی طرف  
روانہ ہو گئے۔

فَهِينَ وَصْلَ الْقَبْرِ، صَارَ يَبْكِي عَنْدَهُ وَيَمْرَغُ وَجْهَهُ  
علیہ (۳۵)

جب روضہ الطہر پر پہنچے تو بے محابا رونے لگے اور اپنا چہرہ مبارک تربت  
شریف پر مانا شروع کر دیا۔  
جب عالی مرتبہ شزادگان حضرت امام حسین ہبھٹو اور امام حسن ہبھٹو کو پڑھے چلا  
کہ بلاں آئے ہیں تو بھاگے آئے اور اپنی نورانی یا نیس ان کے گلے میں حاکل کر دیں۔  
حضرت بلاں ہبھٹو بھی ان کے ساتھ چست گئے اور عقیدت و احترام کے ساتھ بوسے  
دیئے۔

یا رسول اللہ! خدا نے برتر نے آپ پر قرآن پاک اتارا جس میں یہ ہدایت ہے۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاء وکث فاستغفروا  
الله واستغفرلهم الرسول لوحدهم توابا

(۳۶)

اگر لوگ اپنے نقوٹ پر ظلم کر لیں تو آپ کے دربار میں حاضری دے کر استغفار کریں اور رسول کریم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کو توبہ و رحیم پائیں گے۔

یا رسول اللہ! میں گناہوں کا پتارہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ بھی میرے لئے دعا فرمائیں۔ پھر اس نے بڑے درد سے یہ اشعار پڑھے۔

يَا حَبِيرَ مِنْ دُفْنَتْ بِالْقَاعِ اعْظَمْهُ

فَطَابَ مِنْ طَيْبِهِنَ الْقَاعُ وَالْأَكْمَ

نَفْسِي الْفَدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنُهُ

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْحَودُ وَالْكَرْمُ

اے سب سے بہتر اور سر اپا خیر و برکت رسول پاک! جو اس جگہ مدفن ہیں

اور ان کی خوشبو سے گرد و پیش کی ساری زمین، نیلے اور میدان مکان اٹھے ہیں۔

اس قبر منور پر میری جان قربان اجہاں آپ سکونت پذیر ہیں۔ بے شک

اسی میں طمارت و عفت اور کرم و سخاوت کی ساری شانیں موجود ہیں۔

وہ درد و سوز میں ڈوبے ہوئے ہوئے میں، اپنی عقیدت و نیاز مندی کا انعام اور آخر میں دعا کر کے چلا گیا۔ اس وقت ایک صاحب عتبی وہاں موجود تھے، خواب میں آقا علیہ السلام نے انسین حکم دیا، اس اعرابی کو جا کر خوشخبری سنادو کہ رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔

اس اعرابی کے دل پر درد سے نکلے ہوئے ان اشعار کو اتنی مقبولیت نصیب ہوئی کہ

اور اسی میں تقویٰ و دین کا آفتاب ہے، جس کے نور سے تاریکیاں، اجالوں میں  
زحل گئی ہیں، آپ کی ذاتِ اقدس اس سے بلند ہے کہ ملی اور بوسیدہ ہو، حالانکہ  
مشرق و مغرب کی قومیں ان کے انوار سے ہدایت یا ب ہو چکی ہیں اور آپ اس سے بھی  
پاک ہیں کہ مٹی کے ہاتھ آپ کو چھو کیں جبکہ آسمانوں کے درمیان آپ تی کی ذات بالا  
قامتِ عالیٰ مرتب ہے۔ (۳۷)

(۷) عن جعفر الصادق انه كان بنفسه يزور النبي  
الصلوة ويقف عند الاسطوانه التي تلى الروضه ثم  
يسلم (۳۸)

امام جعفر صادق ہر ہفت بذاتِ خود روضہ الطہر کی زیارت کے لئے تشریف لایا  
کرتے تھے۔ روضہ اقدس کے پاس ہی جو ستون ہے، اس کے پاس کھڑے  
ہو کر سلام عرض کیا کرتے تھے۔

(۸) روشن غمیر الہ دین اور پاک بازاں عشق کا یہ دستور بھی تھا کہ روضہ الطہر پر  
حاضری دینے والوں سے کما کرتے تھے، ہماری طرف سے بھی سلام عرضی کرنا۔

سلطان انبیاء سے میرا سلام کنا  
امت کے پیشوں سے میرا سلام کنا  
یزید بن ابو سعید حضرت عمر بن عبد العزیز ہر ہفت سے ملاقات کے لئے آئے، واپسی  
پر آپ نے ان سے فرمایا، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔

”جب روضہ اقدس پر حاضری دو تو میری طرف سے بارگاہ رسالت میں دست بستہ سلام  
عرض کرنا“ کسی کی طرف سے صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

الصلوة وسلام عليکث يا رسول الله من فلان بن  
فلان

یا رسول اللہ افالا شخص جو فلان کا بیٹا ہے آپ کی بارگاہ عالیٰ میں صلوٰۃ  
و سلام کا نذر رانہ پیش کرتا ہے۔

## حُنْفِي مَلَك

علامہ کمال بن حام خنی ۱۸۷۱ھ نے فتح القدر میں احکام زیارت کے لئے باقاعدہ ایک باب مختص کیا ہے، جس کا عنوان ہے۔

الْمَقْصُودُ ثالِثٌ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ

تیرا مقصود روضہ الہری زیارت کے بیان میں ہے۔

قَالَ مَا شَاءَنَا رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَفْضَلِ  
الْمَنْدُوبَاتِ، وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنَ  
الْوُجُوبِ

مارے مشائخ نے فرمایا: زیارت پاک افضل ترین مستحب ہے۔ اور شرح  
فقار میں ہے، دولت مندوں کے لئے تقریباً وجوب کا درج رکھتی ہے۔

والاولیٰ فيما يقع عند العبد الضعيف تحرد  
النبي لزيارة قبر النبي ﷺ ثم اذا حصلت له اذا

قَدْمُ نُوْى زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ

اس عاجز بندے کے نزدیک صرف زیارت کی نیت سے حاضری و نیازیادہ  
مناسب ہے چنانچہ جب حاضری کی نیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جائے تو  
مسجد کی زیارت کی بھی نیت کرے۔

آگے لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان عظمت و جلال کو ٹھوڑا رکھتے ہوئے یہ  
بڑی مناسب صورت ہے اور پھر اس طریقہ سے حضور کے ارشاد پر بھی عمل ہو جاتا  
ہے۔ ہو صرف میری زیارت کے لئے آئے، کوئی اور کام نہ ہو، اس کے لئے شفاعت کا  
 وعدہ ہے۔

عَلَامَةُ تَاجُ الدِّينِ سَعْدِيٌّ فَرِمَاتَ ہے۔

## حنبلی ملک

علامہ موفق الدین بن قدامہ مقدسی نے بھی احتجاج کی طرح اپنی عظیم کتاب المغزی میں زیارت کے لئے ایک الگ نصل قائم کی ہے، جو حنبلی فقہ کی معتبر اور شریف ترین کتاب ہے۔ نصل: يستحب زيارة قبر النبی ﷺ اسی طرح احمد بن قاسم نے متوجہ میں الگ باب باندھا ہے۔ باب زيارة قبر الرسول ﷺ  
واذا قدم مدینہ الرسول عليه السلام استحب له ان يغتسل لدخولها ثم ياتی مسجد الرسول عليه الصلوة والسلام ويقدم رجله اليمنى فی الدخول ثم ياتی حائط القبر فيقف ناحیه و يجعل القبر تلقاء وجهه (۳۰)

یہ باب زیارت روضہ پاک کے بیان میں ہے۔ جب مدینہ طیبہ آجائے تو زائر کے لئے زیارت کی خاطر غسل کرنا مستحب ہے، مسجد میں آئے تو پسلے دایاں پاؤں داخل کرے، پھر روضہ القدس کی چار دیواری کے پاس اکر ایک طرف کھڑا ہو اور اپنا منہ ادھر ہی رکھے۔

قال ابوالقاسم رایت اهل المدینہ اذا خرجوا منها او دخلوا اتوا القبر فسلموا وذاك رائی (۳۱)

ابن قاسم کا بیان ہے: میں نے اہل مدینہ کو دیکھا ہے، جب وہ کسیں جائیں، یا کسیں سے آئیں تو پسلے روضہ الہر پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے ہیں، میری بھی یہی رائے ہے۔  
حضرت محبوب سجادی، غوث صدائی، سماز لامکانی، عارف ربائی، غوث اعظم می

## شافعی مسلم

خنی اور حبیل مسلم کی طرح، المنشت و جماعت کے شافعی مسلم کی نمائندہ کتب  
میں بھی زیارت کے احکام و آداب ہنانے کے لئے الگ باب مرتب کئے گئے ہیں۔

الباب السادس فی زیارة قبر سیدنا و مولانا رسول

الله ﷺ وما یتعلق بذالک

چھٹا باب روضہ اطہر کی زیارت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔

اس کے بعد آپ نے بھی وہ تمام آداب اور طریقے درج فرمائے ہیں، جن کا ذکر  
پسلے ہو چکا ہے کہ زائر حج و عمرہ سے فارغ ہو کر، بڑے شوق و اشماک کے ساتھ زیارت  
روضہ پاک کے لئے روانہ ہو، جب مدینہ منورہ کے نشانات نظر آنے لگیں تو دل و دماغ  
کو پوری طرح حاضر کرے، بڑی محبت و رقت اور سوز و گداز کے ساتھ درود پاک کا اور د  
شروع کر دے اور احادیث میں مدینہ منورہ کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ تصور و نگاہ  
میں رکھے تاکہ طبیعت ادھری گلی رہے اور دل کا تار ٹوٹنے نہ پائے، پھر غسل کر کے  
پاکیزہ لباس پہنے اور اپنی ناقصہ حیثیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ دربار  
رسالت میں حاضری دے۔

ولیکن من اول قدومہ الی ان بر جع متشعا را

لتعظیمه ممتلئی القلب من هیبته کانه بر اه

اور آمد کے لئے سے لے کرو اپنی تک، آپ کی تنظیم کو بیش طوڑا اور آپ

کی بیت دل کو معور رکھے گویا آپ کا دیدار کر رہا ہے،

فاما خرج من مکہ فلتکن نیتہ و عزیمتہ فی زیارة  
النبی ﷺ و زیارة مسجدہ والصلوٰۃ فبہ و ما  
یتعلق بذالک کلہ لا یشروع کیا معاً غیرہ من  
الرجوع الی مقصودہ او قضاۓ شیئی من حواجائے  
وما اشیے ذالک لانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام متبع  
لاتابع فھو راس الامر المطلوب والمقصود  
الاعظم

جب حاجی مکہ سے لئے تو اس کے عزم و ارادہ میں زیارت روضہ اطہر،  
زیارت مسجد اور اس میں نماز پڑھنے کے سوا کسی اور مقصد کی آلاش نہیں  
ہوئی جاہے وہ تمام ضروریات و حاجات اور تمام کاموں کا خیال دل سے  
جھنک دے کیونکہ حضور ﷺ متین و مقصود اعظم، روح تمنا اور جان  
آرزو ہیں، کسی کے تابع نہیں اس لئے اولین اور بالذات آپ ہی کی  
زیارت کا قصد ہونا جاہے۔

یہ تمام فتاویٰ و بیانات، نظریات اور عقائد ائمہ کے مذاہب سے پرداہ انحانے کے  
لئے کافی ہیں، سب نے زیارت پر زور دیا ہے، اور کسی کے کلام میں اس بدعتی عقیدے  
کا شاید تک نہیں کہ زیارت کے لئے جانا ناجائز ہے، اس لئے یہ عقیدہ و خیال بدعت  
یہ ہے ”گناہ“ بد بختنی کی علامت اور نفاق کا سمبل ہے، مومنانہ ذہن اور اس کی حسین و پر نور  
روایات اور مسلمانی سے اس کا کوئی علاقہ نہیں، بلکہ کسی فاسد جذبے، ذہنی کبروی،  
اور شخی اندریش کی پیداوار ہے۔

امام البنت علامہ یوسف بنیانی ”ارشاد فرماتے ہیں۔ جب البنت و جماعت کے  
چاروں مسلک اس مرکزی نقطہ پر نتفق ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت مسنون و باعث  
ڈاہب اور قریب قریب واجب ہے تو ایک چاہ صاحب نسبت“ فرماتہ رہار اور ایمان دار  
امتی اس کے بارے میں کوئی غلط اور مکروہ رائے قائم کرنے کی نہ موم جرات کس طرح

## چند شبہات کا ازالہ

یہاں چند شبہات کا ازالہ بست ضروری ہے، جو ایک کتب فکر کی طرف سے اس دعویٰ کے ساتھ پیدا کئے جاتے ہیں کہ زیارت روضہ اقدس اور اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کے مزارات کی طرف سفر منوع و ناجائز ہے بلکہ اسے حرام و شرک اور کفر تک قرار دینے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے ایک ہی عمل کے بارے میں دو متفاہ آراء تجھیں صورت حال کو جنم دیتی ہیں۔ ایک طرف اہل سنت و جماعت کتب فکر کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گنبد خضراء شریف کی زیارت اور حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ موجب خیر و برکت ہے اور اس سے دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

بیکد دوسری طرف اہل نجد اور ان کے پیروکار و مکتب فکر کا خیال ہے کہ روپہ اطہر کی زیارت کی نیت کر کے جانا ناجائز و حرام، شرک اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا ہے؟

یہ دو متفاہ آراء پڑھ کر ایک غیر جانبدار اور سادہ لوح انسان کے ذہن کا الجھن جانا ایک یقینی امر ہے بلکہ یہ بات اتنی تجھیں ہے کہ بعض اوقات حاس قسم کے افراد اتنا کر دیں تھیں سے دور ہو جاتے ہیں۔

اس لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ بحث کو سینئے سے پہلے اس پہلو پر بھی روشنی ڈال دی جائے تاکہ جہاں ایک طرف اہل سنت و جماعت کے افراد کو بصیرت اور روشنی حاصل ہو تو وہاں دوسری طرف فریق ٹانی کو بھی انہوں نہ کرنے اپنی فتویٰ بازی پر نظر ٹانی کرنے کا موقع مل جائے اور وہ نہیں دل سے مسئلہ کی نزاکت و اہمیت پر غور کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

سفر زیارت پر مطرض ہونے والوں کی طرف سے عام طور پر تین احادیث چیز کی باتی ہیں جو ان کے تمام اعتراضات کا جہنی اور شبہات کا منبع و مرجع ہیں پوچنکہ حدیث کا

کی 'جودہ عت' ہے۔

(ج) وجہ منع از سفر زیارت خواہ قبور انبیاء باشد با غیر ایشان، آئست کر دلیل بر جواز آن از کتاب و سنت یا اجماع یا قیاس قائم نیست (۳۶۱) انبیاء یا اولیاء کرام کے مزارات کی طرف سفر زیارت کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت یا اجماع اور قیاس سے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔

(د) مکان تیرک کی طرف سفر کرنا درست نہیں بر ابر ہے کہ کسی نبی کی قبر ہو یا ولی کی، لیکن اگر تقرب الی اللہ مقصود نہیں، بلکہ کوئی اور حاجت ہو، مانند تجارت اور سیکھنے علم وغیرہ کے، تو اس کے لئے ہر جگہ اور ہر مکان کی طرف سفر کرنا درست ہے۔ بالاجماع (۳۷۲)

(ه) طلب علم اور دیگر ضروریات کے لئے سفر میں کوئی حرج نہیں، صرف کسی جگہ کی طرف جس میں قبر نبوی بھی داخل ہے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ (۳۸)

یہ ہیں وہ بیان کردہ معانی جن کے تصور ہی سے ایمان و یقین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یہ عجب توحید، شرک بیزاری یا ایمان اور رسول کے ساتھ محبت ہے کہ دنیا بھر کے کاموں کے لئے دنیا کے ہر خطے کی طرف جانا جائز ہے، لیکن گند خضر اور خدا والوں کے مزارات ہی وہ مقلات ہیں جن کی طرف جانا حرام و ناجائز ہے، حالانکہ وہ مزارات حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سرزمیان فردوس کا ایک مکلا ہوتے ہیں۔ "روضہ من دنیاں الجنۃ" عقل انسانی جیران اور ایمان و یقین انگشت بدنداں ہیں کہ اس رسول دشمنی، کھلی ہوئی منافقت، ابو لهبیت کے ساتھ ہم آہنگی اور ذوالخواصہ کی ہم مشربی کو کیا نام دیں ہے علم و تحقیق کے ہام پر حفاظت توحید کے ریشمی پر دے میں پیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔

اب ان اخذ کردہ مقایم و معانی کو اصل احادیث کی روشنی میں جانچا جاتا ہے، تاک

روشنی پڑتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کو کھیل کوڈ، طرف و غنا اور دعوت عام کے "منی میں لایا جاتا تھا، ثبوت کے لئے ان احادیث کا سمجھ لینا کافی ہے۔

(۱) ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر بہرہ کاشانہ نبوی میں حاضر ہوئے اتفاقاً دو نسخی منجمی بچیاں جنگ بغاٹ کے رجزیہ اشعار گا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل بہلا رہی تھیں، اپنے دیہاتی ماخول اور سادہ سے رواج کے مطابق ڈھون کے قبیل کی ایک چیز دف پر بھی ہاتھ مارتی جاتی تھیں، حضرت صدیق اکبر بہرہ نے طرب و غنا کا یہ منتظر دیکھا تو جلال میں آگئے، اور اپنی صاحبزادی کو ناراض ہوئے کہ تم نے کاشانہ نبوی میں حضور کے سامنے یہ کیا میلہ لگا رکھا ہے اور طرب و غنا کی یہ کیسی مجلس برپا کر رکھی ہے؟ آقاعدیہ السلام نے رخ انور حضرت صدیق کی طرف کیا اور فرمایا: اے صدیق!

ان لگل قوم عید و ان عیدنا هذالیوم (۳۹)

ہر قوم کے لئے ایک عید ہوتی ہے لور آج ہماری عید کا دن ہے۔

گویا آپ نے عید کے دن کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جائز حدود کے اندر رہ کر اطمینان سرت اور سادہ سے انداز کے طرب و غنا کو جائز قرار دیا جس میں کوئی شرعی قبادت نہیں تھی جس سے معلوم ہوا عید طرب و غنا کا دن ہے اور آپ نے اپنے روپہ اطہر کے نزدیک اسی قسم کی عید یعنی طرب و غنا سے روکا ہے کہ وہاں گانے کا شغل اختیار نہ کیا جائے کیونکہ یہ زیر آسمان نازک ترین ادب گاہ ہے جماں اونچی آواز نکالنا بھی منوع ہے۔

(۲) عید کے روزی صبیح لوگ مسجد میں جنگی مشتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کی اچھیل کوڈ، پینٹرا بد لئے اور وار روکنے اور حملہ کرنے کے کرتب اور فنون حرب کی نمائش کو بھی ولپٹپنی سے دیکھ رہے تھے۔

بِينَما الْحِشَّهُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(۵۰)

یہ اس وقت کی بات ہے جب صبیح لوگ آقاعدیہ السلام کے سامنے کھیل

دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعہ نبی پاک علیہ السلام نے آداب زیارت سکھائے ہیں کہ ڈھول بجاتے، ناپنے گاتے، بھگڑا ڈالتے اور لغویات کا ارتکاب کرتے مت آؤ جو قوموں میں عید کے دن رواں بھی جاتی ہیں بلکہ اس طرح آؤ، جیسے ایک باوقار سنجیدہ، بربار اور معزز انسان آتا ہے اور اخلاقی و شرعی آداب و ضوابط ملاحظہ رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت بعض لوگوں کو غلط انداز اختیار کرنے پر روک دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن حنبل علی المرتضی رضی اللہ عنہم نے روضہ المطر پر ایک شخص کو اسی حالت میں دیکھا آپ سخت برافروختہ ہوئے ڈانتا اور فرمایا: کیا میں تمہیں حضور ﷺ کی حدیث نہ سناؤں، آپ نے فرمایا ہے:

لاتجعلوا قبری عیدا ولا تتحذوا بیوتکم قبورا  
وصلوا على حنیث ما كنتم فان صلاتکم تبلغنى

(۵۲)

میری قبر کو عید سنت بناو، اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرس بناو اور جہاں کمیں بھی تم ہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچا

—

حضرت حسن بیہقی نے اس کی نامناسب غیر شرعی اور میلہ جیسی حالت بنانے پر گرفت کی اور تنہیہ فرمائی کہ اس انداز سے یہاں آنامناسب نہیں یہاں آؤ تو ادب و احتیاط کے ساتھ آؤ، اگر آداب ملاحظہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھو اور بارگاہ نبوی میں درود وسلام پیش کرنے کا جو فریضہ ہے وہیں ادا کرو کیونکہ حضور کی ذات گرامی وہ ہے جن تک درود وسلام کا نذر ان پہنچ جاتا ہے پڑھنے والا خواہ کہیں بھی ہو۔

حضرت حسن کا یہ قطعی نظریہ نہیں تھا کہ زیارت کے لئے آنامنوع ہے کیونکہ زیارت کرنا تو سب کا معمول تھا، سب اہل بیت خود بھی حاضری دیتے تھے، اور زیارت

## دوسری حدیث کا جواب

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَاءً يَعْبُد  
أَنَّ اللَّهَ أَبْسَطَ طَرْحَكَى بَتْ كَى عِبَادَتَ كَى جَاتَى بَتْ، مَيْرِيْ قَبْرَكَوْ اِيَانَه  
بَنَانَـ۔

امت کو زیارت روضہ القدس سے روکنے کے لئے اس حدیث کو بطور جست  
و استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ زیارت کے لئے اہتمام میں عبادت کا شانہ ہے اس لئے  
عمل زیارت منوع و حرام ہے۔ نعوذ بالله

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث سے جو مفہوم و مطلب اخذ کیا گیا ہے وہ اس سے  
حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا یہ مطلب نہیں تو اصل مفہوم و معاکیسا ہے؟  
راصل یہ حدیث باطل پرستی، شرک نوازی، جاہلیۃ طرز فکر اور معرفت  
خداوندی سے بے بہرہ فلسفہ و نظریہ کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمائی گئی ہے، اس لئے جب  
تک اس کے پورے پس منظر سے آگاہی حاصل نہ ہو، اس وقت تک یہ پتہ نہیں چل  
سکتا کہ آقای علیہ السلام نے اس انداز میں ارشاد کیوں فرمایا ہے۔ اس لئے بات کی تہ  
تند پیچنے کے لئے پسلے حقائق و واقعات اور ان کا پس منظر تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔  
یہود اپنی عادات و خصائص، افتاد طبع اور گرگ کی طرح رنگ بدلتے مزاج

و کردار کے اعتبار سے اس موقع تک جو لاں کی مانند تھے ہے کہیں بھی اور کسی پل قرار  
نہیں آتا، جو اپنے تند و تیز بہاؤ میں ہر چیز اور ہر قسم کے خس و خاشک کو لئے محصور رہتی  
ہے یہ لوگ آن واحد میں ہر قید و بند سے آزاد، مفرور دیو اور سرکش طاغوت کی  
صورت اختیار کر لیتے جس کے قرآن غصب کی زد میں آئے والی کوئی چیز سلامت نہیں  
رہتی اور پھر دوسرے ہی لمحے باد نیم کے ذنک اور جان بخش جھوکوں کا روپ دھار لیتے  
جو نہیں وروج کو تازگی بخشنے اور قلب و جگہ کو حیات نو عطا کرتے ہیں۔  
ان کے پہلے روپ کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔

نقار خانے میں طویلی کی آواز دب کر رہ گئی جب ان کے بار شاہ قطب نصیر نے اقتدار سنبھالا تو اسے اپنی سیاسی بقا اور اقتدار کی سلامتی اسی میں نظر آئی کہ وہ اس کافرانہ عقیدے کو پہنچائے اور ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کرے جو دل وجہ سے اس کے قائل اور جذباتی حد تک اس سے لگاؤ رکھنے والے ہیں۔

چنانچہ اس نے توحید کی نزاکتوں سے نا آشنا ہونے کے باعث سن ۳۲۳ ہیسوی میں ایک مجلس شوریٰ منعقد کی اور اسے حکم دیا کہ وہ عیمانوں کے لئے مذہبی عقائد وضع کرے۔ چنانچہ یہ مجلس عقائد ساز منعقد ہوئی جس نے الہامی اور اسلامی عقائد، ضروریات دین اور توحید و رسالت کے تقاضوں کو پس پشت پھینک کر اپنے کافرانہ زہن سے مذہب کے نام پر غلط، بے بنیاد غیر اسلامی، بالکل سمل اور نتائج کے لحاظ سے غُفرانیک عقائد اختراع کئے جن میں مسئلہ اہمیت بھی شامل تھا۔ یعنی کہ میں علیہ السلام کو خدا نا بینا مان لیا جائے، چنانچہ اسے سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا گیا، جب اس عقیدے کو سرکاری تائید اور ریاستی مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی تو لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور اسے دینی عقائد کا حصہ بنا لیا۔

اس کرامی کی دلدل میں پھنس جانے کے بعد دینی احکام بازیچہ اخفال بن گئے، وفات فوتا جائیں منعقد ہوتیں جن میں مرضی کے مطابق عقائد گھٹلتے جاتے اور پھر انہیں مذہب کا اقدس عطا کر دیا جاتا، یہ تماشا کرنی سو سال تک جاری رہا، اس مسئلہ کی مشورہ تین اور اتم جائیں سن ۳۵۱ اور سن ۶۸۰ ہیسوی میں منعقد ہوئیں، جن کا سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ ابن ہونے کے حوالے سے صرف حضرت میں علیہ السلام تی اوہیت میں شریک نہیں بلکہ اس الوہیت میں، حضرت مریم اور روح الامین بھی شریک ہیں اس اختراع اور قانون سازی کے بعد ان کا تسبیح کچھ اس قسم کی صورت اختیار کر لیا۔

باسم الاب والابن والروح القدس (۵۶)

اس خالص شرک نے انہیں ایسی قاتوں سے بھی دوچار کر دیا جو اس ظلالت

حضور ملک علیہ السلام نے سن ۸ جولائی میں مکہ کرمہ پر غلبہ و تسلط حاصل ہو جانے کے بعد حرم کعبہ میں سجائے گئے یہ تمام بہت گرا دیے اور خانہ کعبہ کو ان اعتقادی آلاتوں سے پاک کر کے وہاں اپنے معبود حقیقی کے حضور مجده ریز ہوئے اس یادگار تاریخی موقعہ پر آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی۔

فَلِحَاءُ الْحَقِّ وَزَهْقُ الْبَاطِلِ أَنَّ الْبَاطِلَ نَكَانٌ زَهْوًا

(۶۰)

فرمادوا حق آگیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو منایا تھا۔

ان کی بد عقیدگی اور ذوق بست پرستی کا فقط عروج یہی نہیں تھا کہ انہوں نے خاص خانہ خدا کو اپنے باطل جذبے کی تسلیکن کے لئے منتخب کر لیا تھا، اور توحید کے مرکز میں وہ اپنے فن اور اسکی باریکیوں کا مظاہرہ کرتے تھے بلکہ وہ اس سلطے میں بہت آگے جا پچے تھے۔

حضرت ابو رجاء عطاء روی ہدیث فرماتے ہیں۔

كَنَا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ  
الْقَيْنَاهُ وَاحْذَنَاهُ الْأَخْرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا  
جُشْوَةً مِنْ تَرَابِ ثَمَّ حَئَنَا بِالشَّاهَةِ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ ثَمَّ  
طَفَنَابَه (۶۱)

ہم ایک پھر کی پرستش کرتے رہتے پھر اگر اس سے زیادہ خوبصورت پھر ل جاتا تو اسے پھینک کر دوسرے کی پوچھا پاٹ میں لگ جاتے اگر پھر نہ ملتا تو مٹی کا ذہیر لگا کر اس پر بکری کا دودھ دو دیتے اور اس کا طواف کرنے لگ جاتے۔

بنات کو بھی اس نظر کرم سے محروم نہیں رکھا تھا، ہر سے شوق سے ان کی عبادت کرتے تھے، بب نصیبین کے جنات اسلام لے آئے، اور ان کی تحریک سے باقی بنات کی بناعت میں بھی اسلام قبول کرنے کی خواہش یہاں ہو گئی تو یہ لوگ پھر بھی پرانے

(ب) تعظیم کی خاطر عبادت کے ارادہ سے انہیں سجدہ کرتے تھے۔

(ج) کلیساوں اور گرجوں میں تماثل و تصاویر بنا کر انہیں پوختے تھے۔

حضرت ام سلمہ اور ام جیبہ نے ملک جبشہ میں ایک ایسا گھر جا دیکھا، جس کا نام ماریہ تھا، اس میں انہوں نے تصاویر آور زیارت کی ہوئی تھیں، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے اس کا عال مٹا تو فرمایا۔

اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على  
قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصوراً لئك  
شرار الخلق عند الله (۶۳)

ان لوگوں کی عادت تھی، کوئی مرد صالح فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر بھی مسجد بناؤ لئتے تھے، پھر اس میں تصاویر لٹکاتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔

ای پر بس نہیں، انہیں غوروں کے حضور سجدے لانا کی ایسی الت پڑگئی تھی کہ اظہار خوشنودی یا کورنلش بجالانے کے لئے بے کلف سجدے میں گرپڑتے تھے۔  
هر قل کامشور واقع ہے۔ جب اس کے دربار میں نبی مکرم ﷺ کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے میں السطور ہدایت کا نور دیکھ لیا اور اپنے درباریوں کو دعوت دی کہ اس نور سے میئے روشن کر لیں مگر وہ اڑیل ٹوٹکی طرح رہی تذاکر بھاگے ہر قل سمجھ گیا ایمان لا کر اقتدار اور جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اس لئے گویا ہوا۔  
میں دین میں تمساری پختگی اور اپنے فہب کے ساتھ محبت و وابستگی دیکھنا چاہتا تھا سو میں نے وہ دیکھ لی ثابت ہو گیا تم اپنے دین کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی رکھتے ہو اور اس پر شدت سے قائم ہو تمساری اس کیفیت سے طبیعت خوش ہوئی۔

فسجد واله و رضوان عنہ (۶۵)

یہ سن کر وہ سجدے میں گرپڑے اس سے خوش ہو گئے۔

یہود و نصاریٰ کی شرکیہ حرکات اور مشرکانہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عبد الحق

چونکہ یہود و نصاریٰ تظییم کے لئے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے تھے، نماز میں ادھر مند کر کے انسین قبر بناتے تھے اور انسین بت کی طرح بنا لیا تھا اس لئے ان پر لعنت فرمائی۔

یہود و نصاریٰ کے شرک کی وجہ یہ تھی کہ وہ سجدہ ہی نہیں بلکہ سجدے کے ساتھ عبادت کی نیت بھی کرتے تھے اور منہ بھی قبری کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیونکہ اگر عبادت کی نیت کے بغیر سجدہ کرتے تو انسین مشرک قرار نہ دیا جاتا، اس لئے کہ سابقہ شرائع میں سجدہ تعیینی جائز تھا، اسی لئے جانب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا اگر یہ شرک ہوتا تو تعیی طور پر ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی اجازت نہ ملتی کیونکہ شرک کی کسی شریعت میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ یہود و نصاریٰ قبور انبیاء کی عبادت کرتے، ان کی طرف مند کر کے نماز پڑھتے اور سجدہ بناتے تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

لعن الله اليهود والنصارى اتحذوا قبور انبیاء هم

مسجد (۶۹)

خدا تعالیٰ، ان یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجیے، جنہوں نے قبور انبیاء کرام کو مساجد میں بناؤالا۔

حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جبکہ حبیب اعلیٰ سے ملنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، ایسے نازک وقت میں یہ فرمان صدقی رکھتا اور بڑی اہمیت اختیار کر لیتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، یہود و نصاریٰ کی اس روشن سے آپ بست ناخوش تھے اور اس طرز عمل کو شرک تصور فرماتے تھے اس لئے آخری وقت میں ان کی گہنی کی حقیقت سے پرده انھا کرامت کو خبردار کر دیا کہ وہ اس روشن کے قریب بھی نہ جائے چونکہ یہاں خطرناک صورت ہر قباحت کی جزا تھی اس لئے یہود و نصاریٰ کی بد بختی، گمراہی اور شرک کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے، بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی۔

اللهم لا تحعل قبرى و ثنا يعبد

گنبد نظر اکی زیارت سے روکنے کے ساتھ کسی خور نہیں ہے۔

### تیسری حدیث کا جواب

لاتشد الرحال الا الی ثلاثہ مساجد المسجد

الحرام ومسجد الرسول والمسجد القصی

بجاوے نہ کے جائیں مگر ان تین مساجد کی طرف 'مسجد حرام' 'مسجد نبوی' اور 'مسجد اقصی'

روغہ اقدس کے سفر مبارک سے روکنے اور اسے حرام قرار دینے والے نادان دوستوں کو اصرار ہے کہ اس حدیث کی رو سے مزارات اولیاء، 'قبرستان' بزرگان دین و طریقت، یا تک کہ حضور اقدس ﷺ کے بزرگنبد کی زیارت بھی منوع و حرام ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ شوق دید کے متواalon کو سفر زیارت سے روکتے اور زائرین کو بدعت اور حرام کا مرکب کہتے ہیں۔

اب سکون والطینان سے دیکھنا ہے کہ اس حدیث سے ان کامدعا حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ معانی اس حدیث سے اخذ کرتے ہیں، درست ہیں یا یوئی مسلمانوں کو غلط مشورہ دیا جاتا ہے۔

جہاں تک حقائق و واقعات اور دیگر احادیث کا تعلق ہے، ان سے اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم و مدعا سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور آخر کار یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث میں تین مساجد کی عظمت و فضیلت کا بڑے حسین و دلنشیں اور خوبصورت دسویز پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے اور بس، کسی اور جگہ یا متبرک مقام کی طرف سفر کرنے کی ممانعت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

کسی تفصیل میں جانے کی بجائے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعہ اس حقیقت کو بڑی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، آپ کا ارشاد ہے۔

لاتركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في

جامع مسجد میں پانسو گنالماہی ہے، مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار، میری اس مسجد نبوی میں پچاس ہزار اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی خوبی کے پیش نظر آپ نے فرمایا: حق تو یہ ہے کہ ان ہی مساجد کا سفر کیا جائے کیونکہ سفر کی صعوبتیں اور مشقتوں سے کا اچھا اجر مل جاتا ہے، اس سے یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ کسی اور طرف سفر کرنا ہی ناجائز ہے۔ جیسے سند روایی حدیث سے یہ نہیں تھا کہ کسی اور کام کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے۔

ہماری اپنی زندگی میں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک بار اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ ملک میں بے شمار مذہبی ادارے ہیں مگر وہ اپنے بیٹے سے کہا ہے "اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف ان تین مدارس میں جا کر حاصل کرو۔

(۱) جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد

(۲) دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

(۳) جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور

اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے، 'نظم و نتیجہ'، 'علمی معیار'، 'اعلیٰ نصاب تعلیم' اور محنت و جان فٹانی کے اعتبار سے باقی اداروں پر فویت رکھتے ہیں، اس لئے جان عزیز کو جو سکھم میں ڈالنے، پر دلیں کی تلمیخیاں سنبھالنے اور صعوبتیں جھیلنے کا بہترین شریو یہ ہے کہ زندگی کے اوقات ان اداروں میں گزارے جائیں جہاں سے زندگی کو مقصد، فکر کو شعور اور حیات کو تابندگی نصیب ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیٹے کے لئے زندگی کے دوسرے ہنگاموں اور باقی کاموں میں حصہ لیتا جائز نہ رہا۔ خرید و فروخت، کسی کی عیادت، سیرو سیاحت اور کار و بار میں مصروف ہونا منوع ہو گیا، کیونکہ ان چیزوں کا یہاں ذکر نہیں، پھر ان کے منوع و حرام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کا بھی یہی مطلب ہے جس میں کوئی پیچ و خم نہیں کہ اس میں صرف تم مساجد کی فضیلت کا بیان ہے، اس میں مزارات اور متبرک مقامات کا کوئی ذکر نہیں، اگر یہی "عنی لینے پر اصرار کیا جائے تو دو ایسی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی حل ہی

مسجد کی طرف جانے سے روکا اور کچھ احادیث میں جانے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ ثواب بھی بیان کیا۔

اس طرح اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ کسی مزار یا قبرستان کی طرف جانا منوع ہے تو بھی زیر دست البھن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ خود حضور علیہ السلام ہر سال شدائے احمد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔

امام غزالیؒ نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ اس حدیث پاک میں تین مساجد کی فضیلت کا بیان ہے قبور انبیاء و اولیاء پر جانے کی ممانعت کا کوئی ذکر نہیں صرف تین مساجد کا ذکر ان کی فضیلت بیان کرنے کے لئے ہے کہ اہتمام کے ساتھ ان کا سفر کرو کیونکہ باقی مساجد ان جیسی فضیلت کی حامل نہیں ہیں۔ ان دو سری مساجد میں عبادت کا انتہائی ثواب ملتا ہے جتنی عبادت کی جائے گردنیا بھر کی مساجد کے بر عکس ان تین مساجد کی زر الیشان ہے یہاں عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ہزار بار انکا بڑھ جاتی ہے، اس چیز کو آپ نے اس اسلوب میں بیان فرمایا:

لاتشد الرحال الى ثلاثة مساجد

امام غزالیؒ لکھتے ہیں۔ اس ارشاد میں مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ یا بتبرک مقام کی طرف سفر کی ممانعت کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ ان مساجد کے علاوہ جس طرح دیگر مقالات کی طرف سفر کرنا جائز ہے، اسی طرح قبور انبیاء و اولیاء کی طرف سفر کرنا بھی جائز ہے۔

و يدخل في جملته زيارة قبور الانبياء و قبور  
الصحابه والتابعين وسائر العلماء والأولياء  
و كل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك  
بزيارته بعد موته ويحوز شد الرحال لهذا الغرض  
ولا يمنع من هذا قوله عليه السلام لاتشد الرحال  
 الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام

نوال باب

گنبد خضرا کے زائرین

بے قرار عشق کو ذوق و شوق کے نئے اور ولولہ انگیز رنگ ڈھنگ عطا کرتے رہیں گے محبت کی شدت و ندرت اور جذب دروں کی کار فرمائی اس جذبے کو کبھی فنا نہیں ہونے دے گی۔ آج تک کروڑوں انسانوں نے اس بارگاہ میں حاضری وی ہے، ان میں افکیم ولایت و امامت کے تبدیل بھی تھے اور لشکر و سپاہ کے ارباب کچھ کلاہ بھی! اصحاب علم و فتوح بھی تھے اور خداوندان و انش و آگئی بھی! فرخنہ بخت، فرشتہ سیرت، نیک محضر فقراء و صلحا اور زاہدو عابد بھی تھے، اور مظلوم و درمانہ، مغموم و ستم رسیدہ حاجت مند اور دل گرفتہ رو سیاہ گناہ گار بھی!

رحمت اللھائیں ملٹھیم کی شان جو دو سخا اور نگاہ کرم کی لطف و عطانے سب کو نوازا، کسی کو بھی محروم و بناشوونہ کیا، جو کسی نے چلا، اسکے دیگر ہاتھ اور طبع سخا پند نے اپنے سائل کو وہی بخشا، شان فخر و غنا بھی۔ لذت قرب و رضا بھی، شراب و صل بھی، اور دولت دیدار بھی! چند ایسے ہی فیض یافتہ خوش بخت زائرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آرزوؤں اور ولولوں کے ہجوم کے ساتھ گنبد خضرا پر حاضر ہوئے، اور وامن طلب میں گوہر مراد پا کر سرخرو ہوئے یا ان کے عشق نے خلوص و ارادت اور ادب و نیاز مندی کے ایسے زائل اور منفرد انداز اختیار کئے جنوں نے اہل عشق کے لیے "رسے خوش نظرے" کا سائل پیدا کر دا اور محبت کے میدان میں تحلید کے لئے ایک حسین مثال چھوڑ دی۔

یہ چند ولشین مثالیں حقیقت کشا بھی ہیں، روح پرور اور ایمان افزور بھی، جنہیں پڑھ کر، جمال محبوب کے مقام سے آگئی نصیب ہوتی ہے، وہاں ایمان و عشق کو جلاء بھی ملتی ہے۔

جب اس نیک نفس کی آنکھ کھلی تو مرت کی خوبی سے اس کا سارا دھو دھک رہا تھا خوشی سے جھوٹا ہوا امیر المؤمنین کے حضور پہنچا اور نبوی پیغام ان تک پہنچایا حضرت کی آنکھوں سے مرت کے آنسو روائی ہو گئے، پھر فرض شناسی کی آمادہ منزد اور ہر لمحہ ہوشیار و بیدار رہنے کا حکم پا کر عرض گزار ہوئے۔

میری تمام صلاحیتیں تو خدمت و اشاعت دین کے لئے ہی وقف ہیں، کسی کام میں دانستہ کوتیاں نہیں کرتا، آئندہ منزد احتیاط برتوں گا۔  
اس پیغام اور نبوی ہدایت نے آپ کو پسلے سے بھی زیادہ فعال و پر جوش بنادیا۔ اور ایک زائر کی درخواست کی بدولت بارش بھی ہو گئی۔

## ابو ابراہیمؑ و دار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو ابراہیم وار قلب و نظر کی بصیرتوں اور بالطی جمل کی تلبیتوں سے بہرہ در ان سعید فطرت بزرگوں میں سے تھے، جو پارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تو سنی جاتی ہے، اور روحانی اشارات و ہدایات کے ذریعہ ان کے لئے راہ عمل متعین کی جاتی ہے۔  
وادی شفتاہ کے یہ مقبول و برگزیدہ انسان عوام کی عقیدتوں کا مرکز اور ان کی محبت و نیاز مندی کی آجائگا تھا۔ ان کے وجود مسعود سے سرزد ہونے والی حرمت انگیز کلمات نے شہرت و ناموری اور مقبولیت کی ساری راہیں ان کیلئے کھول دی تھیں لوگ عقیدت سے آتے اور اللہ کے اس نیک و مقبول بدرے کی زیارت سے یادِ الہی عبالت اور فوک و شوق کا نیا جذبہ اور ولولہ لے کر واپس جاتے۔

دنیائے مغرب کے یہ فرد کامل حج و زیارت کے لئے ایک قافتہ کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہمین کی زیارت اور حج کے ارکان سے فارغ ہوئے، تو وطن کی طرف واپسی کا مسئلہ پیش آیا۔ چونکہ حتی دست اور ظاہری دولت سے بے نیاز انسان تھے۔ اس لئے اہل قافتہ نے

# حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ

حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ روضہ وقدسہ پر زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو اس وقت افقان سے عبادی خلیفہ ہارون الرشید (۲۷۰ھ - ۲۹۳ھ) بھی وہاں حاضری کے لئے پہنچ گیا، ذہن میں اقتدار کا سودا سماں ہوا تھا اور ہر جگہ اپنی برتری قائم رکھنے کی زبردست خواہش شعور کی گمراہیوں میں بدلی ہوئی تھی، جو حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انگرائی لے کر بیدار ہو گئی جس کا اظہار اس نے یوں کیا کہ مواجہ شریف کے سامنے جا کر عرض کی:

**السلام عليك يا ابن عم اے میرے این عم! آپ پر سلام۔**

اس سے ہارون کا مقصد اپنی شہنشاہی وجہت اور امارت کے ساتھ اپنا نسبی قرب اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نسلی تعلق ظاہر کرنا بھی تھا، مگر اقتدار کے نشے میں وہ یہ بھول گیا کہ جس پیکر نور کو وہ یہ بات سارہا ہے، وہ ان کا بحتجاجا نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اور اس سے کہیں زیادہ قریبی اور نسبی تعلق رکھتا ہے۔

چنانچہ امام کاظم رضی اللہ عنہ اس کی آنکھوں سے پندرہ کا پروردہ ہٹانے اور اسے اپنی عذالت سے آگہ کرنے کے لئے آگے بڑھے اور نہایت ادب اور پیار سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی:

**السلام عليك يا اب! اے ابا جان! آپ پر سلام۔**

ہارون کے خطاب اور حضرت امام موسی کاظم رضی اللہ عنہ کے خطاب میں جو زمین و آسمان کا تقاؤت اور میں فرق تھا، اس نے ہارون کی آنکھیں کھوں دیں، وہ سمجھ گیا این عم کے مقابلے میں یا اب کئے والے کا مرتبہ بلند ہے۔ مگر شہنشاہ جلال اپنی یہ توہین برواشت نہ کر سکا، اقتدار کی پیشانی پر ٹاکواری اور ناراضگی کی سلوٹیں ابھر آئیں، حکومت کے نشے نے ازام لگایا کہ:

ہمیں بخدا و کھانے کے لئے ہمارے مقابلے میں اس انداز سے سلام کیا گیا ہے جو سرازیر

آپ دربار رسالت میں پہنچے تو اپنی والہانہ محبت اور خصوصی نوازش کی درخواست اس طرح پیش کی:

فی حاله بعد روحی کنت ارسلها  
تقبل الارض عنی وہی نائبی  
وھنہ دولہ الاشباح قد حضرت  
فامدد یمینک کے تحظی بھا شفتی  
”جب یہاں سے دور تھا تو اس حالت میں حاضری اور زیارت کی سعادت  
حاصل کرنے کے لئے اپنی روح، یہاں بیجھ دیا کرتا تھا وہ حاضر ہو کر نائب کی  
حیثیت سے یہاں کی پاک چونکھ اور آستانہ عالیہ کو بوسے دیا کرتی تھی۔

اب اس بار میں جنم لے کر بھی حاضر ہو گیا ہوں“ اور اس مرتبہ خواہش یہ  
ہے کہ حضور کے دست کرم کو بوسہ دوں“ عرض گزار دی ہے، تکہ کرم فرمائیے  
اور ہاتھ مبارک نکالئے، تاکہ میرے ہونٹ دست بوی کی لذت سے آشنا اور اس  
عظیم سعادت سے بہرہ اندوڑ ہوں۔“

اپنے ایک عاشق اور محبوب امتی کی اس عرض محبت کو، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے  
شرف قبول نہ کیا، دست مبارک نمودار ہوا، اور حضرت احمد رفائل  Rachael Al-Haddad نے بکمل ادب  
و شوق، اور انتہائی وار فتنگی اور بے خودی کے عالم میں اسے بوسے دیئے اور جذبات محبت کو  
تسکین پہنچائی۔

## حضرت حاجی امداد اللہ رضی اللہ عنہ

حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرم قرب و حضور اور محبت و شوق کی ننی  
منزلوں سے آگاہ ہوئے تو خصوصی عنایات ان کی طرف مبذول ہوئیں اور انہیں توجہ کا مرکز

حضرت شاہ صاحب نے اسی وقت راستے کے شناسبلدی لوگ بلائے اور انہیں بدائرت کی، کہ حاجی احمد اللہ صاحب کو رومت اقدس پر لے جائیں، اور ان کی خدمت کو سعادت جانیں نیز انہیں تنبیہ کی، اس سلمہ میں اگر ان سے کوئی کوئی تباہی ہوئی تو دین دنیا میں تقصیل اٹھاتا پڑے گا، حاجی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، جن کی خدمت کی جائے تو رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔

حضرت حاجی صاحب ان انتقلات کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں خیال آیا کہ اگر کوئی خدا رسید نیک بندہ ورود "تجھینا" کی اجازت عطا فریادے تو بڑی خوشی ہوئی، بلا طلب ایک خزانہ ہاتھ آجائے گا۔

آپ منزلیں ملے کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی کرم ﷺ کے دربار میں حاضر ہو گئے دل کی گمراہیوں سے سلام محبت عرض کیا۔ چونکہ بلائے ہوئے مسلم تھے بخصوصی حکم اور توجہ کے ساتھ طلب کئے گئے تھے، اس لئے سلام کے جواب سے شرف یاب ہوئے، اور میریان آقا ﷺ نے اپنے محبوب امتی کو سلام کا جواب مرحمت فرمائی کہ عزت کے عرش کمل اور محبت کے بام عروج تک پہنچاویا۔

جواب سے شلو کام و یامراو ہونا کوئی معمولی اعزاز نہ تھا، آپ لذت جواب اور سورہ باطنی سے سرشار ہو گئے، اور ان منزلوں تک جا پہنچے، جمال تک پہنچے رسائی نہ تھی۔

یہاں پر شاہ غلام مرتضی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن کے سامنے آپ نے دلی کیفیت کا اظہار کیا۔ "میرا دل چاہتا ہی کہ یہیں قیام کروں، اور ہندوستان والپیں نہ جاؤں۔ انہوں نے فرمایا! ابھی قیام کی اجازت نہیں، مبرو استھان سے کام لیں، اور طبیعت پر جبرا کے والپیں چلے جائیں، پھر دوبارہ طلبی ہوگی۔

وہیں آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو راستے میں دل کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ بلا طلب ورود نجات کی اجازت دے دے، چنانچہ شاہ گل محمد خان نے از خود ارشاد فرمایا کہ "ممکن ہو تو روزانہ ہزار بار، ورنہ تین سو ساٹھ بار، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو صرف آتنا لیں

## حضرت امام احمد رضا صابر ملیوی حجۃ اللہ علیہ

شر عشق، بریلی شریف کے کوچہ و بازار مک رہے تھے، اس کا ہر گوشہ والان باغبان اور کاف گلفروش بنا ہوا تھا مہانت و سنجیدگی، عقیدت و شائستگی کی ساری حسین قدریں سیئے، دلکش گماگہی پورے شباب پر تھی مگر احترام و محبت سے سب کی نگاہیں بھلی ہوتی تھیں اور پیشانیوں پر وہ نور تبلیغ تھا جو نیاز مندی کے حسن میں بجلیاں بھر دتا ہے۔

حملہ سوداگران خصوصی طور پر مسرت کے اجلالوں میں ڈوبا ہوا اور جذب و یقین کی خوبیوں میں بسا ہوا تھا، یہاں کا آسمان ہی بدلا بدلا اور وہاں ہی نزالی تھی، جانجا آئینہ بندیاں اور ندرت کاریاں تھیں جو حسن ذوق کے ساتھ حسن عقیدت کی غماز اور دل کی گمراہیوں میں بی ہوتی محبت کی عکاس و امین تھیں۔

جب نفر درود وسلام کے جلو میں ایک حاجی صاحب اپنے احباب و عشاق کے ہجوم میں نمودار ہوئے تو پتہ چلا یہ سب تیاریاں ان کے استقبل کے لئے تھیں۔

حاجی صاحب کی آمد کی اطلاع پاکر آسمان علم و حکمت کے نیر تبلیغ دنیائے عشق و محبت کے سلار اعظم، شیدائے ناموس ثبوت، محافظ دینِ مبین، مجدد برحق، امام الہشت و جماعت، قائد امت اجابت حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاشانہ عالیہ سے نمودار ہوئے اور والمانہ انداز سے حاجی صاحب کی طرف بڑھے، جیسے کوئے جیب کی فضاؤں کی سیر کر کے آئے والے اس محبوب دوست میں جذب ہو جانا چاہیتے ہوں۔

”کیا گنبد خضرا پر بھی خاضری دی؟“

آپ کے ہونٹوں پر سب سے پہلا سوال چلا جیسے اس سوال کے جواب پر ان کی عقیدت و نیاز مندی کا دار و مدار ہو، اور اس دربار کی حاضری ہی کو ایمان و یقین کی کسوٹی اور شرف و قبول کی علامت سمجھتے ہوں، کیونکہ اسی بارگاہ سے متاسک و ارکان حج کی فضیلت سے

اگریز ہو ائیں غیر فشل ہو گئیں۔

ہم مدینہ لے دیا چلنے کی نیم خلد  
سو زش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا پہنچی کیوں  
جب صبا آتی ہے مدینہ سے ادھر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر  
پھول جلد سے نکل کر باہر رخ رنگیں کی شا کرتے ہیں  
۱۳۲۳ھ میں اپنے بھائی صاحب کو الوداع کرنے کیلئے جہانی تک آئے، حج و زیارت  
کے لئے ان کے ہمراہ جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر روانہ کرتے وقت دل بے قرار کے  
صبر و خبط کے سارے بندھن نوٹ گئے۔

(الف) وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس  
رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر

(ب) لے رضا ب چلنے کو  
میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کے

(ج) پھر انھا ولولہ یادِ مثیلان عرب  
پھر کھنچا دامن ول سوئے بیلیان عرب

(د) حضرت میں خاک بوئی طبیبہ کی اے رضا  
پکا جو چشم مر سے وہ خون ناپ ہوا

چنانچہ وہیں سے دل کے بشورہ پر بھائی صاحب کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا مگر پھر  
والدہ صاحبہ کا خیال آیا، جن کی اجازت و رضامندی کے بغیر آپ کوئی کام نہیں فرمایا کرتے  
تھے اس نے دل غمگین کو سمجھاتے ہوئے والپس ہوئے اور بریلی شریف آکر والدہ محترمہ سے  
اجازت لے کر فوراً "بھائی صاحب کے پاس پہنچے خوش قسمتی سے اس وقت تک جہاز روانہ نہ  
ہوا تھا، گویا اس مردو روش، عاشق رسول اور خدا مست ہی کا منتظر قتل

رکن شاہی سے میں دشت شام غرب  
 اب مدینے کو چلو، صحیح دل آرا دیکھو  
 آب زمزم تو پیدا خوب بجھائیں پیاسیں  
 آؤ جو دشہ کوڑ کا بھی دریا دیکھو  
 رقص بیکل کی بہاریں تو منی میں دیکھیں  
 دل خون نبہ فشان کا بھی ترپنا دیکھو  
 غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا  
 میری آنکھوں سے میرے پارے کا روپہ دیکھو

بھینی سانی صحیح میں ٹھنڈک جگر کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟  
 معراج کا سلی ہے، کہاں پہنچے زائر کری سے اونچی کرسی اس پاک در کی ہے  
 ہاں ہاں رہ دھینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ۔ اوپاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے  
 سفر عشق اپنی تمثیر رعنائیوں اور قلب و نظر کی زیبائیوں کے ساتھ جاری رہا جس  
 خوش بختی کی اس معراج کا تصور، سینے کی اتحاد گمراہیوں میں نور مرست کے خزانے افڑی  
 تھا کہ کریم آقا ضرور کرم فرمائیں مگر عشق جتوں سالک کی بے خودی، شعور کی اس فریاد  
 پر غالب نہیں تھی کہ یہ رہ کوئے جیب ہے، جمل قدرت ہو تو سر کے مل جائیں سعلہ  
 اور تقاضائے ایمان و شناسائی ہے۔  
 اپنی خامیوں کے احساس کے پوجو دیوال سے راہ فرار اختیار کرنے یا گز بڑا ہوئے  
 کوئی جذبہ اور خیال نہیں تھا کیونکہ جانتے تھے، بے کسوں اور بے ہنروں کو یہیں پہنچا  
 بخشی جاتی ہے اور گنہ گماروں کو دامن کرم تلے چھپا لیا جاتا ہے۔

میں دبائے حاضر ہوئے تھے کہ جان تمنا اپنی کرم گستاخ فیاض شان کے باعث آنے والے غریب الدیار کو طلعت نور کے جلوہ بے حجاب سے ضرور سرفراز فرمائیں گے اور اس طرح نوازیں گے کہ دل و نگاہ حسن و نور کی جلوہ گھہ بن جائیں گے۔

اس لئے جب کوچھ جانش میں پہنچے تو طوف کوئے یار کے سواب کچھ بھول گئے اور شوق و صل میں سک در حضور کے چکر لگانے لگے تاکہ بندہ نواز کی نگاہ اٹھے اور ابدی سعادتوں کے در، مفتاح ہو جائیں، اور نورانی جلووں کے جلو میں، حسن کی خوشبوؤں میں بے ہوئے غلکت اٹھنے لگیں۔

پھر کے گلی گلی بیٹھے ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں  
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں  
دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی  
چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں  
سک در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے  
جاانا ہے سر کو جا پکھے، دل کو قرار آئے کیوں

دل کی گمراہیوں میں بھی ہوتی اس آرزو، اور طلب صدق کی شدت کا یہ عالم غاکر  
اس کے سامنے بلغ جناب کی دل آویز و دلکش نعمتوں کو شرف قبول بخشنے اور ان کے حق میں  
زیارت رسول کرم ﷺ کی دولت لا زوال سے دستبردار ہونے کے لئے بھی تیار نہیں تھے  
جمل یار کے مقابلہ میں جنتی نعمتوں کے خزف ریزوں کو منیر سمجھتے تھے چنانچہ انسیں برگ د  
بر کی ہاتھ خوبش قرار دے کر ان سے دلکش ہونے کا اعلان کر دیا۔

جنت نہ دین نہ دین تیری روست ہو خیر سے  
اس گلی کے گے کس کو ہوس برگ دبر کی ہے  
اس لئے بارگاہ خداوندی میں بعد الخالح و رازی، اور بہزار غلوص دنیاز التجاکی۔

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بھار پھرتے ہیں  
 جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در پدر یونہی خوار پھرتے ہیں  
 پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں  
 اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں  
 کوئی کیوں پوچھئے تیری بات رضا  
 تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

عشق کی اس فلاؤگی، شوق دید کی اس شدت و بے تابی اور انداز طلب پر محبوب علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام کو بھی رحم یا پیار آگیا، در مراد مفتوح ہو گیا جس کے لئے ایک عاشق صدق  
 نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، جلووں کی قدسی بارات میں وہ حسن نمودار ہوا، جسکی دید کے  
 لئے اہل سعادت و اصحاب نظر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اہل دل جس کے لئے آرزو مند  
 رہتے اور ایک جھلک کے لئے التجائیں کرتے رہتے ہیں جس کا ایک جلوہ دولت کوئین سے  
 بڑھ کر اور اہل عشق کے نزدیک عین ایمان اور روح سعادت و یقین ہے۔  
 بیداری کے عالم میں زیارت ہوئی اور آپ مقدار نیست کو اتنا قریب پا کر فرست  
 صرفت سے جھوم اٹھے۔

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گوچے بلادیئے ہیں  
 جب آگئی ہیں جوش رحمت پہ انکی آنکھیں جلتے بھا دیئے ہیں، روتے ہنسا دیئے ہیں  
 ان کے شار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں، سب غم بھلا دیئے ہیں

کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے، کہ شر دلبر کا ذکر آتے ہی آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، اور دل پھلو میں پھلنے لگتا تھا، وہاں کے باشندوں کو دیکھ لینے تو ندا ہو جاتے، اتنی خدمت کرتے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اگر کسی علی کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ کا دل پھٹ جاتا۔

پہنچ چلا سر زمین مجاز میں قحط پھیل گیا ہے، اور عرب کے باشندے سخت کرب میں جلا ہیں شاید قدرت اہل دل اور اہل درود عشق کا استھان لینے یا غیروں پر ان کے مقام و مرتبہ کی عظمت واضح کرنے ہی کے لئے ایسے حالات پیدا کرتی ہے۔

چنانچہ توقع اور دستور کی مطابق حضرت سید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے صبر و قرار لٹ گیا، اہل عرب کی تکلیف کے تصور نے بے چین کر دیا، اسی وقت ایک لاکھ روپے کا انتظام کیا، اور مجاز مقدس بھجوایا، اس وقت سکون نصیب ہوا جب محبوب کے شر کے باشندوں نے سکھ کا سامنہ لیا اور وہاں کی مقدس فضائق سے قحط کے آثار دور ہوئے۔ یہ عشق جسم، پیکر الفت و رحمت اپنے محبوب رسول کرم ﷺ کے گنبد خضراء کی زیارت، اور قلب حزین کی تسکین کے لئے عازم سفر جاز ہوئے۔

جس فرزانہ دیوانے کا ہے قرار دل محبوب کی یاد میں ہر وقت تذہار بتا تھا کوچہ جبیب میں پہنچ کر اس کے سوز و ساز اور مجرور نیاز کا کیا عالم ہو گا، اس کا آسمانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اہل نظر اس سلسلہ کا ایک چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں۔

باب السلام کے نزدیک ایک شخص نے مسند طیبہ کے کٹے کو لاثمی مار دی، لاثمی اس نور سے گئی کہ وہ غریب چلا اٹھا اور درود سے بلباتا ہوا ایک طرف بھاگ گیا اتفاقاً۔ آپ اور ہے تشریف لے آئے، کٹے کی یہ کیفیت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، جب سارا حال معلوم ہوا تو یارائے ضبط نہ رہا، انکلبار آنکھوں کے ساتھ اس نکاح کو دیکھا جس کے ہاتھ محبوب کی گلی کے مسکین کتے پر اٹھے تھے، بہت بہم اور افسرہ خاطر ہوئے اور فرمایا:

# حضرت شیخ الحدیث محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ

یہ ۱۹۵۳ء کا ذکر ہے۔

جمعۃ البارک کا دن تھا۔ شر کے مختلف محلوں اور نواحی بستیوں سے لوگ پروانوں کی طرح حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے اور آپ کے ایمان افروز بیان سے قلب و روح کو گرمانے کی خاطر سنی رضوی جامع مسجد کی طرف الٹے چلے آ رہے تھے، نمازوں کی آمد کا سلسلہ آخر تک جاری رہتا تھا وسیع و عریض رقبہ کے پار جو رضوی مسجد، آئنے والوں کے لئے ناکافی ہو جاتی تھی، چنانچہ بعد میں پہنچے والوں کو بازار اور دکانوں کی چھتوں پر بیٹھنا پڑتا، ہر جعد یہ حیرت افرا اور ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آتے، اور لوگ نماز سے فارغ ہو کر اٹھ اٹھ کے انسانوں کے اس سمندر سے مخلوق ہوتے، اور اس مشاہدے سے طبیعت میں عجیب قسم کا اسلامی ولولہ اور جوش و جذبہ محسوس کرتے۔ ہر جمعۃ البارک کے یہ پر جلال اور شوکت آفرین اجتماعات، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ولولہ انگیز خطابات حقیقت میں اسلامی شوکت و جلال اور ایمانی قوت و جبروت کے بہترین مظاہر اور ایمانی غیرت اور دینی حیثیت حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ تھے، آئنے والے نہ صرف عظیم اجتماع سے متاثر و مرعوب ہوتے بلکہ ولی کامل کے بیان و خطاب سے گزرے اور انتقالی اثرات بھی قبول کرتے۔

حضرت شیخ الحدیث کی تشریف آوری سے پہلے جامد رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد کے طلباء مائیک پر قابض رہتے تھے وہ باری باری تقریر کرتے اور ہزاروں کے اجتماع سے جوش بیان و انداز خطاب کی داد و صول کرتے، انکی یہ تقریں بولنے کا ذہنگ سیکھنے اور فن خطابت میں کمل حاصل کرنے کی خاطر ہوتی تھیں، بیان و خطابت کافن سیکھنے کے لحاظ سے یہ جگہ ایک سعل اور کامیاب کارخانہ تھی، دیکھنے میں آیا، جس طالب عالم نے یہاں بے بھکپ اور بے تکان بولنے کی استعداد بہم پہنچائی۔ وہ کسی جگہ بھی ناکام نہ رہا بلکہ عظیم اجتماعات میں بھی

اور دیکھنے والوں کو بے خود بیٹھتی اور مسحور کر لیتی تھی۔

صورت حال ایسی تھی کہ وجہ معلوم کرنے کے لئے نہ صرف آپکی طرف دیکھنا پڑا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اف خدا! میں رزگیا، بے قرار و مضطرب نگاہیں اپنے سرخ ڈوروں اور تمام گمراہیوں سمیت میرے سینے میں اتر گئیں، نجات کیا بات تھی، میں مبہوت ہو گیا، اور کچھ بھی سمجھ نہ سکا۔

آپ نے میرے چہرے پر نگاہیں گاؤ کر فرمایا:

”تمہیں معلوم ہے ہم فریضہ حج ادا کر لے ہیں، اب ہماری ذمے وہ فرض بلتی نہیں، اس وفعہ تو صرف دربار رسالت کی حاضری اور گندہ خدرا کی زیارت پاک کی نیت سے جا رہے ہیں، اس مقدس حاضری کے صدقے میں ارکان حج اور دیگر عبادات کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی، اس لئے یہ اعلان کرو، کہ ہم حضور نبی کریم رَوْفُ وَ رَحِیْمَ پیکر نور و رحمت تاجدار عرب و عجم محبوب رب العالمین ﷺ کے دربار کی حاضری کلئے جا رہے ہیں۔“

میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس وقت نخا ساز، ہن، اور محدود شعور، اس ارشاد کی بر وقت کوئی توجیہ نہ کر سکا اور نہ کوئی حکمت سمجھ میں آئی اگرچہ آپکی نورانی و روحانی صحت، شب و روز کی رفاقت، فیض نگاہ اور عمومی و خصوصی اجتماعات میں آپکے ارشادات نے یہ شعور بخش دیا ہوا تھا کہ عشق رسالت اور اس میں کلی فتحیت ہی سعادت و نجات اور قرب و حضور کی ضامن ہے اور حرم اقدس تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے، مگر اس عشق کے آواب اور نازک تقاضوں سے آگہی نہ تھی اس لئے حضرت کے ارشاد کی حکمت سمجھنے سے قاصر رہا، مگر آج سب کچھ عیاں ہے، اور حضرت کے جذبے عشق کی سلامت روی اور بلندی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔

یہاں یہ بتاریتا ہے جا نہیں کہ ۱۹۳۵ء کے قرسی زمانے میں حضرت شیخ الحدیث کو کسی قاتل پر نمایاں برتر حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے علمی میدان میں اسے ایسا چھاڑا کہ اُنھنے کے قتل نہ رہا، آپ کی اس فتح مندی پر آپ کی مرشد برق، استاد جلیل حضرت حامد رضا قدس سرہ

حضرت شیخ الحدیث اس عالم کیف و سورہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں جم کر بینہ گئے، اس وقت زبان قل، چپ تھی اور زبان حال کہہ رہی تھی۔ سکول گدائی سامنے رکھ دیا ہے۔ فقیروں کا روپ دھار لیا ہے، اور آس لگا کر بینہ گئے ہیں، اب خالی جھوٹی بھرتا اور نوازا آپ کا کام ہے۔

ایسا کامل و صادق گدا اگر اس بارگاہ سے آج تک مایوس و ناکام نہیں لوٹا، جب تک حاضری نصیب رہی، آپ پر یہی عالم طاری رہا اور اس دوران وہ سب کچھ پالیا جس کی حضرت اور تمنا تھی، تجلیات دور ہو گئے، انوار، قلب و نگاہ میں سٹ آئے اور ایمان نے وہ مقام حاصل کر لیا جسے یعنی الیقین کہتے ہیں۔ آپ شاد و با مراد وطن واپس لوٹے۔

٥٣٦	بخاري شريف	(٢٦)	٩٩٣-٢	بخاري شريف	(٨)
٣١٩	تاریخ ابن اثیر	(٢٧)	٩٥٣-٢	بخاري شريف	(٩)
	بخاري شريف	(٢٨)	٩٥٢-٢	بخاري شريف	(١٠)
٥٨٥-٥٠٨			- - - - -	- - - - -	(١١)
٦٣٨-٢		(٢٩)	٩٥٣- - - -	- - - - -	(١٢)
	البداية والنتيجة	(٣٠)	٩٥١- - - -	- - - - -	(١٣)
٢٣٨-٥			١٧٠-١	- - - - -	(١٤)
٦٣٨-٢	بخاري شريف	(٣١)	٢٨٢-١	- - - - -	(١٥)
٨٣٦-٢		(٣٢)	٥٩١-٢	- - - - -	(١٦)
٨٣٦-٢		(٣٣)	٩٥٦-٢	- - - - -	(١٧)
٨٣٦-٢		(٣٤)	٥٢٥-٢	- - - - -	(١٨)
	البداية والنتيجة	(٣٥)	٣٣٩-١	- - - - -	
٢٢٨-٥			٢٥-٨	ابن سعد	
٦٣٩-٢	بخاري شريف	(٣٦)	٣٣٢	وقاع الوقائع	(١٩)
٦٣٧-٢		(٣٧)	٦٣٧-٢	قرآن مجید - آزاد	(٢٠)
	البداية والنتيجة	(٣٨)	٥٢٦	بخاري شريف	(٢١)
٢٣٧-٥			٣٨٩- - - -	- - - - -	(٢٢)
٩٥-	أصول كافى باب العالم	(٣٩)	١٧٩-١	أصول كافى باب العالم	(٢٣)
	والمعتمد من لامبرت القمي	(٤٠)	١٧٩-١	البداية والنتيجة	
٢٣٣-٥			٢٣٦-٢		
٣٣٠	ابن مثام	(٤١)	١٧٩-١	بخاري شريف	(٢٤)
	البداية والنتيجة	(٤٢)	١٧٩-١	سیرت ابن مثام	(٢٥)
٢٣٢-٥			٣٢٠-٣		
٣٣٠	ابن مثام	(٤٣)	٣٢٠-٣	البداية والنتيجة	
٥١٢	بخاري شريف	(٤٤)	٢٢٣-٥		
	بخاري شريف	(٤٥)	٢٢٣-٥	جعفر الله علی العالمين	
٦٣٩-٩٥			٢٠٥		

- |  |  |
|--|--|
| <p>٥٣٠ . ٥٠١ - ١<br/>كتاب الغر، ١ - ٥٣<br/>---<br/>٥٩٠ - ١ - ---<br/>جلاع الحيون، ١٥٥<br/>بخاري شريف، ٥٢٦<br/>حق العقين، ملابتر مجلسي،<br/>٢٣١<br/>بخاري شريف، ٥٢٦<br/>---<br/>٣٣٥ - ---<br/>كتاب الغر، ٣٣ - ٢<br/>كتاب الغر، ٣٣ - ٢<br/>البداية والنتهاية،<br/>٢٨٩ - ٥<br/>طبقات ابن سعد، ١٧ - ٨<br/>شرح نجاح البلاغة، مسمى<br/>جراتي، ١٠٧ - ٥<br/>جنت الله على العالمين،<br/>٧٥٦<br/>بخاري شريف، ٢٣١ - ٢<br/>قرآن حكيم، اتفاق، ١<br/>قرآن حكيم، اتفاق، ٣٠<br/>قرآن حكيم، المشرفة،<br/>ابوداود، ٥٧ - ٢<br/>بخاري شريف،<br/>٣٣٧ - ٣٨٩<br/>بخاري شريف، ٥٢٦<br/>أصول كافي، باب العالم         </p> | <p>٢٨ - ٢<br/>البداية والنتهاية،<br/>٢٣٨ - ٥<br/>نجاح البلاغة، ٣٣ - ٥١٩<br/>بخاري شريف، ١٠٥٨ - ٢<br/>قرآن مجید،<br/>بخاري شريف، ١٠٥٨ - ٢<br/>البداية والنتهاية،<br/>٢٥٣ - ٥<br/>بخاري شريف، ٦٣١ - ٤<br/>الأنوار الحمدية، ٥٩٣<br/>شواحد الحق، ٩٣<br/><b>چو تھا باب</b><br/>ترمذی، ابواب الناقب،<br/>---<br/>بخاری شريف، ٢٨ - ١<br/>سورة توبہ، ٣٠<br/>عمدة القاری، ١٤٣ - ٢<br/>ترمذی شريف، ٢٠٧ - ٢<br/>بخاری شريف، ١٨٨ - ١<br/>البداية والنتهاية،<br/>٣١٥ - ٦<br/>الکامل ابن اثیر، ٣٢٢<br/>البداية والنتهاية،<br/>٣٢٥ - ٦<br/>بخاری شريف،<br/>(١٦) الاستیاع<br/>(١٧) البداية والنتهاية<br/>(١٨) نجاح البلاغة<br/>(١٩) بخاري شريف<br/>(٢٠) قرآن مجید<br/>(٢١) بخاري شريف<br/>(٢٢) البداية والنتهاية<br/>(٢٣) بخاري شريف<br/>(٢٤) الانوار الحمدية<br/>(٢٥) شواحد الحق         </p> |
|--|--|

٢٨٥-----		٣٢٣-٢-----	(٤٤)
٣٥٣-----		٣٢٣-٢-----	(٤٧)
٢٨٦-----		ترمذی . ابواب المناقب	(٤٨)
٣٤٣-----		ابن ابي شریف	(٤٩)
١٥٩ (١٣)	ترمذی شریف	-----	(٤٠)
١٣٠ (١٥)		-----	(٤١)
٣٣٨-١ (١٦)	بخاری شریف	-----	(٤٢)
٢١٠-٢ (١٧)	ترمذی	٣٢٣-----	(٤٣)
مناقب عمر		بخاری شریف	(٤٣)
٣٦٥-١ (٢٠)	بخاری شریف	تفہیر کبیر امام رازی	(٤٥)
٥٢٠-١ (٢١)	بخاری شریف	٣٢٥-٥	
٢٢٣-٢ (٢٢)		پانچواں باب	
بخاری شریف	٢٢٥-٢	الحدائق	(١)
٥٢٩-٢ (٢٣)		٦٦٩-٣	
٤٣٧-٢ (٢٥)		١١٣-----	(٢)
٤٣-٣ (٢٦)	طبقات ابن سد	القاروۃ عمر حنین میکل	(٣)
٤٣ (٢٧)	فروع کافی جلد ثالث	٣٣	
کتاب الصنایا باب		کتاب البیان واتسون	(٣)
النواور		٢٧-١	
کشف الغمہ	١٥٧-١ (٢٨)	فتح البلدان	(٥)
٣٨٣-٣٧٨-١ (٢٩)		القاروۃ عمر حنین میکل	(٦)
جلاء الہیون	١١٣-	٣٣	
اصول کافی	٢٩٢-	الکتاب البیان واتسون	(٧)
جلاء الہیون	٣٩٧-	١-٦٩	
کشف الغمہ	٢٤٣-١ (٣١)	طبقات مددراک	(١١٣٨)
فتح بلاغہ	٢٤٢-٢ (٣٢)	بخاری شریف	(١٢)
شرح نیقیع الاسلام	٣٠٦-	٣٢٣-----	(١٣)

- ساتواں باب
- |                   |   |
|-------------------|---|
| (۳۱)              | رطہ ابن بوط، ۷۷   |
| (۳۲)              | رطہ ابن جبیر، ۱۶۹   |
| (۳۳)              | وقاء الوفاء، ۳۱۶  |
| (۳۴)              | —، ۳۳۷  |
| (۳۵)              | مطاع المرات، ۱۳۸  |
| (۳۶)              | وقاء الوفاء، ۳۳۶  |
| <b>ساتواں باب</b> |   |
| (۱)               | شرح الزرقانی علی المواهب محمد بن عبد الباقی، ۸-۳۱۰  |
| (۲)               | مسلم شریف، ۲-۳۹۳  |
| (۳)               | تاریخ الخطاء، ۳۵۰   |
| (۴)               | وقاء الوفاء، ۳۰۰  |
| (۵)               | البدایہ والنهایہ، ۱۳-۱۸   |
| (۶)               | حمدۃ الاخبار، ۱۲۸   |
| (۷)               | سوائی حیات سلطان عبد العزیز ابن سوڈ، آل عزیز، آل سوڈ، مرتبہ سید سردار محمد حنی لی اے                                |
| (۸)               | آزرز مطبوعہ ہاؤڑہ   |
| (۹)               | الیٹرک پرنس جاندھر،   |
| (۱۰)              | الدرر النیہ، سید احمد زینی وطن، ۳۲  |
| (۱۱)              | سوائی حیات ابن سود،   |
| (۱۲)              | الدرر النیہ، ۳۳   |
| (۱۳)              | ایضاً، ۳۱   |
| (۱۴)              | سوائی ابن سود، ۹۳   |
| (۱۵)              | الشہاب الثقب، ۹۵  |
| (۱۶)              | خارج قرن الثاني عشر، ۱۲۷  |
| (۱۷)              | الشہاب الثقب، ۳۲-۳۵   |
| (۱۸)              | سوائی ابن سود، ۳۲   |
| (۱۹)              | خارج قرن الثاني عشر، ۱۲۶  |
| (۲۰)              | سوائی ابن سود، ۳۲   |
| (۲۱)              | ایضاً، ۳۳   |
| (۲۲)              | الدرر النیہ، ۳۰   |
| (۲۳)              | الشہاب الثقب، ۳۲  |
| (۲۴)              | الدرر النیہ، ۳۰   |
| (۲۵)              | ایضاً، ۳۱   |
| (۲۶)              | کچھ عرصہ قبل حکیم غلام معین الدین نے اے شائع کیا تھا اپنے حال ہی میں ترکی سے اس کے کافی نئے پاکستان پہنچ ہیں جو منت |

- (۷۵) اخبار سیاست کانپور، دسمبر  
 اول ۲۲ (۹۰) فتاویٰ رشیدیہ، قرآن  
 مکمل ۲۳۵ (۹۱-۹۲-۹۳) نوابے وقت لاہور - ۱۱ مئی ۱۹۵۵
- (۷۶) نوابے وقت لاہور - ۲ فروری ۱۹۵۵  
 بخاری شریف ۵۰۸ (۹۲) الدررالنیہ ۵۱ ۱۹۵۵
- (۷۷) روزنامہ کوہستان - ۲ فروری ۱۹۵۶ (۹۳) مسلم شریف ۳۹۰-۲ ۱۹۵۶
- (۷۸) روزنامہ بخاری شریف ۷۵ (۹۴) بخاری شریف ۵۰۹-۱ ۱۹۵۶
- (۷۹) روزنامہ جگ کراچی ۱۹۵۶ (۹۵) بخاری شریف ۳۵۳-۱ ۱۹۵۶
- (۸۰) روزنامہ کوہستان - کم فروری ۱۹۵۶ (۹۶) بخاری شریف ۳۷۲-۱ ۱۹۵۶
- (۸۱) هفت روزہ میل و تمارے جولائی ۱۹۵۶ (۹۷) بخاری شریف ۵۰۹-۱ ۱۹۵۶
- (۸۲) روزنامہ کوہستان ۲، ۲۵۲-۱ (۹۸) بخاری شریف ۵۱۰-۱ ۱۹۵۶
- (۸۳) نوابے وقت ۲ مئی ۱۹۵۸ (۹۹) بخاری شریف ۳۲۳-۱ ۱۹۵۶
- (۸۴) کوہستان ۹، ۱ اکتوبر ۱۹۵۶ (۱۰۰) بخاری شریف ۳۶۱-۱ ۱۹۵۶
- (۸۵) کوہستان، کم فروری ۱۹۵۶ (۱۰۱) بخاری شریف ۱۱۸۲-۲ ۱۹۵۶
- (۸۶-۸۵) (۱۰۲) بخاری شریف ۵۰۹-۱ ۱۹۵۶
- (۸۷) کوہستان، ۷ فروری ۱۹۵۶ (۱۰۳) بخاری شریف ۵۱۰-۱ ۱۹۵۶
- (۸۸) خوارج قرن الٹنی عشر (۱۰۴) بخاری شریف ۳۷۲ ۱۹۵۶
- (۸۹) الدررالنیہ ۳۶۲ (۱۰۵) بخاری شریف ۵۱۰-۱ ۱۹۵۶
- (۹۰) اشباب الٹقب باب ۱۱۸۲ (۱۰۶) بخاری شریف ۱۱۸۲-۲ ۱۹۵۶

- (٢١) ترمذی ٣٨٠  
 مکھوت، کتاب الجہاد،  
 ٣٣٣
- (٢٢) مکھوت، ٢٢٠  
 بخاری شریف، ١٥٩
- (٢٣) مسلم شریف،  
 شفاء القائم، ١٠٥
- (٢٤) احیاء العلوم کتاب آداب  
 السنن باب اول،  
 ٢٣٧-٢
- (٢٥) بخاری شریف،  
 شفاء القائم، ٢١
- (٢٦) اقرآن الکریم، ٣٠-٩  
 احیاء العلوم کتاب آداب
- (٢٧) بخاری شریف،  
 المسجد،  
 بخاری شریف،  
 ٢٢٥-٣٩٩
- (٢٨) بخاری شریف،  
 ٢٨٢-٢١٣
- (٢٩) بخاری شریف،  
 ٢١٣-٣٧٣-٢١٨
- (٣٠) بخاری شریف، ٢٨٢
- (٣١) بخاری شریف، ٢٣٨
- (٣٢) بخاری شریف، ٢٨٥  
 ارشاد الجاد،  
 باب فضل کم، ٢٢
- (٣٣) بخاری شریف، ١٧٩
- (٣٤) بخاری شریف، ٥-١
- (٣٥) بخاری شریف، ٢٢٩  
 حاشیہ مکھوت، ٢٩
- (٣٦) بخاری شریف، ٦٣٩
- (٣٧) بخاری شریف، ٦٣٩  
 بخاری شریف،  
 بخاری شریف،  
 ٥٣٧

علم و ادب اور فکر و فن کا حسین امترانج  
 ☆ حدیث فتنی کا راہ میں سگھے میل ☆  
 عصر حاضر کا علمی، ادبی اور فنی شاہکار

## منهج البخاری

تصنیف: محمد معراج الاسلام ایم اے

شیخ الحدیث اسلام بیرونی شیخ لاہور

۱ بخاری شریف کو لغوی و معنوی علمی و فکری فتحی و احتجادی فتحی اور تاریخی اور دیگر مختلف پستوں سے بڑے حکیمانہ انداز میں سمجھنے کے لئے ایک جامع

اور مریوط شرح

۲ الفاظ و تراکیب کی لفظی و معنوی تشریع، تاریخی و اقتضات اور میں مذکوری روشنی میں، احادیث کی تفصیل، ترجمہ اور ترجمانی کا اچھوٹا انتہائی انداز

۳ مدلل، دلکشا، سلیس، ولشین اور رواں دواں اسلوب تحریر

۴ عشق و محبت، روحانیت و تورانیت اور علیمت و بلافت کا بستا ہوا قلم

۵ ان پاڑوں علماً، ذیجن طلیاء اور روشن فکر اہل علم کے لئے جو بخاری شریف کو فتحی پار کیے گئے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں

☆ پہلی فرست میں پڑھیں اور قلب و نظر کو جلا جنشیں ☆

اپنے شر کے کسی بھی اسلامی کتب خانے سے طلب کریں یا ہمیں کسیں

مناج ابغاری (جلد اول) مقدمہ اور باب الوجی قیمت 200.00 روپے

مناج ابغاری (جلد دوم) کتاب الایمان قیمت 120.00 روپے

سے بڑے حکیمانہ انداز میں دئے گئے ہیں، جس سے مسئلہ استرداد بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

**چوتھا باب** اس میں اعمال خیر، حنات اور نیکیوں کو وسیلہ بنانے کا ذکر ہے۔

**پانچواں باب** اس میں تبرکات کی اہمیت و حرمت، ان میں موجود تاثیر و بیزکت اور ان کو وسیلہ بنانے کی وضاحت ہے۔

**چھٹا باب** اس میں اکابرین امت کے نظریات و عقائد اور ان کے تجربات و معمولات و مشاہدات کا بیان ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عمل توسل، اولیاء کرام میں مروج رہا ہے اور فتوحات کی کنجی ہے۔

**ساتواں باب** اس میں توسل کے موضوع پر حکایات و واقعات مذکور ہیں، جن سے عقیدے کو جلا اور روح کو تسکین ملتی ہے۔

130.00 روپے

## وسو سہ کیا ہے؟

(۱) مقام و سو سہ یعنی - حضرت دل - کی حیرت انگیز خاصیت۔

(۲) و سو سہ انداز شیطانی عناصر کی نورانی فرشتوں کے ساتھ زبردست جگ۔

(۳) شیطانی قتوں سے دل کو بچانے کی روحانی تدابیر۔

(۴) حدیث کی معتبر کتاب - مکھوت شریف - کے باب الوسوس کی ستم خیر

اور الوسوس کے تمام پلاؤں پر حاوی مفصل شرح۔

○ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز تحریر۔

○ الوسوس کے نفیاقی مریض اسے پڑھ کر اس مصیبت سے چھکارا

حاصل کر سکتے ہیں۔

25.00 روپے

عشق رسول اللہ ﷺ سے آباد اور منور دل رکھنے والے  
سعادِ تمدن و کے حضور عشق و محبت سے لبریز تحفہ  
گند خپڑا کی تعمیر اس کی مکمل تاریخ، زیارت کی  
شرعی حیثیت، زیارت کے آداب، اعتقادی و نظریاتی  
مباحث اور دیگر گوناگوں مسائل و واقعات کا  
وچکپ، علمی خیال افروز اور پلا جامع تذکرہ

# گند خپڑا اور اس کے مکیں

جس کے مطالعے سے قلب و روح میں محبت کا طوفان اٹھ آتا ہے

- ۱ - روشنہ اطہر کماں تعمیر ہوا؟
- ۲ - تعمیر و تولیت میں حصہ لینے والے "اویاء و خلفاء و سلاطین" اور "روضہ اقدس" کے اندر ر مدفن ہونے کا اعزاز اپانے والی معزز شخصیات کا تعارف اور ان کے تاریخی کارنائے
- ۳ - وصال اقدس سے پانچ روز پہلے کے اہم واقعات اور عسل و تدفین کی تفصیلات
- ۴ - وصال شریف کے بعد مدینہ منورہ میں پا ہونے والی قیامت صفری

# مسجد نبوی

مسجد اسلام میں عبادت کا ہی نہیں، تعلیم و تربیت کا گوارہ بھی ہے، اسی لئے حضور ﷺ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، بذات خود اس کی تغیر میں حصہ لیا اور بعد میں اس کی توسعہ بھی فرمائی، یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی، اہل دل کا قبلہ، مرکز نگاہ اور محبتوں کی جلوہ گاہ ہے، وہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے اس کی زیارت کے لئے آتے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں۔

☆ مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ علم ہے کہ.....


- یہ مسجد کن تغیراتی مراحل سے گزری
- کن خلفاء اور شاہان و سلاطین نے اس کی تغیر و توسعہ میں حصہ لیا
- اس مسجد میں کیسے کیسے نادر روزگار و اقدامات پیش آئے
- حضور ﷺ نے اس میں کون کون سے اہم مسائل بیان فرمائے
- منبر شریف کب بیایا گیا اور اس پر آپ نے کیا کیا خطبات دیئے

اپنے محبوب نبی کی اس پیاری مسجد کے بارے میں ایسی ہی نادر، حیرت انگیز اور حسین ترین معلومات حاصل کرنے کے لئے اہل علم حضرات خصوصاً علماء اور طلباء کے لئے ایک دلچسپ علمی ادبی تاریخی اور ایمان افروز مجموعہ قیمت 100.00 روپے

وقت کے تقاضوں کے مطابق  
آسان علمی و ادبی اور حسین پیرائے میں لکھی گئی ہماری

## درسی و فنی کتب

- ☆ مناج البلاغة 100 روپے
- ☆ طریق الصرف 20 روپے
- ☆ طریق النحو 60 روپے
- ☆ مصدر نامہ 25 روپے



## دروسِ سُمَّ اللَّهُ

طلباء و خطباء اور اہل ذوق کے لئے دانش افروز معلومات  
تفیری نکتے۔ وظائف و حکایات۔ دروس و خطبات  
قیمت 36.00 روپے

## سچنڈ نبوی

سچنڈ اسلام میں عجائب گھر، عی قصیں، نظیم و نسبت کا گواہ، عی  
حضور پروردگار نے اپنے سے پہلے سچنڈ نبوی کی تبلیغ کی۔  
لیکن اور بعد میں اس کی تو سچ بھی فروائی۔ لیکن  
قشیدت مركز رکا، اور بھروس کی جلوہ کا، تے دوستی کی  
اس کی زیارت کے لئے آئے اور وہ حضرت اکبر کے ساتھ  
مکرمت سکم لوگ جانتے ہوئے

(۱) مخد کن تعمیراتی حوالہ سے اگر انہوں نے

(۲) کن خلافاء اور علماں و علمائیں کئے

(۳) اس سچمن کیسے کئے تاریخ و ادب میں

(۴) حضور پروردگار نے اس شکار کا کیا

(۵) سیر شرف اکبر ایسا کیا کیا اور اس کی

کیسے حبیبی کیا

حضرت اکبر اور حسن بن عاصی